

تاریخِ مِلّت

جلد ششم

خِلافِ نَبیِّ عِبْرَائِیل

حصہ دوم

متوکل باللہ سے مستعصم باللہ تک

تالیف

مفتی انتظام اللہ شہبازی اکبر آبادی

بمبئی نیشنل پبلسیشنز
بندوبست آمین دہلی

سلسلہ ندوۃ المصنفین

(۳۹)

تاریخِ ملٹ

جلد ششم

خلافتِ بنی عباس

حصہ دوم

جس میں اٹھائیس عباسی حکمرانوں متوکل سے لے کر مستعصم تک کے تمام تاریخی حالات ایک خاص اسلوب سے جمع کیے گئے ہیں، اسی کے ساتھ سلاطین بویہ، سلاجقہ، زنگی، ایوبی، علویین اور باطنیہ وغیرہ کی تاریخ کا جامع خلاصہ بھی

پیش کیا گیا ہے

مصنفین اردو بازار روہی
ندوۃ

۱۳۶۹ھ

مکتبہ جدیدہ
جو کہ انارکلی
لاہور ۱۹۵۰ء

تذکرہ مشائخ و علماء ہند

(۴۰۰)

تذکرہ مشائخ و علماء ہند

قیمت غیر مجلد چار روپے ہارمنے

قیمت مجلد پانچ روپے

۲۹۲۵۹
۲۹۲۵۹

۲۸۱۵۷-۶

۷.۶

مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی

مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی

مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی

مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی

مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی

مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی

مہرست مابین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۲۷	واقعہ	۱۶	سلمان قیدیوں کا تبادلہ	۹	خلیفہ المتوکل علیٰ آلعباس	مضمون
"	قظم مملکت	۱۷	مصر پر عیاشی کی پوش	"	تمام و نسب	"
"	عمال کی تفصیل	۱۸	نوعیات	"	تعلیم و تربیت	"
۲۸	پولیس	"	عیاشی بن فضل کے جہاز	"	خلافت	"
"	وزارت	۱۹	کاروائے	۱۰	نظم عمال	"
"	قاضی القضاات	۲۰	فتح قصر لاندہ	"	امیارسنت	"
۲۹	نظام البیات	۲۱	سندھ	"	مدرس متوکل از ابو بکر بن	"
"	رعایا کے سلوک	۲۲	دیپہدی کا سندھ	۱۱	النجبازہ	"
۳۰	مدل	"	طوین	"	ہلاکت ابن زیات	"
"	رواداری	۲۳	متوکل کا واقعہ قتل	۱۲	ابن بسیت کی بغاوت	"
"	ملک کی آسودہ حالی	۲۵	سیرت	"	قدیم محمود بن فرخ نیشاپور کی	"
۳۱	رسوت ستانی	"	ذہب	۱۳	بطارقہ از سنیہ کی شوہر	"
"	رفاہ عام	"	صلوات کے عقیدت	۱۴	دولت یعفریہ	"
"	خزانہ	"	عیش و عشرت	"	یعقوب بن بسیت سناری	"
۳۲	ستزل کا آغاز	۲۶	سخاوت	۱۵	رد مہوں کا حملہ مصر پر	"
"	فوج	"	فیاضی ہرل عدال	۱۶	اہل مہص کی بغاوت	"

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱	بیعت خلافت	۳۳	خلیفہ محمد بن جعفر اللقب	۳۳	سامرہ
"	علوین	"	بہ مقصر باشد	"	جعفریہ کی تعمیر
۵۲	طبرستان میں دو علویہ	"	نام و نسب	"	تعمیر محل کی داستان
"	رومی سرحد	"	بیعت خلافت	"	خلق قرآن
۵۳	نظم مملکت	"	وقائع	"	علمی ترقی
"	وزراء	"	ابوالعمود شاذلی کا خروج	"	اشاعت علوم دینی
"	قضاة	"	مخوفات	"	علوم عقائد کی ترقی
۵۴	وقائع	"	وزارت	"	حکیم
"	مستعین کی معزولی	"	منصب قضاة	"	علم تاریخ
۵۶	قتل مستعین	"	اتراک کا اقتدار	"	جعفریہ
"	حلیہ	"	صفات متصیر	"	حیاتیات
"	اوصاف	"	حلیہ	"	کتب خانہ
۵۷	علماء معاصر	"	واقعه عبرت	"	بیعت الحکمت
۵۸	خلیفہ معمر ابو عبد اللہ	"	باپ کے قتل کا غم	"	علماء معاصرین
"	نام و نسب	"	وفات	"	محدث و فقہاء
"	تعلیم و تربیت	"	خلیفہ مستعین باشد	"	ملوک طاہریہ
"	وزارت	"	ابوالعباس احمد عباسی	"	دولت صفاریہ
"	علوین	"	نام و نسب	"	دولت بہاریہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱	عجبت اہل بیت	۷۱	نام و نسب	۵۵	وصیف و بقا کی معزولی
"	حلیہ	"	بیعت خلافت	"	نائب سلطنت
۸۲	خلیفہ مقتدر علی السعد	"	وقائع	۶۰	مغاریب اور اتراک
"	نام و لقب	۷۲	وزارت	"	حالات مساور خارجی
"	تعلیم و تربیت	"	قاضی	۶۱	اصناف
"	بیعت خلافت	۷۳	حجابت	"	حلیہ
"	وزارت	"	فتنہ مساور خارجی	"	خلع خلافت
۸۳	عامل مشرق	"	فتنہ صاحب الزنج	۶۲	آخری زمانہ
"	قنار	۷۵	موسیٰ بن بنا	"	وفات
"	حجابت	۷۷	صالح کا قتل	۶۳	ناکام حکمرانی
"	طوائف الملوکی	"	وفات	"	علمائے عصر
"	والی شام کی بناوت	۷۸	زوال سلطنت عباسیہ	"	دولت طولون اور دور
۸۴	شورش صاحب الزنج	"	صفات متدی	۶۴	آل محمد
۸۶	واقعات احمد بن طولون	۷۹	زہد و ورع	۶۶	اطروش علوی
۸۷	شورش سرحد	"	لباس صوف	۶۷	دولت زیدیہ
"	واقعات صقلیہ	۸۰	عدل و انصاف	۶۹	دولت طولونیہ
۸۸	احوال غازیین	۸۱	علماء کی قدردانی	"	مصر میں دو طولونیہ کا قیام
۸۹	اسمعیلیہ	"	اتباع سنت	۷۱	خلیفہ متدی بالسر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۳	وفات	۱۰۴	علمی ترقی	۸۹	باطنیہ
۱۱۴	اصناف	۱۰۵	خلیفہ المعتمد باللہ	۹۰	قرامط
۱۱۶	سیاست		نام و نسب	۹۱	دعوت قرامط
۱۱۷	انتظام مملکت		بیعت خلافت	۹۲	دقائق قرمطی
۱۱۸	یومیہ خرچ		وزارت	۹۳	دولت سامانیہ
۱۱۹	تعمیر قصر		حجابت	۹۴	ولیعہدی
۱۲۰	مشرکانہ رسوم کی بندش		تقضا	۹۵	حالات موفق عباسی
۱۲۱	مذہبیت		شہنہ بغداد	۹۶	خانیفہ کی حالت
۱۲۲	اصلاح	۱۰۶	خارج کی شورش کا خاتمہ	۹۷	خاریہ
۱۲۳	وسعت سلطنت	۱۰۷	احمال قرامط	۹۸	دعوت مہدیت
۱۲۴	زراعت کی ترقی	۱۰۸	عمرو بن لیث صفاری اور	۹۹	ابوالعباس کا اقتدار
۱۲۵	ترقی تجارت	۱۰۹	ایمیل سامانی	۱۰۰	وفات معتمد
۱۲۶	علمی ترقی	۱۱۰	طرس کے بحری بیڑے	۱۰۱	علمی ترقی
۱۲۷	دارالعلوم	۱۱۱	کی تباہی	۱۰۲	نائب سلطنت موفق
۱۲۸	فن بیٹاری	۱۱۲	خلیفہ معتمد اور طولونہ	۱۰۳	حالات وزراء
۱۲۹	علوم عقلیہ	۱۱۳	مصر کے تعلقات	۱۰۴	معتمد کے عہد کے علماء
۱۳۰	علماء کی قدردانی	۱۱۴	رومیوں سے جنگیں	۱۰۵	محدثین و فقہاء
۱۳۱	حق گو علماء	۱۱۵	ولیعہدی	۱۰۶	لوگ سامانی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۹	دومی جلد	۱۲۲	نقیہ	۱۲۲	حکام
۱۵۰	زیاری حکومت کا قیام	۱۳۵	خلیقہ مقدر باللہ	۱۲۳	مدثر بن وقفا
۱۵۱	احیاء الاموات	•	نام و نسب	۱۲۵	خلیفہ مکتفی باللہ عباسی
۱۵۲	دو بارہ بیعت خلافت	•	خلافت	•	نام و نسب
۱۵۳	مالی حالت	•	نقیہ	•	خلافت
۱۵۴	مقدر کا قتل	•	ابن المعتز	•	وزارت
•	حلیہ	۱۳۶	وزارت	۱۲۶	قضاة
•	تجمل و طمطراق	۱۳۸	قضاة	•	خروج قرامطہ
۱۵۶	دار الشجرہ	•	حجابت	۱۳۲	اسفیل بن احمد سامانی
۱۵۷	اصراف بیجا	•	فاتنہ قرامطہ	•	دولت طولونیہ
•	ملکہ قمرانہ	۱۳۵	خانہ کعبہ کی بے حرمتی	•	دولت افاغیہ
•	مقدر کا عہد	۱۳۶	منصور علاج	۱۳۳	روم
•	باقات	۱۳۷	شحنہ	•	وفات مکتفی
۱۵۸	ردا داری	•	حامیان معتز کا قتل	•	حلیہ
•	یہود لوزاری	۱۳۸	وقائع ۳۰۵ھ	۱۳۴	اوصاف
•	دیوان الجببیدا	•	دولت ادیبہ و افاغیہ	•	خشیت الہی
۱۵۹	رفاہ عام	•	بغاوت مرد اولیج	•	معمر طیار
•	شفا خانہ	۱۳۹	آل حمان	•	فلسفہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۰	شرف الدولہ	۱۶۸	حجابت	۱۶۰	سیاسی حالت
"	ابو کالجیب سلطان الدولہ	"	قضاة	۱۶۱	اشاعت اسلام
۱۸۱	خسرو بن فیروز بن کالجیب	۱۶۹	سخت گیری	"	زوال سلطنت
"	علی ترقی	"	خلیفہ اور امر الی باہمی	۱۶۲	عہد مقتدر باکے علماء
"	علمائے دربار سلاطین	۱۶۰	انتقال	۱۶۳	فقہ و محدث
۱۸۲	وزیر ابو القاسم عیسیٰ بن عیاد	"	وزیر ابن مقلہ	۱۶۴	نسبی
۱۸۵	خلیفہ راضی باللہ	۱۶۱	قاہر کا عالیہ	"	مفسرین
"	نام و نسب	"	اوصاف قاہر	۱۶۵	عبداللہ بن مقرر
"	تعلیم و تربیت	۱۶۲	چند اصلاحات	"	نام و نسب
"	خلافت	"	نیشن ان عیش	"	تعلیم و تربیت
"	حاجب	"	باغ و محل	"	بیعت خلافت اور مغربی
"	وزارت	۱۶۳	علماء	۱۶۶	موسیقی
۱۸۶	حنابلہ	"	سلاطین یا ملکہ یا یوہ	"	علم بدیع
"	ابن مقلہ	۱۶۸	مؤید الدولہ	"	تصانیف
"	یغوث ہارن بن غریب	۱۶۹	صمصام الدولہ	۱۶۸	خلیفہ قاہر باللہ
۱۸۶	حماد الدولہ کا اقتدار	"	بہار الدولہ	"	نام و لقب
۱۸۸	دانشنا ناصر الدولہ حمدانی	"	محمد الدولہ	"	خلافت
۱۸۹	بنو فاطمی	۱۸۰	سلطان الدولہ	"	وزارت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۶	سیف الدولہ کا اقتدار	۲۰۰	خلافت	۱۹۰	مصر میں لت ایشید کا آغاز
۲۰۸	رومی	"	تعلیم و تربیت	"	امیرالامرائی
"	ابوالحسن بریدی کا قتل	۲۰۱	بحکم کا قتل	۱۹۱	خلافت اور ریاستیں فرق
"	وفات امیر تودون	"	گنبد خضرا	"	داسط پر برید کا اقتدار
"	معز الدولہ احمد بن بویہ	۲۰۲	بریدی کا خروج	۱۹۲	شام پر رائق کا قبضہ
۲۰۹	خلیفہ کا وظیفہ	۲۰۳	رومی حملہ	"	دولت عباسیہ کی تقسیم
"	سیاسی حالت	"	آذربائیجان پر روسی حملہ	۱۹۳	حوادثات قرامطہ
۲۱۰	متکفی کی معزولی	"	تودون کا اقتدار	۱۹۵	کوئی قرامطہ بغلیہ کے حالات
"	علماء	۲۰۵	وفات	"	وقائع قرامطہ
۲۱۲	خلیفہ مطیع اللہ	"	اوصاف	۱۹۶	ابوسعید کا قتل
"	نام و لقب	"	متقی کے عہد کے علماء فقہاء	"	راضی کی وفات
"	خلافت	۲۰۶	محدث و فقہا	"	اوصاف
"	وفات ایشید	"	مفسر	۱۹۸	خطبہ
۲۱۳	عمر اسود	۲۰۷	خلیفہ متکفی باسہ	۱۹۹	راضی کے عہد کے علماء
"	خلیفہ کے اقتدار کا خاتمہ	"	نام و لقب	"	محدث و فقہا
"	ترویج شیعیت	"	خلافت	"	فلسفی
۲۱۴	ابن شاہین	"	وزیر	۲۰۰	خلیفہ متقی بالسر
۲۱۵	مصر میں فاطمی خلافت	"	امیرالامراء	"	نام و لقب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۸	اوصاف	۲۳۸	خلیفہ طائع اللہ	۲۱۵	رومیوں کے حملہ
"	خطبہ	"	نام و لقب	۲۱۶	دستق کے مظالم
۲۳۰	خلیفہ قاوڑ باللہ	"	خلافت	۲۱۷	سیف الدولہ
"	نام و لقب	"	سنگین اور بزرگ الدولہ	"	حملہ قیصر
"	تعلیم و تربیت	"	بغداد پر حملہ	۲۱۹	قرامطہ
"	خلافت	۲۳۰	خلیفہ کی زبوں حالی	"	بختیار اور خلیفہ
"	وقائع	۲۳۱	بہاء الدولہ	۲۲۰	تقرر قاضی
۲۳۱	نائب سلطنت	۲۳۲	امراء کے دولت مروانیہ	"	خلع خلافت
"	رومیوں سے صلح	"	بغداد کی مرمت	۲۲۱	سیاسی حالات
۲۳۲	نئی حکومتوں کا قیام	"	شفا خانہ	"	وفات
"	بنی حمدان	"	عقبہ الدولہ کی نظر خلافت	"	من جغرافیہ
۲۳۳	دولت مروانیہ	۲۳۳	ذکر آل حمدان	"	علی ترقی
۲۳۵	علویین	"	دولت غر نوبہ	۲۳۲	مورخ
"	کتب خانہ	۲۳۴	امیر سنگین	"	فتہا و محدثین
"	قاضی القضاة	۲۳۶	دولت زیاریہ	۲۳۳	معلم ثانی
۲۳۶	وفات	"	امراء کے دولت زیاریہ	۲۳۴	دولت حمدانیہ
"	اوصاف	۲۳۷	طائع کی گرفتاری	"	مذکورہ سیف الدولہ
۲۳۷	اخلاق	۲۳۸	انتقال	۲۳۵	ابو طاهر محمد بن بقیہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۶	محمود خاں جواہر زادہ	۲۵۶	اوصاف	۲۴۷	سخاوت
"	محمد بن محمد بن ملک شاہ	"	قائم کے عہد کے علماء	"	علمی ترقی
۲۶۷	طغرل بن محمد بن ملک شاہ	۲۵۷	خلافت عباسیہ کی سیاسی حالت	۲۴۸	تذکرہ علماء
"	ملک شاہ بن محمود بن محمد	"	وزراء خلیفہ	"	دولت غزنویہ
"	بن سلطان ملک شاہ	۲۵۸	مکہ میں خطبہ	۲۴۹	ہندوستان
"	محمد بن محمود	"	سلجوقی فرمانروا اور خلافت	۲۵۰	علمی ترقی
"	سلیمان بن ملک شاہ	۲۵۹	سلاطین سلاجقہ	۲۵۱	خلیفہ قائم بامر اللہ
"	ارسلان بن طغرل	۲۶۰	طغرل بک	"	نام و لقب
"	طغرل بن ارسلان	۲۶۱	چغری بک، طغرل بک	"	خلافت
۲۶۹	طغرل بک ثانی خاندان سلجوقیہ	"	الپ ارسلان بن چغری بک	"	وقائع
"	مذہب	"	قیصر روم	۲۵۲	شہنشاہ جلال الدولہ
۲۷۱	نظام الملک طوسی	"	جلال الدین ملک شاہ بن	۲۵۳	شاہ عبدالرحیم
۲۷۲	جامعہ نظامیہ	۲۶۲	الپ ارسلان	"	ارسلان بسامیری
۲۷۳	خلیفہ مقتدی بصرہ	۲۶۳	ملک شاہ کی گرفتاری	۲۵۴	دیالک خانہ شاہ کا عروج
"	نام و لقب	۲۶۴	قیصر روم کی گرفتاری	"	طغرل کی بغداد پر آمد
"	خلافت	"	مدرسہ نظامیہ	۲۵۴	حادثہ بسامیری
"	وزارت	۲۶۵	برکیارق بن ملک شاہ	۲۵۵	واقعہ طغرل بک و ارسلان
۲۷۵	وقائع	"	محمد بن ملک شاہ	"	قائم کی وفات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۸	اوصاف	۲۸۵	محمد بن حسن بن محمد بن کیا	۲۷۵	خطاب امیر المومنین
"	علی ذوق	۲۸۶	جلال الدین حسن بن محمد بن حسن	"	دارالعلم
۲۹۹	معرض علماء	"	علاء الدین محمد بن جلال الدین	"	کوائف صقلیہ
"	وزیر سعید الملک	"	بن حسن	۲۷۶	جامع مسجد
۳۰۱	خلیفہ مسترشد باللہ	"	رکن الدین خورشاہ بن علی	"	ملک شاہ کے آثار خیر
"	نام و لقب	۲۸۷	خلیفہ مستنصر باللہ	"	قبضہ بغداد
"	تعلیم و تربیت	"	نام و لقب	۲۷۷	مقتدی کی وفات
"	خلافت	"	خلافت	"	اوصاف
۳۰۲	وزارت	"	مجلس عزاء	"	معاصر علماء
"	دقائح	"	تاج الملک برکیارق	"	محدث و فقہا
۳۰۳	باطنیہ	۲۸۸	وزارت	۲۷۹	باطنیہ اور انکی حکمرانی
"	وفات سلطان محمود	۲۸۹	زمیدہ خاتون	۲۸۰	تحریک آل محمد اور اسکی
"	سلطان محمود اور طغرل	۲۹۰	وفات برکیارق	۲۸۱	حسن بن صباح
۳۰۴	خلیفہ کی نظربندی	"	حروب صلیبیہ	۲۸۲	قلعہ الموت
۳۰۵	واقعہ قتل مسترشد	۲۹۱	فتح بیت المقدس	۲۸۳	امریکے حکومت باطنیہ
"	اوصاف	۲۹۲	وقائع بغداد	"	کیا بزرگ بن حسن
"	نظم سلطنت	۲۹۳	مستنصر کی وفات	۲۸۴	محمد بن کیا
۳۰۶	مصرف اوقات	"	عادات	"	حسن بن کیا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۶	اتابکیہ اربل	۳۱۶	خلافت	۳۰۶	شہر پتہ کی درستی
"	اتابکیہ آذربائیجان	۳۱۷	وزارت	"	علی ذوق
۳۲۷	اتابکیہ فارس	"	نائب سلطنت	۳۰۷	ابو علی حسن بن علی
"	شاہان ارمن	"	وقائع	۳۰۸	سیاسی حالت
"	دولت غوریہ	۳۱۸	حملہ اہل فرنگ	"	علماء عصر
۳۲۹	خلیفہ مستنجد باللہ	"	وقائع	۳۱۰	خلیفہ الراشد باللہ
"	نام و نسب	"	فتوحات	"	پیدائش
"	تعلیم و تربیت	۳۱۹	محاصرہ کربلا	"	وقائع
"	خلافت	"	غلام مصر و حملہ	"	راشد اور سلطان سعود
"	وزارت	"	عیسویوں کا حملہ	۳۱۱	وزارت
"	معافی ٹیکس	۳۲۰	سلطان لکھنؤ ثانی و سلطان محمد	"	قاضی القضاة
۳۳۰	قاضی القضاة	"	وفات مقتدی	۳۱۲	راشد کی معزولی
"	زام حکومت	"	اوصاف	"	راشد کا قتل
"	وقائع	۳۲۱	سیاسی حالت	۳۱۳	اوصاف
"	عربوں کی سرکشی	۳۲۳	علی ترقی	"	سلطان عماد الدین
۳۳۱	واسط میں بغاوت	"	محدث	۳۱۶	خلیفہ مقتدی الامر باللہ
"	وزارت چہرہ نیا تقرر	۳۲۴	دولت ارتقیہ	"	پیدائش
"	واقعات سلطان نور الدین	۳۲۵	اتابکیہ دمشق	"	تعلیم و تربیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۷	وزائے ناصر	۳۴۰	وقائع	۳۳۳	وفات مستنجد
۳۵۶	نیا وزیر	"	اوصاف	۳۳۷	اوصاف
"	رفاہ عام	۳۴۱	مستفی کی وفات	۳۳۵	علی ترقی
۳۵۷	وزیر کی معزولی	"	ہمعصر علماء	"	ہمعصر علماء
۳۵۸	سنجر	"	محدثین و فقہا	۳۳۶	خلیفہ مستفی بامرات
"	ولی عہد کا انتقال	"	سلطان نور الدین زنگی	"	نام و لقب
"	خوارزم شاہ	۳۴۳	خلیفہ ناصر الدین	"	خلافت
۳۵۹	تاتاریوں کا خروج	"	نام و لقب	"	وزارت
۳۶۵	علاء الدین خوارزم شاہ	"	تعلیم و تربیت	"	امیر العسکر
۳۶۶	وفات ناصر الدین	"	خلافت	"	وزیر خزانہ
"	اوصاف	"	وقائع	۳۳۷	عتاب شاہی
۳۶۷	نظام مملکت	۳۴۵	طغرل کی فتوحات	"	سجادات
"	حکومت مخبر و پرچونگار	"	واقعات سلطان صلاح الدین	۳۳۸	قاضی
۳۶۸	سجادت	۳۴۸	موصول پر قبضہ	"	وقائع مصر
۳۶۹	ہیبت و جلال	۳۴۹	فرنگیوں سے فیصلہ جنگ	۳۳۹	چراغ
"	خطبہ	۳۵۱	بیت المقدس کی فتح	"	سند حکومت
۳۷۰	درستی مزاج و حرص دولت	"	سلطان صلاح الدین یولی	"	دولت فاطمیہ کا خاتمہ اور
"	علی ترقی	۳۵۳	کی وفات	"	دولت دیوبند کا ظہور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۰	ارکان سلطنت ہلاکو	۳۸۴	آثار خیر	۳۶۱	رفاہ عام
۳۸۱	اوصاف مستنصر	"	وفات	۳۶۲	علماء عہد ناصر
۳۸۲	شکار	۳۸۵	ہمعصر علماء	۳۶۳	فقہاء و محدثین
۳۸۳	مستنصر کا واقعہ	"	یا قوت عمومی	۳۶۴	خلیفہ ظاہر ناصر الشہ
۳۸۴	علماء عہد مستنصر	"	ابو بی خاندان	"	نام و لقب
۳۸۵	محدثین و فقہاء	۳۸۶	دولت فرخانیہ	"	تعلیم و تربیت
۳۸۶	خلفاء عباسیہ	۳۸۹	خلیفہ مستنصر باللہ	"	خلافت
۳۸۷	شجرہ خلفاء	"	نام و نسب	"	عدل و انصاف
۳۸۸	بغداد کا حشر	"	تعلیم و تربیت	۳۶۵	سختی
۳۸۹	سیاسی حالت	"	خلافت	"	وفات
۳۹۰	سلطنت ایران	۳۹۰	فدائت	۳۶۸	توابع عام
۳۹۱	اسمعیل	"	تاتاری حکمران	۳۸۱	خلیفہ مستنصر باللہ
۳۹۲	شاہ طہاسپ بن اسمعیل	۳۹۱	ہلاکو خاں	"	خلافت
۳۹۳	شاہ اسمعیل ثانی بن طہاسپ	۳۹۲	علقمی کی شہنا	۳۸۲	جلال الدین شاہ خوارزمی
۳۹۴	محمد خدا بندہ بن طہاسپ	"	شیعی سنی جنگ	۳۸۳	علی ذوق
۳۹۵	محمد بن محمد خدا بندہ	۳۹۳	بغداد پر ہلاکو کا حملہ	"	مدد مستنصر باللہ
۳۹۶	شاہ اسمعیل ثالث	۳۹۵	خلیفہ کا قتل	۳۸۴	سکتہ
۳۹۷	شاہ عباس	۳۹۸	ابن علقمی کا حشر	"	تضایع

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۶	علم جراحی ✓		سنوٹ بغداد کے وقت اسلامی	۲۱۰	شاہ صفی
۲۵۷	جرمی بوٹی	۲۳۶	حکمرانیاں	۲۱۱	شاہ عباس ثانی
"	حجراتیہ ✓	۲۳۷	خلفاء عباسیہ کے عہد کی علمی ترقی	۲۱۲	نادر شاہ کا عروج
۲۵۹	تاریخ ✓	۲۳۵	کتب بقراط		خلافت عباسیہ پر ایک سی
۲۶۲	خلفاء عباسیہ کی شان و شوکت	"	کتب جالینوس	۲۱۳	اور تاریخی نظر
۲۶۳	پارچہ بانی ✓	"	کتب ارسطو	۲۱۴	خلافت عباسیہ
۲۶۷	مصوری ✓	"	کتاب المغالطات	۲۱۸	بنی عباس کے سیاسی افکار
"	کاندسازی	۲۳۶	کتب افلاطون	۲۱۹	دعوت بنی عباس
۲۶۸	عبدسازی	"	ہیئت	۲۲۱	خلافت عباسیہ کے امتیازات خصوصی
۲۶۹	کتب فروش	۲۳۹	موجد آلات رسید	۲۲۹	عربوں کی زیادتیاد کا خاتمہ
"	کتابت	۲۵۰	ریاضی ✓	۲۳۱	زوال کا اصلی سبب
"	عطر سازی	۲۵۱	کیمیا ✓	۲۳۲	خلفاء عباسیہ کی مذہبی اقتدار
۲۷۰	زراعت و فلاحت	۲۵۳	دواسازی	۲۳۳	خطبہ و سکہ
"	آب باش	"	معدنیات، حیوانیات و نباتیات	"	خطاب و لقب
"	رنگ	۲۵۴	طبیعیات ✓	"	علومین اور بنی عباس
"	شیشہ	۲۵۵	طیارہ کا اولین تصور	۲۳۵	خلفاء کا غلط اقدام
۲۷۱	کانیں	"	قانون	"	بغداد کی تباہی و تباہیوں
۲۷۲	کارخانہ آہن ✓	"	طیب ✓	"	اور مسلمان امریکہ کے انھوں
۲۷۳	ختم	۲۵۶			

خليفة المتوكل على الله جعفر

نام و نسب | متوكل علی اللہ جعفر بن معتصم بن ہارون الرشید۔ ان کی والدہ کا نام "سجاع" خوارزمی تھا جو ام ولد تھی۔ شوال ۲۱۸ھ میں متوکل کی ولادت مقام ہنم الصلح میں ہوئی۔

تعلیم و تربیت | متوکل واثق کا ہم سبق رہا۔ مگر واثق کی سی لیاقت نہ تھی۔ بیابان میں تقلید کا حامی تھا۔

خلافت | واثق نے کسی کو ولی عہد نہیں کیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد قاضی احمد بن ابی دؤاد معتزلی۔ امیر ایتاخ، امیر عمر بن فرج اڈا ابو الزیاد وغیرہ قصر خلافت میں تخت ہوئے اور محمد بن واثق بابل کو جو ایک نو عمر لڑکا تھا تخت خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ لباس و زرہ پہنائی۔ اتفاق سے بوجہ کم عمری لباس بڑا اور وہ چھوٹا نکلا۔ امیر و صیغ نے حاضرین سے مخاطب ہو کے کہا۔

”کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو جو ایسے کم عمر صاحب زادے کو سر پر خلافت پر ٹھکن کیا چاہتے ہو؟“
حاضرین یہ سکر چوکے سے ہو گئے۔ مستحقین خلافت کی بابت رائیں قائم کر کے جعفر بن معتصم پر متفق رائے ہوئے۔ جب جعفر حریم خلافت سے

باہر آئے تو قاضی احمد بن دواد نے فوراً اُن کو لباس فاخرہ پہنایا۔ عمامہ باندھا
دست بوسی کر کے کہا:-

”السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ وبرکاتہ“

سب اراکین سلطنت نے بیعت کی اور المتوکل علی اللہ کا لقب دیا گیا
یہ واقعہ ۲۴ ذی الحجہ ۲۳۳ھ کا ہے۔ اس وقت متوکل کی عمر ستائیس
سال کی تھی۔ خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واثق باللہ کی مناز
جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں شاہی لشکر کو آٹھ ماہ کی تجواہ
مرحمت فرمائی۔

غاکم بن محمد طوسی کو حکومت موصل پر بحال رکھا۔ ابن عباس محمد بن
نظم عمال اصولی کو دیوان نفعات سے معزول کیا اور اپنے بیٹے منتصر کو
حرمین۔ یمن اور طائف کی حکومت عنایت کی۔

متوکل نے عنان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی اپنا میلان طبع احیا
احیاء سنت | سنت کی طرف ظاہر کیا۔ مسئلہ خلق قرآن کی پابندی اٹھادی
گئی بلکہ محدثین کی دلجوئی اور ان کی ہر قسم کی معاونت کی۔ ۲۳۴ھ میں تمام
محدثین کو سامعہ مدعو کیا اور جب مجمع ہو گئے تو اُن کی تواضع و مدارات اُن کے
نشایان شان کی۔ انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اور حکم دیا کہ ”صفحات“ و ”رویت
الہی“ کے متعلق حدیثیں اپنے وعظوں اور خطبوں میں بیان کیا کریں چنانچہ ابو بکر
ابوشیبہ محدث کو جامع رصافہ میں اور ان کے بھائی عثمان کو جامع منصور میں

۱۸۱ | ابن خلدون ج ۱، کتاب ثانی ص ۱۸۱

اشاعت حدیث پر مقرر کیا۔ ان بزرگوں کے وعظ میں روزانہ تیس تیس ہزار آدمی شریک ہوتے تھے۔ رعایا پر اس عمل کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ متوکل کے حق میں دعائیں ہونے لگیں۔

مدح متوکل

از

ابوبکر بن اعجازہ

و بعد فان السنۃ لیوم اجبت
تقول وتسبطوا قیوم منارہا
و ولی بنحو الابداع فی الدین فلا
شئنی اللہ منہم بالخلیفہ جعفر
مفتر تحتی کان لم تذلل
و حط منار الالفک النیرون علی
الی النار یھوی مدبرا غیر مقبل
خلیفہ ذی السنہ المتوکل

ملاکت ابن زیات | واقع اپنی زندگی میں متوکل سے بے حد ناخوش تھا۔ تو وزیر محمد بن عبد الملک بن زیات بھی متوکل سے برگشتہ

رہتا تھا۔ وگیرا مراد بھی منحرف تھے۔ البتہ قاضی احمد بن دوادق مقرر ہو گیا۔ متوکل کا خیر خواہ تھا اور وہ واقع کے سامنے کلمہ خیر اکثر کہہ دیا کرتا۔

چنانچہ صفر ۳۳۲ھ میں خلیفہ نے ابن زیات اور اس کے تمام خاندان کو گرفتار کر لینے کا حکم دیا اور کل جائداد اس کی بحق سرکار ضبط کی گئی۔ قید میں ابن زیات کو ڈال کر اکتالیس دن سخت عذاب دیئے اور تھوڑے ہی بند کر دیا جہاں یہ گت کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن فرج کا تب اور اس

۱۹۸ھ فضی الاسلام حسبہ ثالث ص ۱۹۸ ۱۹۸ھ فضی الاسلام از احمد امین جز ثالث ص ۱۹۸

کے بھائی جس نے سخاوت کے کاغذ ایک موقع پر متوکل کی مسجد کے صحن میں پھینک دیئے تھے اس کو بھی پکڑا جا لیا۔ ۲۰۰۰ دینار، ۱۵۰۰ درہم ان سے وصول کیے اور اس کی املاک بھی ضبط کی گئی۔ آخر میں ایک کروڑ درہم سے متوکل نے اہواز کی جاگیر و اگداشت کر دی اور قید سے رہا کر دیا۔

ابن بعیث کی بغاوت | آذربائیجان کا رئیس محمد بن بعیث بن جلیس باغی ہو کر ۲۳۴ھ میں قلعہ بند ہو گیا۔ مگر متوکل نے ترکیب سے

سمر اہلہ کو قید کر دیا۔ لہذا شرابی کی سفارش پر چھوٹا تو مرزبان کے قلعہ کو مستحکم کر کے حکومت سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔ ربیعہ اور دوسرے قبیلہ کے لوگ اس کے شریک ہو گئے۔ یہاں کا ان دنوں حاکم محمد بن حاتم تھا وہ اس کے مقابلہ کی تاب نہ لاسکا۔ اس کے بچنے سے محمود بن علی بن فضل مقرر ہوا اس نے قلعہ کو گھیر لیا۔ مگر اس کی فوج سے قلعہ تسخیر نہ ہو سکا تو لہذا شرابی دو ہزار سوار اور کثیر پیادوں کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اور میر علی بن شیخ نے خفیہ طور پر ابن بعیث کے ساتھیوں کو جاں بخشی کا پیام بھیجا۔ وہ سب اس سے علیحدہ ہو گئے تو ابن بعیث بلا مددگار کے تنہا رہ گیا تو راہ فرار اختیار کی۔ مگر راستہ میں گرفتار ہوا۔ اور سا اہلہ کر قید کر دیا گیا۔ وہیں عمر طبعی پا کر مر گیا۔

فتنہ محمود بن فرخ نیشاپوری | ۲۳۵ھ میں محمود نے سمرامین نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اس نے کہا کہ میں ذوالقرنین

لے ابن خلدون جلد ۲ کتاب ثانی ص ۲۶۴

ہوں اور خود ساختہ کتاب بھی پیش کی کہ یہ الہامی ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا
۱۲۶، آدمی اس پر ایمان لائے والے پائے گئے جو پکڑ لیے گئے۔ محمود متوکل
کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اور اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور اس کے
پیروؤں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔

بطارقہ ارمینیہ کی شورش | ارمینیہ اور آذربائیجان کی ولایت پر بنا
شرابی مامور کیا گیا۔ اس نے ابو سعید محمد
مروزی کو اپنا نائب مقرر کر کے وہاں بھیجا۔ شوال ۲۳۳ھ میں وہ فوت
ہو گیا تو اس کے بیٹے یوسف کو نیابت ملی۔

ارمینیہ کے بطریق اعظم بقراط بن اشوط نے بغاوت کر دی تو یوسف
نے اس کو گرفتار کر کے متوکل کے حضور سامرا بھیج دیا۔ اس کی وجہ سے تمام
بطارقہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے باشندوں کو ابھار کر یوسف کے مقابل
کھڑا کر دیا۔ یوسف ان دونوں شہر طرون میں مقیم تھا۔ ارمینیوں نے
طرون کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے نکل کر بلوایوں کا مقابلہ کیا جس میں
ساتھیوں کے کام آیا۔ متوکل کو خبر لگی تو اس نے بغاوت خرابی کو بھیجا۔ اس نے
جزیرہ کی طرف سے پہلے اردن کا محاصرہ کیا۔ وہاں کا امیر موسیٰ بن
ذرارہ تھا جس نے یوسف کے قتل میں ارمینیوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس کو بھانے
گرفتار کر کے سامرا بھیج دیا اور خود امیر بغاوتیہ کی طرف بڑھا جس کے دامن
میں باغی جمع ہوئے۔ بغاوت نے ان پر حملہ بول دیا۔ بیس ہزار ارمینی مارے گئے
اور بے شمار قید ہوئے۔ اس فتح یا لہجے کے بعد بغاوت ارمینیہ سے گذرنا ہوا۔

اور قلعہ تک گیا۔ وہاں کا عالم اسحق بن اسماعیل تھا۔ اس کو بھی مقابلہ میں لڑو کیا اور قتل کرادیا۔ پھر بغاصتاً گیا۔ وہاں شکست اٹھانی پڑی۔ اہل صفاریہ نے روم خزاور و صفاریہ کی مدد حاصل کی تھی۔ فوج گران مقابلہ کے لیے جمع ہو گئی تو متوکل کو خبر دی گئی۔ اس نے خالد بن یزید شیبانی کو اس مہم پر مامور کیا اس کے آنے سے یہ سب لوگ منتشر ہو گئے۔ خالد نے دوبارہ امان کی تجدید کر دی اس طرح یہ فتنہ ختم ہوا۔

دولت یعفریہ

صفار پر عہد مقصوم میں جعفر بن سلیمان عامل مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے اپنا نائب عبدالرحیم بن ابراہیم کو مقرر کر کے صفار بھیج دیا۔ اس نے صفار کا انتظام اچھا کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یعفر صفار کے انتظام میں لگ گیا۔ بائندے اس کے گردیدہ ہو گئے تو اس نے ۲۳۴ھ میں خود مختاری کا علم بلند کر دیا۔ یہ ریاست ۳۸۴ھ تک یعفر کے خاندان میں رہی۔ محمد بن یعفر، عبدالقادر بن احمد بن یعفر، ابراہیم بن محمد، سعد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم، عبداللہ بن محمد بن صفار کے حکمران رہے۔

یعقوب بن لیث صفاری ۳۳۴ھ میں بسنت کے باشندے صالح بن نصر نے سجستان پر قبضہ جایا۔ یعقوب بن لیث صفاری جو پہلے سے حکومت عباسیہ سے منحرف ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہو گیا

لیکن امیر طاہر بن عبداللہ بن طاہر والی خراسان نے صنایع کی گونشالی کر دی اور سجستان کو واپس کر لیا اس کے کچھ عرصہ بعد موقعہ ملا کہ امیر ورمین حسین نے بلا مزاحمت سجستان پر قبضہ کیا۔ اس کے ساتھ یعقوب بھی ہو گیا۔ ورمین فوجی لیاقت نہ تھی۔ یعقوب نے اس کی فوج کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ورمین کے ہمراہیوں نے اپنے سردار کی کمزوری دیکھی وہ یعقوب کے ہمراہ ہو گئے اور اس کو پناہ سردار بنا لیا۔ ورمین ان سے جدا ہو گیا۔ امیر یعقوب نے سجستان کا بہت اچھا انتظام کیا اور فوجی قوت کو بہت بڑی ترقی دی اور چند دنوں میں اس کی قوت اتنی بڑھ گئی کہ اس کے بھروسہ پر اس نے سجستان میں اپنی مستقیم حکومت قائم کر لی جو صفاریہ حکومت کے نام سے تاریخوں میں مذکور ہے۔ اس دولت کا تفصیلی حال آگے آتا ہے۔

رومیوں کا حملہ مصر پر | رومیوں نے ۲۳۸ھ میں تین سو جنگی کشتیوں میں فوج بھر کر ومیاط کی طرف سے مصر پر حملہ کیا۔ امیر مصر فسطاط میں مقیم تھا۔ وہاں دربارہ ہورہا تھا۔ تمام بحری محافظ شکرکت کے لیے گئے ہوئے تھے ومیاط پر رومی بلا مقابلہ قابض ہو گئے۔ شہر کو لوٹ لیا۔ جامع مسجد میں آگ لگا دی۔ باشندوں میں سے سولہوں کو قتل کیا اور عورتوں کو بکڑے لے گئے۔ ابھی کشتیاں روانہ نہیں ہوئی تھیں کہ ایک مسلمان امیر بسرب انکشف جو اس وقت قید میں تھا بیڑیاں توڑ کر قید خانہ سے نکل آیا۔ بہت سے ماہ گیر اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے رومیوں پر حملہ بول دیا۔ آن کی اچھی فاعلی جماعت تہ تیغ کر دی۔ تاب مقابلہ نہ لاکر

رومی بھاگ کر ایشیوم تینس پہنچے۔ یہاں پر بھی لوٹ مچائی اور آہنی بھانکٹھا
 کر چلتے بنے۔ اس واقعہ کے بعد متوکل نے وشیاط میں قلعہ تعمیر کرائے اور
 سرحد کی حفاظت کا معقول انتظام کیا۔

۲۲۰ھ میں اہل حمص نے بغاوت کر دی یہاں کا
 حاکم ابوالمنیث موسیٰ ابن ابراہیم تھا۔ اس کو حمص سے

بیدخل کر دیا۔ متوکل کو اطلاع پہنچی۔ اس نے محمد بن عبدویہ کو حمص کا حاکم مقرر
 کر کے ان کے ساتھ عتاب بن عتاب کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ انوں
 نے حمص جا کر باغیوں کی سرکوبی کر کے ان کی طبیعت میں سکون پیدا کر دیا۔ مگر
 کچھ دن نہ گزرے کہ ان میں پھر بغاوت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تو محمد بن عبدویہ
 نے ان کے سربراہ اور وہ اشجاس کو گرفتار کر کے پابجولاں ساغرہ بھجوا دیا
 اور جب ابن عبدویہ حمص میں امن و امان کر کے وارا اٹھلا فہ واپس آیا تو ان
 سب کو کورٹوں سے اتنا پٹا پایا کہ وہ ڈھیر ہو گئے۔ پھر ان کی لاشوں کو سولی
 پر لٹکا دیا اور حمص کے جس قدر فتنہ پرور لوگ تھے۔ اسی طرح سے ان کا
 خاتمہ کرا دیا گیا۔

۲۲۳ھ میں روم کی ملکہ تدورہ کھٹی وہ بڑی
 مسلمان قیدیوں کا تبادلہ

ظالمہ عورت تھی۔ اس کے قبضہ میں ۱۲ ہزار مسلمان
 قید تھے۔ اس نے بہت سوں کو عیسائی کر لیا۔ بڑی تعداد قتل کی گئی جو بچے
 متوکل کو کہلا چکا کہ اگر وہ ضرورت سمجھے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لے۔ چنانچہ

ابن اثیر جلد ۷ ص ۲۲۰ کتاب الولاۃ ص ۲۰۱ تہ یعقوبی جلد ۲ ص ۵۹۹

متوکل نے شیخ خادوم اور جعفر بن عبدالواحد قاضی القضاات بغداد کو روم بھیج کر کے مسلمانوں کو چھڑا دیا۔ ۱۲ ہزار میں صرف ۷۸۵ مرد اور ۱۲۵ عورتیں باقی بچی ہوئی تھیں۔ ایک سو سے زیادہ ذمی عیسائی بھی رومیوں کے قید خانے میں تھے۔ قاضی صاحب نے فدیہ دے کر ان کی بھی گلو خلاصی کرائی اور آزاد کر دیا جہاں چاہیں رہیں۔

مصر پر بجاۃ کی یورش ایشیا و غربا اور یلئے نیل اور بحر احمر اور شمالاً و جنوباً مصر و حبشہ کے درمیان ایک قوم آباد تھی جن کو بجاۃ کہتے تھے۔ وحشی اور کافر انہ ان کی زندگی بھی۔ ان کے علاقہ میں پانڈی و سونے و جواہرات کی کانیں کثرت سے تھیں۔ اولین قادی میں مسلمانوں نے ان کو جنگلی سمجھ کر نظر انداز کیا۔ دوسری صدی میں عبیدہ ابن حجاب نے ان سے معاہدہ کیا۔ پھر ماموں رشید کے زمانہ میں عہد نامہ کی تجدید ہوئی۔ اور وہاں ربیعہ اور حبشیہ قبائل آباد ہو گئے۔ یہ لوگ سوشقال سونا سالانہ مصر کو دیا کرتے تھے۔ متوکل کے عہد میں انہوں نے بند کر دیا۔ اور جو مسلمان مومنے و جواہرات کی کانوں میں کان کنی کرتے تھے ان کو قتل کر دیا جو بیچ رہے وہ بھاگ گئے۔ اس پر طرہ یہ کہ سال ۲۳۱ھ میں بجاۃ نے مصر پر پاخت کی۔ متوکل کو ان کی خود سری نے برا فروختہ کر دیا۔ اس نے محمد بن عبداللہ متقی کو ان کی سرکوبی پر مامور کیا اور عتبہ بن اسحق حبشی کو لکھا کہ تمہی کو فوج و ساز و سامان سے مدد دے۔ تمہی میں ہزار رضا کاروں کے ساتھ طول سفر کے بعد بے آب

۱۷ ابن اثیر جلد ۷ ص ۲۲ ط ۱۵ انسائیکلو پیڈیا آت اسلام جلد اول ص ۶۸۷

گیا ہمدان کو طے کر کے بجایہ پہنچا اور رسد کا سامان جہاز سے قلم کی راہ سے روانہ کیا۔ یہاں کافراں رواجی پایا تھا۔ اس سے سخت مقابلہ ہوا۔ مگر قمی کو یہ سوچ ہی کہ گھوڑوں کی گردلوں میں گھنٹیاں باندھ کر ہمدان مصافح میں پہنچا جائے۔ دشمن کے فوجی شتر سوار ہوتے ہیں اور شتر گھنٹی کی آواز سے بدگنتے ہیں چنانچہ اس تدبیر سے فوج علی بابا کو شکست ہوئی۔ علی بابا قمی کی امان میں آ گیا۔ اور چار سال کا وادہ جب الادا خمس چار سو مثقال سالانہ کے حساب سے ادا کیا۔ اپنے لڑکے لعین کو قائم مقام کر کے قمی کے ساتھ آستانہ خلافت پر حاضر ہوا۔ متوکل نے علی بابا کی اطاعت کیشی کے صلہ میں خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا اور اپنے ملک جانے کی اجازت مرحمت کی۔

فتوحات | عہد متوکل میں روپیوں سے اکثر معرکے رہے اس کے علاوہ صقلیہ میں بھی فتوحات حاصل ہوئیں۔ گو صقلیہ میں مسلمانوں کی نوآبادی قائم ہو چکی تھی۔ بلرام ان کا مرکز تھا۔

۲۳۲ھ میں زغوس کے باشندوں نے مسلمانوں سے صلح کر کے شہر ان کے حوالہ کر دیا۔ انتحکامات منہدم کر دیئے گئے۔ سامان سلمان مٹانے گئے۔ ۲۳۵ھ میں ایک رومی دستہ نے قصر یانہ پر حملہ کیا۔ یہاں کے مسلمان بلاوجہ قتل کئے گئے۔

۱۲ طبری جلد ۱۲ ص ۱۲۲۹ ۱۵ ابن اثیر جلد ۷ ص ۳

عباس بن فضل کے مجاہدانہ کارنامے | صقلیہ کا مسلمان حاکم محمد بن عبد اللہ بن اغلب تھا۔ اس کے انتقال کے بعد

مسلمانانِ صقلیہ نے عباس بن فضل بن یعقوب سے جرمی اور بہادر کو اپنا امیر بنا لیا اور محمد بن اغلب والی افریقہ سے اس کی منظوری بھی حاصل کر لی عباس میں مجاہدانہ اسپرٹ تھی۔ عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے چچا رباح کو قلعہ انی ٹور کی طرف بھیجا اور خود رضا کاروں کو لے کر مسلم شہداء کے انتقام لینے کے لیے قصر یانہ کی طرف بڑھا اور تاخت و تاراج کر کے واپس آیا۔ البتہ رباح نے رومیوں سے بدلہ لے لیا۔ ہزار ہا رومی رباح کے مقابلہ پر بھیت رہے۔

۲۳۵ھ میں عباس ایک بڑی جمعیت لے کر نکلا قصر یانہ، قطانہ، سرتولہ، فوطس اور رغوہس پر تاخت کرتا ہوا شہیرہ پہنچا۔ وہاں کے باشندے پانچ ماہ محصور رہ کر صلح پر آمادہ ہو گئے۔ عباس نے محاصرہ اٹھایا پھر ۲۳۶ھ میں چند رومی قلعوں کو تاخت کیا۔ ۲۳۷ھ میں پھر قصر یانہ پر فوج کشی کی۔ باشندے مقابل آئے اور شکست کھا گئے۔ عباس نے فراغت پا کر سرتوسہ اور طبرین وغیرہ پر حملہ بول دیا۔ یہاں تاخت کرتا ہوا قصر حدید کا محاصرہ کر لیا۔ اہل قلعہ نے مجبور ہو کر ۱۵ ہزار دینار پر صلح کرنا چاہی عباس نے رو کر دی۔ دوسواومی کی گلو خلاصی شرط ٹھہری۔ چنانچہ دوسواومی اہل قلعہ کے چھوڑ کر قصر حدید پر قبضہ کیا۔ تمام باشندہ غلام بنا کر فروخت کر دیئے اور قلعہ کو مسمار کر دیا۔ مگر عباس کا جذبہ انتقام اس پر بھی کم نہ ہوا

۲۰ ابن اثیر جلد ۷ ص ۲۰

صقلیہ کا پاپیہ تخت سرقوسہ تھا۔ مسلمانوں کے حملہ کے بعد رومیوں نے قصر یانہ کو دارالسلطنت بنایا۔ عباس نے اس کو فتح کرنے

کے لیے ایک بحری فہم بھی بھیجی تھی۔ رومیوں کے جہاز چالیس تھے۔ مقابلہ ہوا آخر ان کے دس جہاز گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد خود عباس نے حملہ کیا۔ شوال

۲۲۴ھ میں صقلیہ کے پاپیہ تخت قصر یانہ پر قبضہ کر لیا۔ اسی دن ایک مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ اگلے جمعہ کو اس میں پہلا خطبہ پڑھا۔ اس فتح میں بے شمار دولت ہاتھ لگی۔ اس واقعہ کی خبر قسطنطینہ پہنچی تو شہنشاہ روم نے مقابلہ کے لئے

تین سو جہاز کا بیڑا جمعہ جہاز لشکر کے بطریق کی قیادت میں صقلیہ روانہ کیا۔ سیدھا سرقوسہ پہنچا۔ مجاہد اعظم عباس نے اسے بھی شکست فاش دی اور سو جہاز رومی بیڑے کے گرفتار کر لیے اور رومی بے شمار قتل ہوئے تو سطر۔

ابلا۔ قلعہ عبدالمومن۔ قلعہ بلوط، قلعہ ابی ثور کے ساکین میں مقامی جوش بڑھ گیا اور یہ حکومت سے باغی ہو گئے۔ عباس نے پہلے ان کی سرکوبی کی پھر قلعہ عبدالمومن اور ابلا، طنوا کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران میں یہ خبر ملی کہ رومیوں

کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے۔ عباس اپنی فوج کو لے کر چقلو دی پر اس کا مقابلہ ہوا۔ پہلے معرکہ میں مخالف لشکر شکست کھا گیا۔ عباس کامیابی پر قصر یانہ لوٹا اور اس کی درستی کرائی۔ جنگی استحکامات درست کئے۔ فوجی چھاؤنی قائم کی

اس سے فارغ ہو کر ۲۲۶ھ میں سرقوسہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس پر تاخت کرتا ہوا قرقنہ کی طرف بڑھا۔ راہ میں تین یوم بچا کر رہ کر یہ مجاہد اعظم سفر آخرت کر گیا۔ رومیوں نے ازراہ دشمنی قبر سے لاش نکال کر جلا ڈالی۔

عباس کی مجاہدانہ سرگرمی کے علاوہ علی بن یحییٰ ارمینی نے ۲۲۸ھ میں رومیوں کے علاقہ پر فوج کشی کر رکھی تھی نواح 'سمیاط' کے رومی سرحدی مقامات پر حملہ آور ہوئے اور دس ہزار مسلمان پکڑ کر لے گئے مگر اشاش اور عمر بن الاقطع نے ان کا تعاقب کیا۔ مگر وہ ہاتھ نہ لگ سکے۔

متوکل نے رومیوں کی سرگرمی دیکھ کر ۲۲۵ھ میں بجا کبیر کو سرحد پر مامور کیا جس نے نصلہ فتح کر کے اہل ارض روم کو پوری طرح پامال کیا لیکن رومیوں نے دوبارہ سمیاط پر حملہ کر کے صد ہا مسلمانوں کو شہید کیا۔ علی بن یحییٰ ارمینی نے گرانی فوجوں کے ساتھ کرہ پر حملہ کیا رومی بطریق پکڑا گیا اور متوکل کے پاس بھیجا۔ شاہ روم نے ایک مسلمان سے اس کا تبادلہ کرا لیا۔ پھر ۲۲۶ھ میں یحییٰ نکلا اور رومیوں پر حملہ بول دیا۔ چار ہزار رومی گرفتار کئے۔ ادھر یہ کامیابی تھی۔ دوسری طرف مجاہد کبیر فضل بن قارآن نے بیس جہازوں کے ساتھ بحری حملہ کر کے انطاکیہ کے قلعہ کو فتح کر لیا فتوحات کے اعتبار سے متوکل کا عہد کامیاب رہا۔

۲۳۵ھ میں سندھ میں ہارون ابن ابی خالد والی بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں پر عمر بن عبدالعزیز ہزاری کا اثر زیادہ تھا ہارون ۵ برس تک ملکی شورش و بانارہا۔ آخر میں اس میں قتل ہوا تو عمر بن عبدالعزیز نے سندھ کے پایہ تخت منصورہ پر قبضہ کر لیا۔ اور ایک درخواست متوکل کو بھیجی۔ اس لئے صوبہ سندھ کی حکومت کی سند اس کو بھیج دی۔ ابن العزیز

نے اپنی حکومت کی بنا ڈال دی۔

ولیعہدی کا مسئلہ | متوکل نے اپنے تینوں بیٹوں کو ۲۷ ذوالحجہ ۲۳۵ھ میں ولی عہد بنایا۔ اور کل ممالک زیر نگین کو ان پر تقسیم کر دیا۔

منتصر کو:۔ افریقہ، مصر، شام، جزیرہ، عرب، عراقین، موصل، حضر موت، اہواز، اصفہان، سندھ، مکران وغیرہ کا علاقہ ملا۔
معزز کو:۔ خراسان، طبرستان، رے، ارمینہ، آذربائیجان، فارس اور شہرہ میں کل ممالک محروسہ کے خزانوں کی تحویل داری کا عہدہ بھی اس کو ہی دیا گیا۔ بلکہ معزز کے نام کے ٹکسالوں میں درہم و دینار ضرور دے جانے لگے۔

موند کو:۔ کونبد، دمشق، حمص، اردن، فلسطین دیا گیا۔
اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے حدود مملکت کا خود مختار حکمران قرار دے دیا گیا۔ عہد نامے میں لکھا گیا کہ خلیفہ ہو جانے پر منتصر، معزز اور موند کے کاموں اور امورات ملکی میں دخل نہ ہو۔
عہد نامہ کی ایک ایک نقل ان کو دیدی گئی اور ایک نقل خلافت کے دفتر میں محفوظ رکھی گئی۔

علوین | بنی امیہ کے زمانہ میں امام زید نے دعوتے خلافت کیا تھا پھر ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ اٹھے۔ متوکل کے عہد میں ان کے

سے ظہری و ابن اثیر۔

پوتے یحییٰ بن عمر نے "نوائے آل محمد" بلند کی۔ مگر حکومت بنی عباس کے قبضہ میں جلد آگئے۔ گرفتار ہو کر دربار میں لائے گئے۔ عمر بن فرج کا تباہی اس مقدس سستی کو کوڑوں کی مار دی اور بغداد کی جیل میں بھولس دیا۔ متوکل کو علویوں سے دلی عناد تھا جس شخص کے متعلق اس کو خبر ملی کہ علویہ میں سے کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کا خون اور مال سب حلال نہیں آخر میں ناصبی خیالات ہو گئے تھے۔ اپنی مجلس میں حضرت علی اور ان کی اولاد کے متعلق اچھے لفظ نہیں کہتا تھا حتیٰ کہ مسئلہ میں امام حسین کا مقبرہ منہدم کر دیا۔ روضہ سے لمحو ساری عمارتیں گروادیں۔ ان پر کاشت ہوتی۔ زائرین کا آنا جانا بند کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ شیعوں نے مزار امام حسین کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اصلی مزار قائم تھا۔ البتہ قصبہ منہدم کر دیا گیا تھا۔

امام علی ہادی بن محمد جو اول لقب عسکری، سامرہ میں تشریف رکھتے تھے اور ان کی نگرانی بھی رہتی۔ متوکل کو خبر لگی۔ امام کے پاس شیعہ کثرت سے آتے ہیں اور آدمی واسلحہ فراہم کئے جا رہے ہیں۔ متوکل نے ان کی خانہ تلاشی کے لیے رات کو سپاہی بھیجے۔ امام موصوف ایک گلہبی قمیص پہنے اور ایک ادنیٰ رومال سر پر باندھے ہوئے تلاوت قرآن اور دعا میں مصروف تھے۔ ان کے گھر میں کوئی چیز نہ نکلی یہاں تک کہ بستر بھی بجز فرش ریگ کے نہ تھا۔ اس حالت میں آپ کو متوکل کے پاس لایا گیا

اُس نے اپنے قریب بھلایا۔ تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ اور امام صاحب سے حکمت اور نصیحت کی باتیں سنیں۔ پھر قرض ادا کرنے سے چار ہزار درہم ان کو نذر کیے اور اعزاز و اکرام سے رخصت کیا۔

متوکل کا واقعہ قتل | متوکل ترکوں سے اس قدر بیزار ہو گیا تھا پہلے تو امیر اتراک ایتاخ کو ٹھکانہ لگایا۔ اس کے بعد امیر وصیف اور امیر نجابہر دو امراء کو قتل کرنا چاہا۔ مگر متوکل کا داؤ چلا نہیں ان دونوں کا متوکل پر داؤ چل گیا۔

ترکی امراء سمجھ گئے تھے کہ ہماری قوت و اقتدار کو متوکل توڑنا چاہتا ہے ایتاخ کو قتل کر چکا۔ ہم میں سے ایک ایک کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

متوکل کا وزیر عبید اللہ بن خاقان اور ندیم خاص فتح بن خاقان یہ دونوں منقصر سے بغض رکھتے تھے اور مہتمن تھے یہ خلیفہ نہ ہو بلکہ معتز خلیفہ ہو اور منقصر کے خلاف کان بھرا کرتے۔ متوکل کو بھی معتز سے ہمدردی زیادہ بڑھ گئی اور ایلادہ کر لیا تھا کہ منقصر کو ولی عہدی سے معزول کر دیا جائے۔ منقصر نے باپ کی اس روش سے زیادہ اثر لیا اور ترکوں سے ساز باز کرنے لگا اور ادھر متوکل فتح بن خاقان کے مشورہ سے منقصر بننا وصیف کو ٹھکانہ لگانا چاہتا تھا اور اس خیال کا اظہار عقل نبیہ میں متوکل بننا شرا بی سے کر گیا۔ اس نے باغ ترکی کو جو متوکل کا پاسبان تھا۔ اپنا ہم داد بنا کر ہم سوال مسئلہ کو رات کے وقت دس سپاہیوں کو ساتھ

لے کر قصر خلافت میں گیا۔ وہاں متوکل اور فتح بن خاقان بمبیدی رہتے تھے
 محفل جم رہی تھی۔ چنانچہ متوکل اور فتح کا کام تمام کر دیا گیا۔ منتصر نے شہرت
 دے دی کہ فتح نے متوکل کو قتل کیا۔ اس پر اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔
 متوکل خلیق و متواضع بہت تھا۔ بلکہ سخاوت و داد و دوش میں اپنی
 سیرت اسلاف کا نمونہ تھا۔

متوکل کو امام شافعی سے بڑی عقیدت تھی اور ان کے مسلک
 کا حامی تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ کاش میں ان کے زمانہ میں ہوتا
 تو ان کو دیکھتا اور ان سے علم حاصل کرتا۔ علامہ سیوطی نے اس کو ناہمی
 لکھا ہے۔ یہ خطاب دشمنی علوم کی بنا پر دیا گیا۔

حضرت ذوالنون مصری سے متوکل کو بڑی عقیدت
 تھی۔ مصر سے ان کو بلایا اور اپنے پاس رکھا اور ان کے
 باتیں کیں۔ اس کے بعد سے جب ملاقات ہوئی۔ بڑی عزت کیا کرتا تھا
 متوکل بھی مثل دیگر خلفائے بنی عباس کے عشرت پسند تھا
 مگر اس قدر نہ تھا جس قدر کہ شیعہ مورخین نے اس کے

اوپر اتہام لگائے ہیں۔ مسعودی اور ابن طقطقی وغیرہ نے لکھا ہے کہ متوکل
 شراب پیتا تھا اور چار ہزار کنیزوں سے خلوت کی اور تفتن طبع کے لیے
 اس کے دربار میں مسخرہ شرب کیے جاتے۔ علامہ سیوطی بھی کنیزوں کا فسانہ
 لکھتے ہیں۔ متوکل جائز حدود کے اندر عیش و طرب کا دلدادہ ضرور تھا

۱۔ ابن خلدون جلد ۱، کتاب ثانی ص ۲۰۱۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۱۔ ایضاً

اور اس کے عہد میں عیش و طرب کے اتنے سامان جمع ہو گئے تھے کہ اس کا زمانہ عہد سرور کہا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص احیاء سنت کا داعی ہو وہ شراب کیسے پی سکتا ہے۔ یہ افترار شیعہ مورخین کی ہے البتہ بینڈ کا وہ عادی تھا جو بعض علماء عراق کے نزدیک جائز ہے۔ خطیب، طبری وغیرہ نے اس کی مے نوشی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اہل بیت کے ساتھ اس کا طرز عمل ناپسندیدہ تھا۔ اس لیے شیعہ مورخین نے حرمانِ شریعہ بھی اس کی جانب منسوب کر کے زعمِ باطل میں ثواب حاصل کیا ہے

سخاوت | متوکل نہایت سخی واقع ہوا تھا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ متوکل نے شعرا کو جس قدر انعام دیا ہے کسی خلیفہ نے نہیں دیا چنانچہ مژان ابن ابوالجوز نے ایک شعر پڑھا

ترجمہ :- اپنے ہاتھ کو جو دے روک لے۔ کیوں کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں یا مجھ پر کوئی سختی نہ پڑے۔

یہ شعر منکر متوکل نے کہا کہ اس وقت ہاتھ نہ روکوں گا کہ میرا جو دو سخا تجھے غرق نہ کر دے چنانچہ ایک قصیدے کے صلہ میں اسے ایک لاکھ دس ہزار درہم اور پچاس کپڑے انعام دیے۔

فیاضی میں اعتدال | بخل اور اسراف میں متوکل معتدل تھا یہ رائے مسعودی کی ہے۔ مگر سیوطی کہتے ہیں کہ ان کی داد ہمیشہ عام تھی۔ شعرا کو بہت صلہ گسٹری سے نوازتا تھا۔

۱۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۲ ط ۵ مروج الذهب مسعودی ج ۱ ص ۱۹۱

واقعہ | ابو عبادہ نخعی عربی کے مشہور شاعر نے متوکل کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا۔ ختم کے بعد ایک درباری ابو العیسٰی اٹھا اور اس نے ابو عبادہ کی نقل کی۔ متوکل بہت ہنسنا اور خوش ہو کر دس ہزار درہم انعام دیے۔ فتح بن خاقان نے کہا۔ امیر المومنین! مسخرے کو حضور نے دس ہزار دتے۔ ابو عبادہ نے کیا قصور کیا کہ وہ محروم رہا جاتا ہے متوکل نے کہا۔ اس کو بھی دس ہزار درہم دیدو۔

متوکل کے دربار میں ماموں، والیق کا سارعب و اب نہ رہا تھا شعراء اس کے سامنے ہزل گوئی کرتے اور متوکل محظوظ ہوا کرتا۔ اس کا یہ اثر پڑا کہ۔ امراء کی عنقاہیں بھی ہنسی مذاق کی صحبتیں بن گئی تھیں۔

نظم مملکت

نظم حکومت متوکل کا معنظم اور والیق کے مانند تھا جو دستور حکومت منصور کا تھا وہ برقرار نہ تھا۔ متوکل کے عہد میں وزارت میں ابتری پھیلی گورنروں کے گھڑی گھڑی کے تبادلہ نے نظم میں گر بڑ پیدا کر دی۔

عمال کی تفصیل | ۲۳۳ھ میں متوکل نے بلاد فارس پر محمد بن ابراہیم بن مصعب کو مقرر کیا۔ ان دنوں موصل کا حاکم خانم

بن حمید طوسی تھا۔

متوکل کے اوائل زمانہ خلافت میں محمد بن عبداللہ بن الزیات قلمدار وزارت کا مالک تھا اور دیوان خراج و محکمہ مال یا بورڈ آف ریونیو کا

یحییٰ بن خاقان خراسانی (رازو کا غلام) افسر اعلیٰ تھا۔ اس زمانہ میں فضل بن مروان معزول کیا گیا اور بجائے اس کے دیوان نفعات پر ابراہیم بن محمد بن خنول مامور ہوا۔ ۲۳۳ھ میں محمد عیسیٰ کو معزول کر کے منصر کو گورنر کیا گیا کہ پیشتر لکھا جا چکا ہے۔ ایٹاخ حج کو گیا تو حجابت پر وصیف خادم کو مامور کیا۔

پولیس | اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کے مرے کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم کو بغداد پولیس افسری کے عہدہ پر مامور کیا۔

وزارت | ۲۳۳ھ میں ابن ریاست کے بعد احمد بن خالد میزبانی وزیر اعظم ہوا تھا وہ معزول ہوا اس پر محمد بن فضل جرجانی ہوا۔

۲۳۶ھ میں عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان عہدہ سکرٹری سے وزارت پر سرفراز کیا گیا جو متوکل کے آخر عہد تک رہا۔

قاضی القضاة | ۲۳۹ھ میں قاضی احمد بن ابی دواؤ عہدہ قضا سے معزول کیا گیا۔ اور اس کی جگہ ضبطی میں آئی اور اس

کے لڑکے ابوالولید سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم وصول کئے اور قاضی یحییٰ بن اکنہم کو قاضی القضاة کا عہدہ عنایت کیا۔ پیر ابوالولید مذکور کو صیغہ فوجداری کے اختیار دیئے۔ بعد چندے اس کو معزول کر کے ابوالزیر محمد بن یعقوب کو مامور کیا۔ آخر میں اس کو علیحدہ کر کے صیغہ یحییٰ کو دے دیا گیا۔ ۲۴۰ھ میں قاضی یحییٰ پر بھی عتاب نازل ہوا۔ ۲۴۱ھ

۱۵ ابن خلدون جلد ۱ ص ۱۹۹ قاضی ۲۴۱ھ میں فوت ہوا۔

دینار اور ۴ ہزار جریب زمین جو بصرہ میں ان کی تھی وہ ضبط کی گئی اور ان کو معزول کر کے ان کی بجائے جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلمان بن علی کو قاضی القضاات کے عہدے پر مامور کیا۔

نظام مالیت | منقسم اور واثق کے زمانہ میں مالیات پر خاص اثر پڑا۔ متوکل نے اس طرف زیادہ توجہ کی۔ عمال پر جرمانے کئے اور جلد جلد عامل بدے۔ قلمرو عباسیہ میں مصر کی حالت زیادہ خراب تھی تو احمد بن مدبر کو مصر کا افسر خراج مقرر کر کے متوکل نے بھیجا۔ اس نے بہت سے جدید ٹیکس غائد کروائے۔ بلا و مصر کی آراضی کا ٹیکس دو جنسوں میں تقسیم کر دیا۔ "خراچی"۔ "ہلالی"۔ خراچی میں ٹیکس، کھجور، انگور کی پیل، بیوہ جات کے باغات کی پیداوار پر ٹیکس لگائے۔

"ہلالی"۔ گھانس۔ مچھلی وغیرہ پر ٹیکس تھا۔ یہ ٹیکس علم و فن کی ترقی آپامشی کی سہولتوں کے لیے اور دیگر منافع عامہ کے تعمیری کاموں کے نام سے غائد کئے گئے۔

جزیبہ کی آمدنی دار الخلافہ روانہ کر دی جاتی۔ باقی رقم مصر کے اخراجات میں صرف ہوتی۔

رعایا سلوک | متوکل کو رعایا کا بڑا خیال تھا اور ان کے ساتھ منصفانہ رعایا سلوک کرتا وہ کہا کرتا تھا کہ

اگلے خلفاء رعایا پر اس لیے سختیاں کیا کرتے تھے کہ

وہ اس سختی کے خوف سے ان کے میطع رہیں اور میں نرمی کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں، میرے پاس آئیں اور میری اطاعت کریں۔

عدل متوکل کے عدل و انصاف کی بڑی شہرت تھی۔ مسعودی کہتا ہے عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی متوکل کا زمانہ ممتاز شمار کیا جاتا ہے۔

رواداری غیر مسلموں کے ساتھ بے حد رواداری کا پرتاؤ کرتا تھا۔ مگر عیسائی اپنی غمخت باطنی سے شرارت کیا کرتے۔ رومی حکومت سے ساز باز رکھتے۔ مسلمانوں کا لباس اور معاشرت اختیار کیے رہتے۔ مسلمان ان کے دھوکے میں آکر اپنے دل کا حال کہہ گزرتے۔ رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری ہوئی۔ عیسائی ان کو خیر کر دیتے اس بنا پر شناخت کے لیے عیسائیوں کے لباس و وضع و قطع و مذہبی مراسم پر چند قبو و متوکل نے لگا دیئے۔ اس کا نتیجہ بے حد مفید ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر میں ذمیوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ اس نے یہ حکم نافذ کیا کہ اسلامی مکتب میں ان کے بچے داخل نہ کئے جائیں اور نہ کوئی مسلمان ان کو تعلیم دے۔

ملک کی آسودہ حالی متوکل کا دور عباسی حکومت کا دور زریں کہا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں رعایا فارغ البال تھی

لہ تاریخ خطیب جلد ۷ ص ۱۶۶ شرح الذهب ج ۲ ص ۱۹۱ لکھ ابن اثیر۔

عیش و تنعم کے سالوں کی فراوانی۔ تمدنی نفاستیں اور نزاکتیں معراج کمال کو پہنچ گئی تھیں۔ مسعودی لکھتا ہے۔

متوکل کا زمانہ۔ اپنی بھلائیوں۔ خوبوں۔ سرسبزی
و شاواہی و فارغ البالی اور رفاہیت عیش و
عشرت کے لحاظ سے عہد مسرور تھا سارے عوام
و عوام خوش و خرم تھے۔“

رشتہ ستانی | متوکل کے اولین عہد میں البتہ رشوت کا بازار گرم تھا۔ مگر
متوکل نے بڑے بڑے عہدہ داروں کو سخت سزا میں ڈس
اور گراں قدر جانے وصول کئے جس سے رشوت ستانی کا دروازہ بند
ہو گیا۔“

رفاہ عام | اس کے زمانہ میں راستہ پر امن تھے۔ تمام اشیاء کی ارزانی تھی
اہل حرفہ، تاجر خوش حال تھے۔ آئے دن متوکل عملات وغیرہ
بنواتا رہتا جس سے غربا کو فائدہ پہنچتا رہتا۔
متوکل نے ایک ارب درہم ہارونی - قصر جعفری کی تعمیر میں
خرج کئے۔“

خزانہ | متوکل نے صلہ گستری، داد و پیش میں کروڑ ہا روپیہ صرف کیا۔ مگر
پھر بھی بقول مسعودی کے ۴۰ لاکھ دینار اور ستر لاکھ درہم اپنے
بعد خزانہ میں جموڑ گیا۔“

تذکرہ مروج الذهب جلد ۵ ص ۲۴۵-۲۴۶۔

شہزاد کا آغاز متوکل کے زمانہ میں گو فتوحات کا دائرہ بہت وسیع رہا مگر

کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہ تھی۔ رعایا خوش حال، طاہری و بدبہ

بھی قائم تھا۔ لیکن اندرونی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ترکوں کے غلبہ کو

حکومت کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا۔ اقتدار اتراکستان سے عربوں کی عصیت

ختم ہو گئی تھی۔ امارت ان کی جاتی رہی۔ فوجی ہمدان سے ان کو علیحدہ

کر دیا گیا تھا جس سے مجاہدانہ اور فاتحانہ اسپرٹ ان کی ختم ہو گئی۔ اس کے

علاوہ خود خلیفہ ان کے مقابلہ میں کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفہ مقتصم کی غلطی کا نتیجہ

خاندان بنی عباس بھگت رہا تھا۔

مقتصم اور اس کے بعد والی کے عہد میں فوج میں ترکی عنصر غالب

فوج تھا۔ عرب اور عجمیوں سے زیادہ حکومت میں ان کی پوچھ تھی جس

کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجداد لوگ حکومت پر چھا گئے۔ اور ان کا استبداد بہت بڑھ

گیا۔ وزراء و وزراء خلیفہ کو ترک خطرہ میں نہ لاتے۔ متوکل خود ان سے تنگ گیا

آخر میں اس نے یہ طے کیا کہ ان کے سر پر آوردہ لوگوں کو جس درجہ سے اٹھتے تھے

وہیں لے جا بھٹکے۔ چنانچہ ترکی امیر ایتاخ جو سپہ سالار اور صاحب تھا اور

سامرہ کا سب سے بڑا امیر اس کے پیچھے آدمی لگا دیئے۔ انہوں نے اس کو

حج پر جانے کے لیے آمادہ کر دیا۔ ایتاخ نے متوکل سے اجازت طلب کی یہاں

سے معہ خلعت فاخرہ ان کو رخصتی ملی۔ متوکل نے بغداد کے شہنشاہ اسحاق بن ابراہیم

مصعبی کو خفیہ اطلاع بھیجی کہ تم ایتاخ سے نبٹ لینا۔ چنانچہ حج سے لوٹ

کر ایتاخ کو فدا کیا۔ اسحاق پیشوا کی کو پہونچا۔ ادھر متوکل کی طرف سے استقبال

کیلئے مقدمہ خلعت اور تحائف کے کوٹہ آیا۔ غرض کہ کوٹہ سے بغداد ایتاخ کو لے کر محل خزیمہ میں اسحاق داخل ہوا۔ اندرون محل ایتاخ کو گرفتار کر لیا۔ اور سلیمان بن وہب اور قدامہ بن زیاد اور اس کے دونوں بیٹے منصور و مظفر جبل میں بند کر دیئے گئے۔ ایتاخ کو وہ تکالیف دی گئیں کہ ۲۳۵ھ میں قید ہی میں گھٹ کر مر گیا۔

دارا نخواستہ سامرہ سے متوکل بیزار ہو گیا تھا دمشق گیا تو یہاں فتنہ سامرہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آخرش سامرہ پھر لوٹ آیا۔

جعفریہ کی تعمیر | متوکل کو تعمیرات اور شہر آباد کرنے کا بڑا شوق تھا چنانچہ اس نے ۲۳۵ھ میں سامرہ سے چند میل کے فاصلہ

پر بخوزہ قصبہ کو شہر کی صورت میں آباد کیا۔ اس کی تعمیر میں تیس لاکھ ڈنار صرف کئے گئے۔ اپنے لیے خاص طور پر ایک بلند محل متوکل نے تعمیر کرایا جس کا نام قصر لولورکھا۔ دو لاکھ دینار اس کی تعمیر میں صرفہ میں آئے پانچ میل کے فاصلہ سے ایک نہر لانی چاہی۔ خلیفہ کی توجہ دیکھ کر امراء نے بھی اپنے مکانات وہاں بنوائے جس سے کچھ عرصہ بعد دوسرا سامرہ جعفریہ بن گیا۔

تعمیر محل کی داستان | اند کو بانڈ کر سامرہ میں ۲۳۵ھ میں متوکل محل بنوا رہا تھا جس کے لیے روپیہ کی ضرورت پیش آئی تو

نجاح بن سلمہ میرٹھی نے بیس امراء کے نام کی فہرست مرتب کی جس میں وزیر اعظم بھی تھا اور اس کا بھائی موسیٰ بن عبد الملک اور اس کا نائب

اور حسن بن خالد وغیرہ تھے اور عرض کی کہ اُن کو میرے سپرد کر دیجئے میں
 رقم وصول کر کے پیش کر دوں گا۔ وزیر اعظم کو خبر لگی وہ متوکل کے پاس گیا
 اور کہا۔ امیر نجاح مخصوص امراء سے دولت کو آپ سے بدظن کرنا چاہتا ہے
 اور جو صورت وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس سے عام غلغشتا رہو گا یہ کہہ کر
 وہاں سے چلا آیا اور امیر موسیٰ اور امیر حسن کو بلا کر اُن سے کہا۔ خلیفہ تیار
 ہے کہ کل وہ تم کو نجاح کے سپرد کر دے وہ مال کی ضبطی کے ساتھ تم
 کو ایسی سزائیں دے گا کہ تم ہلاکت کے درجہ پر پہنچ جاؤ گے۔ لہذا تم
 اس وقت امیر المؤمنین کو کہہ بیجو کہ ہم محل کی تعمیر کے لیے بیس لاکھ دینار
 دینے کو تیار ہیں بشرطیکہ نجاح ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ ان دونوں
 نے سخر پرین لکھ دیں۔ اس کو لے کر وزیر اعظم خلیفہ کے پاس پہنچا۔ اس نے
 منظور کر کے نجاح کو اُن کے حوالہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے بیٹے
 چودہ ہزار دینار نقد وصول کئے۔ اور اس کی کل جائداد ضبط کی۔

نجاح کا کا تب خاص اسحاق بن سعد تھا۔ اس نے متوکل کی شاہزادی کے
 زمانہ میں ایک بار اس کی تنخواہ کے اجراء میں پچاس دینار رشوت میں لیے تھے
 متوکل نے حکم دیا کہ اس سے ہر ایک دینار کے عوض میں ایک ہزار دینار
 وصول کرو وہ مطالبہ ادا نہ کر سکا۔ قید کر دیا۔ مجبور ہو کر اس نے ۱۰۰ دینار
 ادا کئے تو قید سے رہائی ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد نجاح مر گیا۔

خلق قرآن | بدعت خلق قرآن اور رویت باری کے مسئلہ نے ماموں

سے لخص ابن اثیر و ابن خلدون جلد ۷

گو قلمرو بنی عباس میں متوکل سے پہلے سے درس حدیث کے حلقے قائم تھے
 جیسے امام ابو یعقوب اسحاق بن ابی الحسن یا بن راہویہ جو فضل بن عیاض
 اور ابن وکیع کے شاگرد تھے۔ ان کا حلقہ تھا۔ جہاں سے امام بخاری سے
 جلیل القدر محدث مستفید ہو کے نکلے۔ اور ان سے نوے ہزار نے الجامع
 الصغیر سنی۔ اس میں دس ہزار حدیثیں ہیں۔ بقول خود امام بخاری کے
 چھ لاکھ حدیثوں سے انتخاب کی ہے۔ ان شیوخ کی تعداد جن سے صحیح
 میں حدیثیں لی گئیں۔ دوسو نو اسی ہیں۔ امام کے جلیل القدر شاگرد امام
 مسلم بن الحجاج ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ انہوں نے امام بخاری
 سے اور ان کی کتاب سے احادیث روایت کی۔ وارفتنی کا بیان ہے کہ
 ”اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کچھ نہ کر سکتے انہوں
 نے یہ کہہ کر کہ امام بخاری کی کتاب سامنے رکھ کر
 حدیثیں لکھنا شروع کر دیں۔ کہیں کہیں اپنی طرف
 سے دیادتی بھی کی۔“

حاکم ابو عبد اللہ نے ”مسلم“ کی یہ تعریف کی ہے

ما تحت اديم سما كتاب اصح من كتاب مسلم بن الحجاج

مگر ایک عربی شاعر نے محاکمہ خوب کیا ہے

لدى وقالواى دين يقدم

لما فاق فى حسن الصاعه مسلم

(۱) تنازع قوم فى بخارى و مسلم

(۲) فقلت لقد فاق البخارى صحته

امام راہویہ نے ہجر، ۳۳۸ھ میں وفات پائی دہنذیب الکمال

متوکل کے عہد میں امام ابو داؤد بن اشعث الازدی اہستانی اور
 امام ابو عیسیٰ بن سوہب بن موسیٰ بن صفاک سلمہ ترمذی نے اپنے مجموعہ
 تیار کئے۔ ان کے بعد سنن ابن ماجہ۔ مسند عمارش (۲۸۲ھ) مسند بزار (۲۹۲ھ)
 مسند دارمی (۳۵۵ھ) کتب حدیث شریف ہوئیں۔

اشاعت علوم دینی | ان دنوں بغداد و حدیث کی اشاعت کا مرکز بن
 گیا تھا۔ امام بخاری کے شاگرد فریری سے بھی نوے
 ہزار آدمیوں نے صحیح بخاری کی اجازت حاصل کی۔ متوکل کے عہد میں
 محدثین نے اشاعت حدیث میں خوب خوب سرگرمی دکھائی۔

احمد بن جعفر راوی ہیں کہ جب امام ابو مسلم بغداد آئے تو
 نامی مقام پراہنوں نے حدیث کا اہل کیا۔ سات ستیلے کھڑے ہوئے۔
 جن میں سے ایک دوسرے کو شیخ کی روایت پہنچاتا تھا۔ اور لوگ کھڑے
 کھڑے تحریر حدیث میں مصروف تھے یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کس قدر
 آدمی اس وسیع میدان میں فراہم تھے۔ میدان مذکور کی پیمائش کی گئی اور
 دو اہل گنی گئیں۔ کچھ اوپر پچالیس ہزار دو اہل ہوئیں جو لوگ لکھتے تھے
 صرف سماعاً شریک تھے وہ اس تعداد سے خارج ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فقوڑے عرصہ میں بغداد کا پایہ علم حدیث کی
 اشاعت میں فائق تھا۔ مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سو شیوخ
 سے فن حدیث حاصل کیا اور باوجود شیوخ کی اس کثرت کے میں دجلہ کے

لے مقدمہ فتح الباعلام امام ابن الجبر العفلائی متوفی ۵۵۲ھ صفحہ ۵۸۰

پل سے اتر کر نہیں گیا۔ بغداد میں آٹھ سو اساتذہ حدیث ایسے تھے جو شیخ کے
لقب سے ملقب تھے یہ

علوم عقلیہ کی ترقی | متوکل کے عہد میں علوم عقلیہ کی ترویج و اشاعت عام
تھی۔ موسیٰ بن شاگرد کے لڑکوں نے جو رصد گاہ بنائی

تھی۔ اس کو متوکل کے زمانہ میں الفطیری اور محمد بن عیسیٰ ابو عبد اللہ نے
لے حد ترقی دی اور علم ہیئت کے بعض مسائل پر عالمانہ روشنی ڈالی۔
آفتاب اور دیگر ستاروں کی گردش کے متعلق حیرت انگیز معلومات اور
تحقیقات بہم پہنچائی۔ ابو الحسن نے وورہین ایجاد کی تھی اس کی ان ہیئت
دانوں نے اور اصلاح کی۔

علاء امام سلیمان بن حرب محدث کا واقعہ ہے کہ ماموں کے زمانہ میں قصر خلافت کے
ایک مرتفع جگہ مثل منبر تیار کی گئی تاکہ اس پر بیٹھ کر اہل حدیث کریں اس مجلس میں
ماموں اور تمام امرائے خلافت حاضر تھے جو لفظ امام ممدوح کے منہ سے نکلتا ماموں
اپنی قلم سے لکھتا جاتا۔ جب کل حاضرین درس کا اندازہ کیا گیا تو چالیس ہزار نفوس
انداز میں آئے معتصم کے زمانہ میں امام عاصم ابن علی اہل حدیث کے واسطے
بغداد باہر نخلستان میں ایک بلند چوڑے پر بیٹھے تھے ان کے مشلے ہاروں نے کمرے
پونے کے واسطے ایک خمدار کھجور کا درخت پسند کر رکھا تھا۔ خلیفہ معتصم نے ایک بار
ایک اپنا معتد اس مجلس کے شرکار کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا۔ معتد نے ارشاد خلافت
کی تعمیل کی تو ایک لاکھ بیس ہزار پر حاضرین کی تعداد پہنچی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ محدثین
دیباچی اسکے صفحہ پر

ماوراء النہری ابوالعباس احمد الفرغانی متوکل کے عہد کا ممتاز بہیت
 داں تھا جس نے متوکل کے لیے فطاس میں ایک نیل پہیا تیار کیا تھا
 اس کی ایک بے نظیر تصنیف کتاب المدخل الی ہئیۃ الافلاک ہے۔
 حکیم ابو زید حنین بن اسحاق عبادی یونانی زبان کا عالم شاگرد خلیل
 بن احمد، یہ وہی فلسفی اور طبیب ہے جو پہلے بنو موسیٰ بن شاگرد
 کے یہاں ۲۵۰ پونڈ مشاہیرہ پاتا تھا۔ پھر ماموں کے یہاں اس کے ہر
 ترجمہ کی ہوئی کتاب کا معاوضہ دربار شاہی سے کتاب کے برابر وزن
 سونا پاتا تھا۔ متوکل نے ۸۴۶ء میں اپنا طبیب خاص مقرر کیا۔ ۲۴
 صفر ۳۶۶ء میں انتقال ہوا طبقات الاطباء میں، وہ اخبار الحکما نفل بن ۱۹
 علی بن بہل ابان الطبری مصنف فردوس الحکمة رشہ غسانی
 متوکل کے دور خلافت میں مشرت باسلام ہوا۔ اور ایک عرصہ تک خلیفہ
 کا معالج رہا۔

علم تاریخ علامہ بلاذری نے اس عہد میں اپنی کتاب فتوح السیدان
 مرتب کی۔ علامہ نے ۸۴۶ء میں انتقال کیا۔ اس عہد میں
 طبقات ابن سعد کا مصنف گزرا۔ ابن سعد نے ۸۴۵ء میں وفات پائی
 جغرافیہ ابن خرداداذب متوفی ۸۴۶ء میں سلسلہ رسائل
 مسالک و ممالک جغرافیہ میں کتاب لکھی۔ اس سے ابن الفقیہ اور

پہلے نسخہ سے آگے کرام پر حکومت کی طرف سے سخت گیرمی تھی۔ معتزلہ ابن محمد بن کوہر
 عنوان پریشان کرتے تھے۔ لہٰذا ابن خلکان

ابن حوقل نے اپنی تصانیف پر بڑا کام لیا ہے۔

حیاتیات | ابو عثمان عمرہ ابن بجر الجاحظ موتی ۸۵۰ء ساکن بصرہ، متوکل کا ہم عصر تھا۔ کتاب الحیوان تصنیف کی بہن جانوروں

کے کشمکش حیات پر بحث کی ہے اس نے جانوروں کے براؤنٹک سے کشید کے

امونیا بنایا۔ کتاب الامصار یا البیان والیشین، کتاب الامثال وغیرہ تصانیف ہیں۔

کتابخانہ | متوکل کو زیادہ کتابوں کا شوق نہ تھا۔ البتہ شاہی کتب خانہ

جو ماموں کے عہد میں قائم ہوا تھا۔ اس کو تلف ہونے نہیں

دیا۔ البتہ ابن ابی حجرش جلد ساز مونی کی ہاتھ کی بنی ہوئی کتابوں

کی بہت حفاظت اس کو منظور تھی۔

فتح بن خاقان وزیر متوکل نے عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا تھا

اور اس کا مہتمم علی بن یحییٰ منعم تھا۔ اس زمانہ میں یہ کتب خانہ لے نظیر کہلاتا

تھا۔ بغداد اور سامرہ کے علماء اور امرار کے کتب خانہ بھی تھے مگر فتح بن

خاقان نے محمد بن عبد الملک وزیر واثق باللہ جو کتابوں کی نقل و کتابت

و ترجمہ میں دس ہزار روپے ماہوار خرچ کیا کرتا تھا۔ اس سے بہت زیادہ فتح

بن خاقان اپنے کتب خانہ پر صرف کرتا تھا۔

بیت الحکمت | متوکل نے بھی ترجمہ کے کام اور تصنیف و تالیف کے شعبہ پر

بے حد توجہ کی۔ اپنے طبیب حسین بن اسحاق کو بیت الحکمت

کا افسر مقرر کیا اور بہت سے زبان دان اور فصیح و بلیغ مترجم اس کی ماتحتی میں

دیئے یہ مترجمیں ترجمہ کرتے اور حنین ان کی اصلاح کی غرض سے دیکھتا

اور درست کرتا۔

متوکل نے حنین کی بے انتہا قدر دانی کی۔ ایوانات شامی میں سے
تین محل اس کی رہائش کے لیے خالی کر دیئے اور ان کو ہر قسم کے آرائشی
سامان سے سجوا کر شاہی کتب خانہ بھی وہیں رکھوا دیا۔ پندرہ ہزار ماہوار
تخواہ مقرر بھی کیے۔

علمائے معاصرین | ابو ثور، ابراہیم بن منذر حرامی۔ اسحاق بن راہویہ،
اسحاق بن ندیم، موصلی، معنی، اروح مفری، زہیر بن
حرب، ممتون سلیمان الشاذکونی، ابو مسعود العسکری، ابو جعفر نقیبی، ابوبکر
شاعر۔ عبد الماکب بن حبیب امام مالکیہ، عبد العزیز بن محی شاگرد امام
شافعی۔ عبید اللہ بن عمرو قواری، علی بن المدینی محمد بن عبد اللہ بن تمیر
یحییٰ بن معین، یحییٰ بن بکیر، یحییٰ بن یحییٰ، یوسف الازرق المقری، بشر بن
الولید الکندی المالکی۔ جعفر بن حرب بن مکابر المعتزلہ، ابن کتاب المنکلم،
ہارث محاسبی، حرملہ شاگرد امام شافعی، ابن سکیت۔ احمد بن منیع، ابو تراب
بخشینی، ابو عمر الدوری المقری، واصل شاعر، الوعثمان الماڈنی عموی
محدث و فقہا ابراہیم بن یوسف بن میمون بن قلیب بن یحییٰ شیخ اکمل محدثا فقیہ امام
ابو یوسف کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ والی بلخ آپ کی منزلت
کرتا تھا۔ ۲۲۳ھ میں وفات پائی۔

یحییٰ بن اکثم ہروزی فقیہ و محدث، حدیث امام محمد و انس المبارک

کے رسائل مشہور ہیں ۲۵۳ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۷

دسفیان سے سنی۔ ۲۳۳ھ میں انتقال ہوا۔

ہمال بن یحییٰ بن مسلم فقیہ و محدث زفر سے فقہ حاصل کی اور ابو
عوانہ سے حدیث سنی۔ ۲۴۵ھ میں وفات پائی۔

خالد بن یوسف بن خالد اسمیٰ فقیہ، محدث ۲۴۵ھ میں وفات
ہوا۔

اسحاق بن بہلول فقیہ، حافظ، محدث شاگرد حسن بن زیاد ۲۵۲ھ
میں انتقال ہوا۔
(مقدمہ فتاویٰ ہند بہ)

ملوک طاہریہ

طاہر بن حسین قاتل خلیفہ امین خراسان پر دولت طاہریہ کا بانی
ہے جس کا تفصیلی حال پہلے آچکا ہے۔ طاہر کے بعد طلحہ بن طاہر۔ علی بن
طلحہ، عبداللہ بن طاہر، طاہر بن عبداللہ۔ محمد بن طاہر بن عبداللہ کے
ورثے یہ پانچ والی خلفاء کے حکم سے مقرر ہوئے۔ یہ حکمراں برابر منقطع خلفاء
کے تھے۔ محمد بن طاہر کو حسن بن زید علوی سے بہت تکلیف پہنچی آخر
میں یعقوب بن لیث بانی دولت صفاریہ سے مقابلہ ہوا اور ملوک طاہریہ
کا اس پر خاتمہ ہو گیا۔

دولت طاہرہ میں جہاں تہور و شجاعت و سردانگی کے جوہر تھے

لے طاہر بن حسین کا باب مصعب بن زرقی تھا جو سلیمان بن کثیر خزاعی دعوت نبی صلی
کا کاتب تھا و کان بلوغاً من کلامہ حسین کا انتقال ہوا تو مایوں جنازہ میں شریک ہوا تھا
ابن سعد کان ج ۱ ص ۲۳۶

وہاں ظلم سے بھی لگاؤ تھا خراسان میں جہاں بدعت کا زور تھا وہاں اشاعت
حدیث کا بھی بڑا انتظام تھا۔

ابن رافع قشیری حافظ حدیث نے اپنے مکان پر
حدیث کا درس شروع کیا۔ طلبہ کے علاوہ خراسان
کے امیر نامور طاہری اولاد بھی معہ خدم و خشم حاضر
درس ہوتی شیخ کے مجال کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کسی
کو بات کرنے یا مسکرانے کی مجال نہ تھی

دولتِ طاہریہ کے زمانہ میں کثرت سے خراسان میں درسگاہیں
قائم ہوئیں۔ جہاں سے بڑے بڑے اصحابِ فن پیدا ہوئے۔

دولتِ صفاریہ

یعقوب بن لیث صفاری تبدیل میں ایک مزدور تھا۔ پھر لیثروں کی حاکمیت
کا سردار بن گیا۔ اور اپنے ساتھی و رہم بن حسین کو دھتایا کر خود رفتہ رفتہ
ترقی کرتا ہوا خراسان۔ کابل۔ بلخ۔ طبرستان کے علاقوں پر چھا گیا۔ محمد
بن طاہر کو قید اور اس کے مد مقابل حسن بن زید عامی کو شکست دی یہ عہد
مستند کا تھا۔ پھر یعقوب نے فارس پر قبضہ جمایا۔ خلیفہ نے یہ رنگ دیکھ کر
فارس اور خراسان کی ولایت (گورنری) خوشی سے یعقوب کو دینا چاہی
لیکن اس کو تو تاجِ خلافت کی دھن تھی یہ کب ماننا تھا پہلی لڑائی میں خلیفہ کے

لئے تذکرہ الحفاظ علامہ ذہبی جلد ۲ ص ۹۳

بھائی موفوق نے کسی جیلہ سے یعقوب کو بھگایا۔ اور جب دوبارہ یعقوب نے
ظہاری کے ساتھ چڑھائی کی تو درودِ قونج نے اسے فرصت نہیں دی یعقوب
بڑا مستقل مزاج اور بہادر تھا۔ زندہ رہتا تو خلافت خطرہ میں رہتی۔

خلیفہ مہتمم کا ایلچی جب فارس اور خراسان کی ولایت کا پروانے
کر صلح کا پیغام لایا تو اس نے سامنے تلوار۔ نان خشک اور ساز رکھ کر
کہا کہ میں تلوار سے سلطنت لوں گا۔ خلیفہ کا مطیع ہونا مجھے منظور نہیں
ہے اور تلوار نے میری مدد نہ کی تو سوکھی روٹی اور ایک پیاز کی
گھٹی مجھے بہت ہے۔

یعقوب کے مرنے کے بعد اس کے بھائی عمر بن لیث نے خود خلیفہ
کی خدمت میں اظہارِ اطاعت کا خط بھیجا۔ وہاں سے عراق، عجم، فارس
اور خراسان کی حکومت اس کو عطا ہوئی۔ اس کے خاندان کے طاہر بن محمد
لیث بن علی، عمر دین یعقوب، خلف ابن احمد کے بعد گریے پستان کے
حاکم ہوئے۔ سامانیوں سے مقابلہ رہا۔ آخر اس یہ دونوں خاندان تباہ ہوئے
دولتِ عمڈاریہ اور سامانیہ کا ایک ساتھ خاتمہ ہوا۔

دولتِ ہہار یہ

قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنی اسد میں ایک شخص ہمار بن اسود جو
شہ میں مسلمان ہوا۔ اس کی اولاد میں منذر بن زبیر سندھ کے والی حکم

یہ ابن اثیر ج ۷ ص ۱۰۶ اور مردج الذہب ج ۷ ص ۵۴۰ و ابن خلکان ج ۲ ص ۱۱۹

بن مویہ متوفی ۱۲۱ھ کے ساتھ سندھ پہنچا اور قنات پذیر ہو گیا عمر بن عبدالعزیز
 اس کا سبط تھا۔ عبدالعزیز کے بعد عبدالمدحاکم منصورہ بنا۔ یہ تخت
 نشینی کے بعد بڑا لائق ثابت ہوا۔ امن و امان کے قیام کے ساتھ بڑا رعاب
 قائم کیا۔ اس کا وزیر ریح تھا۔ اس کے دولہ کے محمد اور علی تھے۔ ایک
 قاضی مقرر کیا جو آل ابی شوارب کے خاندان سے تھا پھر عبدالرحمن بن علی
 حاکم ہو گیا۔ ان پر اسماعیلیوں کا غلبہ ہو گیا۔ ۱۲۴ھ میں محمود نے ملتان پر
 قبضہ کیا تو منصورہ پر اس کا تسلط ہو گیا اور بہاری خاندان ختم ہو گیا۔

خلیفہ محمد بن جعفر الملقب بہ منقر بن عبد

نام و نسب | محمد منقر بن متوکل بن معتصم بن ہارون الرشید، والدہ کا نام ہمیشہ تھا و امہ ام ولد يقال حبشیہ۔ منقر ۲۲۲ھ میں پیدا ہوا۔

بیعت خلافت | ۳۵ھ میں متوکل نے اس کے لیے ولعہدی کا فرمان لکھا تھا متوکل کے قتل کے بعد ۲۵ سال کی عمر میں اس کو ترکوں نے تخت خلافت پر بٹھایا۔ وصیف اور دوسرے ترک امرار نے اس کے ہاتھ پر ۴ شوال ۲۴۷ھ مطابق ۱۱ ابرو سمبر ۸۶۱ھ بیعت کی۔ دوسرے دن منقر کے سو بیٹے بھائیوں معتز اور ابراہیم موتمد نے بیعت کی۔ اس کے بعد تمام عمائد سلطنت سے بیعت لی گئی۔

وقائع | تخت خلافت پر بیٹے کے بعد منقر نے جعفریہ کو جسے متوکل نے بے شمار دولت صرف کر کے بنوایا تھا۔ کھد و اڈالا۔ یہاں کی کل آبادی اپنی پڑانی جگہ پر واپس کر دی گئی۔

ابوالعمود شاربلی کا خروج | منقر کو تخت نشین ہونے کے کچھ عرصہ گزرا تھا کہ سین میں بوارنج اور موصل میں ابوالعمود شاربلی نے بغاوت پیا کر دی۔ قبیلہ ربیعہ اور کرد بھی اس بغاوت میں شریک ہو گئے

۱۶ لے یعقوبی جلد ۱ ص ۲۰۶

اس وجہ سے ابو العمو و طاقت ور ہو گیا۔ منقر نے یہاں تک کہ سرور کو اس کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس نے چند مقابلہ کئے۔ آخر میں ابو العمو گرفتار ہوا اور منقر کی خدمت میں بھیجا گیا۔ منقر نے اطاعت کا عہد لے کر آزاد کر دیا۔

فتوحات | ۳۳۷ھ میں امیر عبداللہ بن عباس مجاہد اعظم عباس کے مرنے کے بعد امیر صقلیہ ہوا۔ اس نے جبل بن مالک ارمنین، اور مشارع متعدد و قلعے فتح کئے۔ پانچ ماہ بعد ۳۳۸ھ میں عبداللہ کی جگہ خفاجہ بن سفیان امیر مقرر ہوا۔ اس نے اپنے لڑکے محمود کو سر قوسہ روانہ کیا اس نے سر قوسہ کو تاخت کیا۔ مگر قبضہ نہ کر سکا لوٹ آیا۔

وزارت | منقر نے عبید اللہ بن خاقان کو معزول کر کے احمد بن خصیب کو جو اس کا کاتب تھا۔ وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا۔

منصب قضاة | جعفر بن عبدالواحد ہاشمی کو منصب قضاہ پر مقرر کیا گیا۔

اتراک کا اقتدار | متوکل کے قتل کے بعد سے ترک کی امرا اور فوج خود کو اتراک کا اقتدار ہو گئی تھی۔ ان کی ہدایت سے خود خلیفہ لرزہ بہ اندام

تھا۔ وصیف اور بقانے اس سے کہا کہ اپنے دونوں بھائیوں کو ولی عہدی سے معزول کر دو۔ چنانچہ منقر کے کہنے ہی موافق نے فوراً منظور کر لیا۔ بعد کو معتزلے بھی دست برداری لکھ دی ورنہ ان کی جان کا خطرہ تھا۔

ذریعہ احمد بن خصیب ترک کی جنرل امیر و وصیف سے مخالفت رکھتا

۱۰ مروج الذهب ج ۱، ص ۲۰۹، ابن اثیر ج ۱، ص ۲۲۱، تہذیب و اشراق ص ۲۵۸

تھا۔ اس نے منقر سے کہہ سکر آما وہ کیا کہ وصیف دار الخلافہ سے علیحدہ رہے
 چنانچہ منقر نے وصیف سے ایک دن کہا۔ قیصر روم سرحد پر حملہ کرنا چاہتا ہے
 آپ جائیں یا میں اس کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوں چنانچہ وصیف نے
 کہا۔ تمکو وارجلے کو تیار ہے۔ چنانچہ وزیر خصیب نے حملہ سامان کا انتظام
 کر دیا۔ امیر وصیف سرحد روانہ ہو گیا۔

صفات منقر منقر عظیم، عقیف، بامروت، اس کا حسن خلق بڑھا ہوا تھا
 متوکل نے شیعوں پر جو قیود عائد کر دیئے تھے۔ ان کو
 یکس قلم اٹھا دیا۔ تمام غازیوں کے وظائف جاری کر دیئے اور اوقات ^{مست} والذ
 کر دیئے گئے۔ باغ فدک عطا کر دیا۔ کربلا کی زیارت کی اجازت دیدی۔
 علامہ سیوطی کا بیان ہے کہ

منقر نے رعیت میں عدل و انصاف پھیلا یا اور لوگ

باوجود اس کی ہدیت کے اس کی طرف مائل ہو گئے

کیوں کہ وہ سخی اور عظیم الطبع تھا۔

منقر عرب دار تھا۔ ہر وقت باخبر رہا کرتا تھا۔ مگر نہایت مسکین واقع
 ہوا تھا۔ مال و زر کی اتنی حفاظت کرتا تھا کہ لوگ اسے بھیل اور کنجوس کہا کرتے
 تھے۔

حلیہ قدمیانہ، حسین چہرہ، گندمی رنگ، نہایت حسین و عظیم اور بارعیت و

لہ طبری جلد ۱۲ ص ۴۸۰ اسے تبیر و اشرف ص ۲۵۸ تالیف کامل ج ۲ ص ۴۲

و نورث الوفا ج ۲ ص ۸۳ اسے تالیف انکشاف ص ۲۴۸

داب تھا۔

واقعہ عبرت | منقر نے اپنے باپ کے خزانہ سے کچھ فرس نکلوئے اور اس کو ایک مکان میں بھجوا دیا۔ ایک فرس کے وسط میں ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ اور اس میں ایک سوار کی تصویر جس کے سر پر تاج تھا۔ بنی ہوئی تھی اس کے چاروں کناروں پر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک فارسی خواں کو خلیفہ نے بلوایا۔ وہ پڑھ کر کچھ چپ سا ہو گیا۔ منقر نے پوچھا کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے کچھ معنی میری سمجھ میں نہیں آئے۔ مگر خلیفہ اصرار کرتا رہا مجبور ہو کر اسے سننے لگا کہ لکھا ہے کہ میں و شیر و یہ بن کسری بن ہز مزیوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ لیکن مجھے چھ ماہ سے زیادہ سلطنت کرنا نصیب نہ ہوا۔

یہ سنکر منقر کا رنگ فق ہو گیا اور اس فرس کو حلا دینے کا حکم دیا۔

باپ کے قتل کا غم | اس واقعہ کا غم بہت تھا۔ شب و روز باپ کے لیے رونا کرتا۔ اس غم میں چھ ماہ میں گھل گھل کر سوکھ گیا۔ ادھر باپ کے قاتلوں سے انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ ترک اس کے انداز کو سمجھ گئے۔ مسعودی کا بیان ہے کہ ایک دن منقر قصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ بغا صغیر ترکوں کے غول میں آتے دیکھا منقر نے اسے دیکھ کر فضل بن ماموں سے کہا۔ اگر میں والد کے بدلے میں ان کو قتل نہ کر دوں اور ان کی جماعت کو منتشر نہ کر دوں تو خدا مجھے قتل کر دے، ترکوں کو اس کا علم ہو گیا۔ چنانچہ سب سردار اس کی جان کے لاگو ہو گئے۔

۳۰۱ ص ۹۰ مروج الذهب ج ۲ ص ۳۰۱

وفات | منقر مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ امرائے ترک نے اس کے طبیب
ابن طیفوز کو تیس ہزار اشرفی دے کر مسموم آلہ سے فصد و لواد ہی جس کی
سمیت کے اثر سے منقر جانبر نہ ہو سکا۔

سامرہ میں منقر کا ۵ ربیع الثانی ۲۴۸ھ کو انتقال ہوا۔ احمد بن
محمد بن معنصم نے نماز جنازہ پڑھا کر یہیں دفن کر دیا۔ وفات کے وقت چپنی
سے اچھ باہ کی عمر تھی۔ مدتِ خلافت چھ مہینے دو دن۔

خلیفہ مستعین باللہ ابو العباس احمد عباسی

نام و نسب | ابو العباس احمد لقب مستعین بن محمد بن معتصم بن ہارون الرشید
اس کی والدہ کا نام غارق صقلونی تھا اور سن ۲۲۷ھ میں پہلی

بیعت خلافت | منصر کے مرنے کے بعد موالی کا اجتماع ہوا۔ ان میں
ممتاز ہستیاں بفا کبیر، بفا صغیر، اماش ان تینوں نے
اتراک مفاریہ اور اشرو مشنیہ کے امراء سے حق انتخاب خلیفہ لے کر
موسی بن شاکر منجم کی رائے سے احمد بن محمد بن معتصم کو خلیفہ تجویز کیا اور
اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور لقب مستعین باللہ رکھا گیا۔ مستعین ۵ بیح
الثانی ۲۲۸ھ کو تخت خلافت پر رونق افروز ہوا اور پیر احمد بن حصیب
برقرار رہا۔

علوین | لیدیہ جماعت میں سے یحییٰ بن عمر جو بغداد میں مقید تھے وہ آزاد
ہو گئے اور انہوں نے اپنی جماعت کو فراہم کیا اور دعوائے
خلافت کر بیٹھے۔ اور کوفہ کو بلا مزاحمت تصرف میں لائے۔ امیر بغداد
محمد بن عبد اللہ بن طاہر نے ان کے مقابلہ کے لیے حسن بن ابراہیم بن
مصعب کو فوج دے کر بھیجا۔ وہ کوفہ سے کچھ فاصلہ پر مقیم ہوا۔ لیدیہ
نے یحییٰ کو مشورہ دیا کہ امیر حسن سے چل کر اس کے قیام پر نبت لیا جائے

اور کوفہ سے اُسے بڑھنے ہی نہ دیا جائے۔ چنانچہ یحییٰ اصول جنگ سے ناواقف
 کوفہ سے نکل کر شاہی فوج پر حملہ کرنے کے لیے چلے، رات بھر چل کر
 ۱۳ رجب ۲۵۱ھ کی صبح کو امیر حسن کے مقابل آئے۔ اس کی فوج تازہ
 دم اور زید یہ در ماندہ۔ پہلے ہی جھڑپ میں منہ کی کھا گئے۔ یحییٰ گھوڑے
 سے نیچے آ رہے۔ اور مقتول ہوئے۔ اُن کا سر مبارک محمد بن عبداللہ
 امیر بغداد کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے سامرہ روانہ کیا وہاں باب عامہ
 پر لٹکا یا گیا۔ عثمان اہل بیت میں شورش پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے بغداد
 واپس کیا گیا۔ وہاں لٹکایا وہاں بھی یہی صورت پیش آئی تو دفن کر دیا
 گیا۔ مستعین کے زمانہ میں علویوں کے ہوا خواہ بڑھ گئے تھے اور بنی عباس
 سے پہلا سالس کم ہو رہا تھا۔

طبرستان میں دولت علویہ | حسن بن زید علوی نے طبرستان کو زیر نگین کر لیا
 ۳۳۱ سال فرماں روا رہا ۲۸۶ھ میں حسن
 قتل ہوا۔ اور حسن بن علی قائم مقام ہوا۔ حسن نے حکومت قائم کی، اور
 ۳۱۶ھ تک اُس کے خاندان میں حکومت رہی۔

رومی صدر | ملک کی اندرونی حالت کمزور ہونے سے سرحد پر رومیوں
 نے فتنہ کھڑا کر رکھا تھا۔ وہاں عمر بن عبداللہ قطع
 اور علی بن یحییٰ ارمینی دو امیر تھے جن کے تہور اور شجاعت کی دھاک
 رومیوں کے قلوب پر مستولی تھی۔ عمر نے ملطیہ پر چڑھائی کی وہاں شہید

لکھ ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۶۔

ہو گئے۔ رومیوں نے میدانِ صاف دیکھ کر جزیرہ کے حدود تک قدم بڑھایا۔
 علی بن یحییٰ مقابل آئے۔ مگر ان کے ساتھ قلیل جماعت تھی۔ آخر میں چار
 سو مسلمانوں کی ہمراہی میں حجام شہادت لوش کیا۔ رومیوں نے اسبابے
 خوف و خطر ہو کر اسلامی علاقہ کا تخت و تاج شروع کر دیا۔ مستعین
 میں ابادم نہ رہا تھا کہ وہ کسی سردار سے کہتا کہ سرحدی فتنہ کا سدباب
 کرے۔

ملک کے انتظام میں بہت کچھ خرابی پیدا ہو چکی تھی ترکہاں
 نظم مملکت قوم وہ ہر ملکی انتظام میں دخل ہو کر بگاڑ رہے تھے وزارت
 پر بھی ان کا تسلط تھا۔ ان کی مرضی کو انتخاب وزیر میں زیادہ دخل تھا
 احمد بن خصیب، اٹامش، ابوصالح عبد اللہ بن محمد بن یزداد
 وزیر ماموں۔ محمد بن فضل جرجانی۔ وزارت پر سر فراز کئے گئے۔

منصب قضا پر حسن بن ابی الشوارب اموی کو ممتاز کیا۔
 قضاۃ احمد بن خصیب پہلے کاتب تھا۔ یہ کم سواد اور کوتاہ نظر اور نہایت
 تند مزاج۔ پہلے متصر کا وزیر رہا۔ پھر علیحدہ کر دیا گیا۔ مستعین نے وزارت
 پر ممتاز کیا۔ مگر ترکی امراء اس سے ناراض ہو گئے۔ ۲۷۸ھ میں اس کو
 گرفتار کر کے جزیرہ اقریطش بھیجا اور اس کے لڑکے کا مال اور اسباب
 ضبطی میں لایا گیا۔

وزیر اعظم اٹامش ترکی امراء میں سے تھا جب یہ وزیر اعظم بنایا گیا اس کا

لے تہذیب و اشرف ص ۲۶۰ لے یعقوبی جلد ۱ ص ۲۱۸

کاتب شجاع تھا مستعین کی والدہ فخر قحس کا کاتب سعید بن سلمہ نصرانی تھا اور شاہک خادم قصر خلافت کا داروغہ اور خزانچی، یہ تینوں اتامش ترک سے ساز باز کر گئے جو رقم خزانہ میں آتی وہ حصہ رسد تقسیم ہو جاتی کچھ رقم رہ جاتی وہ مستعین کے صاحبزادے عباس کے اتالیق و لیل بن یعقوب نصرانی کے قبضہ میں جاتی۔

۲۴۸ھ میں طاہر بن عبداللہ بن طاہر والی خراسان فوت ہوا
وقائع و صیغ اور بغا جو کسی زمانہ میں سیاہ و سپید کے مالک تھے یزدگ
دیکھ کر اتامش سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ترکی امراء کو بھڑکا دیا ۱۲۔
ربیع الثانی ۲۴۹ھ میں انہوں نے اپنے ترکی سپاہیوں سے اتامش کو جو
قصر خلافت میں پناہ گیر ہوا تھا قتل کر دیا۔

ابوصالح نے چاہا کہ محاصل کے حسابات منضبط کر کے سلطنت کے
مالیہ کو درست کرے۔ بفا صغیر کو یہ انتظام پسند نہ آیا وہ یرہم ہو گیا ابو صالح
جان بچا کر شعبان ۲۴۹ھ میں بغداد چلا گیا۔ صرف ۳ ماہ فرائض وزارت
انجام دیئے۔

محمد بن فضل اس نے منصب وزارت پر مامور ہو کر بجائے وزیر کے
کاتب کا عہدہ اپنے لیے رکھا اور ترکوں کی مرضی پر چلتا رہا۔
مستعین کی معزولی | اتامش وزیر کے قتل کے بعد باغرتز کی جس نے
متوکل کو قتل کیا تھا۔ اس نے بفا کبیر اور وصیف کو

لہ یعقوبی جلد ۱ ص ۲۱۸

دیکھا کہ وہ امور خلافت پر حاوی ہیں اور خود کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے اس نے ایک جماعت ترکوں کی لے کر مستعین اور بفا اور وصیف کو قتل کرنے کی تدبیر کی۔ اس سازش کی خبر مستعین کو لگ گئی۔ اس نے وصیف کو مطلع کیا اس نے باعز کو قتل کرادیا۔ اس کے ساتھی جو تھے وہ خلیفہ اور وصیف سے باغی ہو گئے اور کچھ عرصہ سامرہ میں شورش برپا رہی۔ خلیفہ مستعین کے قتل کئے جانے کے ڈر سے بفا اور وصیف بغداد سے گئے امیر بغداد محمد بن عبداللہ بن طاہر کے محل میں لے جا کر رکھا۔ خلیفہ کے جانے ہی شورش پسندوں نے معتز کو قید خانہ سے نکال کر خلیفہ اور مؤید کو لپیٹ دیا۔ بنایا۔ مستعین سامرا کے امراء کو اور معتز بغداد کے امراء کو خطوط لکھ کر اپنی اپنی طرف مائل کرنے لگے۔

محمد بن عبداللہ نے بغداد کی فصیل پر فوجیں مستعین کو دیں اور سامرا کے راستے روک دیئے۔ تاکہ سامان رسد وہاں نہ پہنچ سکے۔ معتز نے سامرا میں عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی بغداد کو تسخیر کرنے کے لیے اپنے بھائی ابو احمد بن متوکل اور ترک امیر کلیاتکین کی قیادت میں فوجیں روانہ کیں، مقام کبیر میں خیمہ زن ہو کر محرم ۱۱۱ھ میں بغدادی فوجوں پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے، صفر کو فصیل بغداد تک پہنچ کر سردان پہنچ گئے۔ وہاں سخت لڑائی ہوئی۔ محمد بن عبداللہ جان لڑا رہا تھا۔ عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان وزیر متوکل نے امرائے فوج سے کہا۔ کیوں مستعین کے لیے جان دیتے ہو یہ منافق ہے۔ محمد بن عبداللہ

نے کنار کشی اختیار کی۔ اہل بغداد بھی جماعت سے دست کش ہو گئے مستعین نے یہ رنگ دیکھ کر خلافت سے دست بردار ہونے کو تیار ہو گیا۔ اذی الحجہ ۲۵۱ھ میں محمد بن عبداللہ قاضیوں اور فقہیوں کو لے کر اس کے پاس گیا مستعین نے کہا۔ میں محمد بن عبداللہ کو اپنا مجاز بناتا ہوں جو فیصلہ کریں گے۔ مجھے منظور ہے۔ محمد بن عبداللہ نے معتز کو مستعین کی جان بخشی گے لیے لکھا۔ اس نے منظور کر لیا۔ ہم عزم کو معتز کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ مستعین نے ردا اور جہر خلافت حوالہ کر دی۔ مستعین کو واسط روانہ کر دیا اور اس کے آرام و اسائش کا حکومت کی طرف سے انتظام کر دیا گیا۔ احمد بن طولون اس کا نگران تھا۔ سیر و شکار کی اجازت تھی۔

قتل مستعین | کچھ عرصہ بعد سرمن راہ کے ایک مقام قادیسیہ میں

وہ روز چہار شنبہ ۲۵۱ھ کو حاجب سعید کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۳۳ سال کی تھی ۳۳ سال آٹھ مہینے اور اٹھ تالیس دن حکومت کی تھی۔

حلیہ | نہایت لجم حکیم اور خوبصورت تھا۔ دائرہ سیاہ تھی۔ چہرہ پر چھپکے کے دروغ تھے زبان میں بکنت تھی۔

اوصاف | وہ نرم مزاج مگر لاپرواہی باتوں کی اتباع میں سخت مطلق العنان

تھا خوف سے اس کو حبان کے لالے پڑے رہتے تھے۔ اسی خوف اور بے اطمینانی کے باعث اپنے دار الحکومت اور مرکز عورت سے

لے ابن خلدون ج ۷ ص ۲۳۲ طہ تہنیہ و اشراف ص ۲۵۹ تاریخ خلفا ص ۲۴۹

اس نے راہِ گریز اختیار کی اور امور سلطنت کے بارے سے سبکدوش ہو گیا
 علامہ سیوطی کا بیان ہے کہ

مستنعمین نہایت نیک اور فاضل ادیب اور فصیح
 بلیغ شخص تھا۔ لیکن ہنرمند شعور اور عقل و دانش کے
 لحاظ سے نہایت معمولی خلیفہ تھا۔

علماء معاصر | عبد بن حمید، ابوطاہر بن سرح، عارث بن مسکین، اعقری
 ابوحاتم سجستانی۔ جاہظ۔

خلیفہ معتز ابو عبد اللہ

نام و نسب | ابو عبد اللہ معتز باسد بن متوکل کی پیدائش ۲۳۱ھ میں ہوئی، اس کی ماں کا نام قبحیہ تھا جو ام ولد تھی۔
تعلیم و تربیت | علی بن حرب سے علوم رسمیہ کی تحصیل کی۔

وزارت | معتز نے تخت خلافت پر بیٹھے ہی پہلے وزارت کو سنبھالا ابو الفضل جعفر بن محمود اسکافی کو ترکوں کے دباؤ سے وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا۔ مگر یہ تھا علم و ادب سے نا آشنا، صرف زر پاشی سے امراء کو خوش رکھتا تھا۔ معتز کو یہ پسند نہ تھا۔ جن ترکی امراء کو فائدہ نہ پہنچا وہ ناراض ہو گئے ابو الفضل کو علیحدہ ہونا پڑا۔ عیسیٰ بن فرخان شاہ کو وزارت پر سرفراز کیا۔ مگر ترکوں کی کشمکش سے زیادہ عرصہ تک وزیر نہ رہ سکا علیحدہ کر دیا گیا احمد بن اسرائیل جو علم و کتابت میں لائق و قائل تھا اور معتز کا قدیمی کار پر وازر چکا تھا۔ عہدہ وزارت پر سرفراز کیا گیا۔

علوین | معتز کے زمانہ میں علی ہادی بن محمد جو ادو شیعوں کے دسویں امام ہیں سامرا میں انہوں نے دھمال فرمایا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکری امام ہوئے۔ امام کا علم و فضل میں بڑا پایہ تھا۔ آپ نے

۲۳۱ھ تا ۲۳۹ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۹

ایک تفسیر قرآن بھی لکھی۔

زید نے طبرستان میں حکومت قائم کر لی تھی اور بغداد اور عراق کے شیعوں سے خط و کتابت کر رہے تھے وہ پکڑ لیے گئے۔ معتز نے ان لوگوں کو سامرا بلا کر زبردگرائی رکھا کوئی زجر و توبیخ نہیں کی۔

ترکی امرا کے مشورہ سے وصیف و لفا کو مستعین وصیف و لفا کی معزولی کی معاونت کے جرم میں معزول کر دیا۔ پھر سفارش پر بحال کر دیا اور جاگیریں جو ضبط کر لی گئی تھیں وہ واپس کر دی گئیں اور اپنے اپنے مناصب پر بحال کیا۔

ابن سال معتز تخت نشین ہوا۔ اسی سال اثنا عشریوں نے اس کو نائب سلطنت جس کو واقع نے نائب سلطنت بنایا تھا۔ اس نے چار ہزار دینار چھوڑے جو بحق حکومت ضبط کئے گئے اور علی بن محمد بن عبداللہ بن طاہر کو خلعت نیا بت سلطنت عطا کیا۔ اور اس کے دو تلواریں کمر میں بند ہیں۔ کچھ عرصہ بعد اس کو بھی معزول کیا اور اپنے بھائی ابو احمد کو نائب سلطنت بنایا۔ اور اس کے سر پر چاندی کا تاج رکھا اور جو اہرات کا طرہ لگایا اور دو تلواریں اس کے بھی باندھیں۔ پھر اس کو بھی معزول کر کے نقش شراہی کو نائب بنایا اور اس کو تاج شاہی پہنایا گیا۔ اس نے ایک سال بعد بغاوت کی مگر قتل کر دیا گیا اور اس کا سر معتز کے پاس بھیج دیا گیا۔

۲۵۰ فہرست ابن ندیم ۲۵ تاریخ اعلیٰ فارص ۲۵۰

مقتصر بالمد کے عہد سے مغار بہ کی ایک فوج باقی
 رہ گئی تھی۔ اس میں باہم چل گئی اور ان کے سردار محمد

بن عون کے یہاں چھپ گئے۔ ترکوں نے ان سرداروں میں سے محمد بن
 ارشد اور نصیر بن سعید کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا اور ابن عون کو خلیفہ
 کی سفارش سے جلا وطن کر دیا۔

حالات مساور خارجی | موصل کی گورنری پر عقبہ بن محمد خزامی تھا اور
 پولیس افسر حسین بن بکیر تھا مساور بن عبد اللہ

بن مساور بجلی خارجی بوارنج میں رہتا تھا۔ اس کے لڑکے حوشرہ کو حسین نے

پکڑ لیا۔ اس نے باپ کو لکھا کہ افسر پولیس میرے ساتھ فعل بد کرتا ہے

مساور نے خوارج کو جمع کیا اور موصل پر حملہ بول دیا۔ عقبہ بن محمد دالی

موصل سے زوردار مقابلہ رہا ۲۵۲ھ میں ایوب بن عمر بن خطاب ثعلبی

گورنر موصل بنایا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے حسن کو نائب کیا اور حمدون بن

حرث محمد بن عبد اللہ کو معہ فوج کے مساور کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مگر

اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ۲۵۵ھ میں عبد اللہ بن سلیمان کو گورنر موصل

کیا۔ اس کو بھی مساور نے شکست دی اور موصل پر قبضہ جمایا اور نماز جمعہ

ادا کی، مگر ۲۵۶ھ میں اس کی جماعت میں سے علی بن زبیر عمری نے

اس کی مخالفت شروع کر دی۔ مگر کچھ بگاڑ نہ سکا۔ ۲۵۵ھ سے ۲۵۶ھ

تک مساور نے عراق کے اکثر بلاد پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ بن یغایک عظیم الشان

سلطان بن حمدون جلد ۷ ص ۲۳۸

شکرے کر اس کے مقابل آیا۔ مگر بلا لڑے واپس گیا۔

اوصاف | معتز عیش و نشاط میں ہر وقت ڈوب رہتا تھا۔ خوبیاں کم برائیاں زیادہ بھتیں۔ مگر فصیح۔ بلخ اور زبان آور خطیب تھا تدبیر و رائے میں نہایت بے پیرہ تھا۔ اس کی ماں قبیحہ اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے سلطنت کے معاملات انجام دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہر شخص کو امور مملکت میں تغلب و تصرف کا موقعہ ہاتھ آجاتا تھا اور معتز دیکھا کرتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کارہائے سلطنت میں لوگوں کی نظروں سے بالکل اُتر گیا۔ مگر خود مزاج میں امامت اور نفاست کی شان رکھتا تھا معتز نے اپنی سواری کے ساز کو خالص طلائی کا بنوایا تھا۔

حلیہ | رنگ گورا۔ چہرہ حسین کالے بال، خوبصورت نکھیں وہ اتنا حسین تھا کہ اس کے حسن و جمال کی نظیر تمام خلفا میں نہیں ملتی۔

خلع خلافت | معتز ترکوں کے مقابلہ میں بہت ضعیف تھا۔ ان لوگوں نے جمع ہو کر امیر المومنین سے کہا کہ ہمیں کچھ دلوائے کہ ہم صامخ بن وصیف کو ٹھکانے لگا دیں۔ کیونکہ صامخ سے معتز خوفزدہ تھا۔ ترکوں کی مانگ کو اپنی ماں سے روپیہ لے کر پورا کرنا چاہتا تھا۔ مگر ماں نے صاف انکار کر دیا۔ یہاں خزانہ شاہی خالی تھا۔ عسکری ترکوں کی تخواہیں کہاں سے دی جائیں اس لیے مجبوراً معتز نے مناسب سمجھا کہ خلع خلافت کر کے اپنی آبرو اور جان بچالے جائے ترک بھی رضامند

۱۰ تہذیب و اشعار ص ۲۶۱ طے تاریخ الخلفاء ص ۳۲۹

ہو گئے اور انہوں نے صالح بن وصیف اور محمد بن بقاء، علی الحسن بن محمد
 ذکوان صالح، علی احمد بن اسرائیل کا تب و وزیر کو ہمہنوا بنا لیا۔ دار الخلافہ میں
 ہتھیار بند ترک گھس آئے اور معتز کو بلا بھیجا۔ معتز نے کہا۔ میں نے دوا پی
 ہے اور کمزور ہوں اس لیے باہر محل سے نہیں آ سکتا۔ اس پر ترک بر
 افر و ختم ہو گئے اور محل میں گھس کر اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر
 لے آئے۔ پھر زرد کو بکیا۔ گرمی کے دن تھے۔ اس کو دھوپ میں کھڑا
 کر دیا۔ ذلیل کر کے کہا۔ خلع کیوں نہیں کرتا۔ قاضی ابن ابوشوارب کو
 بلا لائے اور اس سے خلع خلافت کرا لیا۔ پھر ترک بغداد سے سامرہ
 پہنچے۔ محمد بن واثق وہاں تھا۔ معتز نے خلافت اس کے سپرد کر دی۔
 اور خود اس سے بیعت کر لی۔

آخری زمانہ | معتز کا آخری زمانہ ترکوں کی وجہ سے بے حد کلفت سے
 گذر رہا تھا۔ اس کے جو قلمرو زیر مگیں تھے اس میں سے
 کٹ کر نئی حکومتیں بن گئی تھیں۔ ۲۵۴ھ میں طولونیا ایک اور جدید حکومت
 کی بنا پڑی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

وفات | بیعت کے واقعہ کے پانچ روز بعد ترک معتز کو پکڑ کر حجام میں
 لگے یہاں غسل کرایا۔ اس کو پیاس لگی تو پانی نہ دیا اور
 وہاں سے نکال کر اس کو برف کا پانی پلا دیا جس کے پینے ہی معتز کا
 دم نکل گیا یہ واقعہ شعبان ۲۵۵ھ کا ہے۔

لے تاریخ الخلفاء ۲۴۹ و ابن اثیر ج ۲ ص ۶۸-۶۹

اس کی نماز جنازہ ہتھی لے کر پڑھائی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔
 معزز کی ماں بیٹے کے مرنے کے بعد صالح بن وصیف سے ملی
 اور ایک کروڑ تیس لاکھ دینار اور ایک چاہدانی جس میں بیس قیمت زمر
 لگے ہوئے تھے نذر کیے۔ ابن وصیف نے کہا۔ پچاس ہزار دینار کی بد
 اپنے بیٹے کو قتل کرا ڈالا۔ لہذا تم اب مکہ میں رہ کر عبادت کرو اور اس
 نے اس کو مکہ معظمہ بھیج دیا وہاں وہ ۲۶۳ھ میں مر گئی ہے

ناکام حکمرانی | معزز بفا کے خوف سے تمام عمر لرزہ بہ اندام رہا۔ اس کا
 زمانہ شورشوں اور انقلابات میں گذرا۔ اس کو انتظام
 سلطنت کا موقعہ نصیب نہ ہوا۔ بلکہ عباسی حکومت کا ایک حصہ دولت
 صفاریہ کی شکل میں رونما ہوا۔ اس کے سوا طبرستان پر زندیوں کا قبضہ
 و تصرف ہوا۔

علمائے عصر | سری سقطی، ہارون بن سعید الاطلی۔ دارمی مصنف
 مسند۔ عقیلی، مصنف مسائل القیہ

۱۰۰ یقون بنی حلیہ ص ۲۲۶ ۱۰۰ تاریخ الخلفاء ص ۲۵۰ ۱۰۰ ایضاً

دولت علویین اور دعوت آل محمد

حضرت امام حسین کے بعد دعوت آل محمد کا سلسلہ بنو فاطمہ اور علویوں کی طرف سے شروع ہوا۔ جس میں حضرت زید، نفس ذکیہ وغیرہ مدعی خلافت ہوئے۔ ان کی مساعی، جاننازی، جاں نثاری کا بنو عباس نے اپنی حسن قابلیت اور حسن تدبیر سے پھل پایا۔ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا سکہ چل گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بنو امیہ کی حکومت کا چرغ چل رہا تھا اس زمانہ میں بنو امیہ کا بچہ بچہ اس جرم میں کہ وہ خاندانِ خلافت کا آئندہ ایک ممبر ہوگا۔ قتل ہو رہا تھا۔ ہاشم بن عبدالمطلب کی اولاد سے عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام اس عام نو زری سے بہ کمال بے کسی و بے سرو سامانی اپنی جان بچا کر بھاگا جس کی تفصیل ہماری تالیف "خلافت ہشامیہ" میں ہے۔ غرض کہ عبدالرحمن دریا کو عبور کر کے اندلس (ہسپانیہ) پہنچا۔ حکمرانی کی بوداوغ سے نہ گئی تھی اندلس کو عبدالرحمن بن یوسف قہری کے قبضہ سے نکال کر خود حکمرانی کرنے لگا۔ ایک برس خلیفہ سفاح کا خطبہ اندلس کی مسجد میں پڑھا گیا۔ پھر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس دن سے اندلس کو دولت اسلامیہ سے جس کے مالک بنو عباس ہو گئے تھے علیحدہ ہو گئے پھر عہد خلیفہ ہادی ۱۹۲ھ میں علی بن حسن کا

کا واقعہ پیش آیا اور ان کے سرگروہ حسین بن علی بن حسن مثنیٰ معہ ایک گروہ کے جو ان کے خاندان کے افراد تھے قتل کر ڈالے گئے ازاں جملہ ادریس بن عبداللہ بن حسن مغرب اقصیٰ کی جانب چلے گئے اور بربروں میں اس زمانہ سے اپنی دعوت آل محمد کی آڑ لے کر حکومت کی بنیاد ڈالی جس کا تفصیلی تذکرہ خلافت ہیبانیہ میں آچکے ہے اس طرح سے مغرب کا علاقہ بھی بنو عباس کے دائرہ حکومت سے باہر ہو گیا اور وہاں ان کی اور ایسی حکومت مستقل قائم ہو گئی۔ بعد چند سے حسن وقت متوکل مارا گیا۔ اس وقت سے خلافت عباسیہ اور ضعیف ہو گئی اور ہر چہار طرف سے گورنران صوبجات اسلامیہ کی خود مختاری کی صدا میں آنے لگیں۔ حکمرانی کی مشین کے پرزے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بجائے خود ایک مشین کے وہ قائم ہو گئے بغداد میں بغاوت پھوٹ نکلی علویہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بلاد اسلامیہ میں دعوت آل محمد کا نفاذ کیا دیا چنانچہ المعتضد باللہ عباسی کے عہد میں ابو عبداللہ شعی نے ۲۸۶ھ میں افریقہ پہنچ کے عبید اللہ المہدی بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسمعیل بن جعفر الصادق کی خلافت کی دعوت دی اور ان لوگوں سے عبید اللہ المہدی کی خلافت کی دعوت کی دعوت لی اور افریقہ کو بنو اغلب کے قبضہ سے نکال کر اس پر اور مغرب اقصیٰ، مصر اور شام پر متصرف ہو گیا۔ پس ان کل صوبجات نے خلفاء بنو عباسیہ کے اقتدار سے نیکل کر ایک جدید دولت کی صورت اختیار کر لی جو دو سو شہریں تک قائم رہی۔ عہد شعیب میں علویہ سے حسن بن زید داعی نے

۱۔ ابن خلدون جلد ۱، کتاب تالی ص ۲۰۴

ظہور طبرستان میں کیا۔ معتز کے عہد میں اسمعیل بن یوسف علوی نے مکہ میں خروج کیا اور حج کے موقع پر ۱۶ سو حاجیوں کو قتل کر ڈالا۔ اور محمد بن جعفر کو نے میں اٹک مزام بن خالفاں نے ان پر قابو پایا۔

۱۳۳ھ میں بنو حسین سے اطروش نے دولت و حکومت **اطروش علوی** کا پتھر رکھا۔ پھر بنو علی سے عمر داعی طالقان کی حکومت

زمانہ مقتدر میں قائم ہوئی۔ یمن میں ۱۹۹ھ میں یحییٰ بن الحسن بن القاسم بن ابراہیم طباطبایا کا ظہور ہوا۔ جنہوں نے دعوت زیدیہ کا آغاز کیا۔ اور دولت علویہ زیدیہ قائم کی۔ طباطبائی نے ۲۰۸ھ میں انتقال کیا۔

صبغہ، صنعاء اور بلادین پر متصرف ہو گئے۔ اطراف بحرین اور عمان میں قرظ کا ظہور ہوا۔ یہ کوفہ سے ۲۶۹ھ عہد معتضد میں وارد بحرین ہوئے اور بصرہ اور کوفہ پر متصرف ہو گئے۔ پھر بحرین پر اکتفا کر کے حکومت قائم کر لی۔ بنو سامان ۲۶۹ھ میں ان کی دعوت دیتے رہے جن کی حکومت چوتھی صدی کے آخر تک قائم رہی۔ ان کے تفصیلی حالات اس تاریخ میں آگے تحریر ہیں۔

دولت زیدیه

حسن بن زید بن محمد بن اسمعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی کرم اللہ وجہہ اپنے زمانہ کے اقلید سے بچے 'رے' میں قیام تھا کلا اور سالوس کے رئیس محمد و جعفر پسران رستم نے حسن بن زید کو مدعو کیا اور ان سے بیعت کی اور سلیمان بن عبداللہ بن طاہران دونوں طبرستان کا عامل تھا۔ اس کے زیر اثر کلا و سالوس تھے۔ پسران رستم نے تمام کارند سلیمان کے نکال باہر کئے اور کل صوبہ پر قبضہ جمایا۔

خلیفہ مستعین نے محمد بن عبداللہ بن طاہر کو ولیم کے متصل حدود طبرستان میں کلا اور سالوس دو مقامات بصدہ ہم سجی بن عمر جاگیر میں بے تھے اس پر بھی حسن بن زید کا قبضہ ہو گیا۔ حسن کے ساتھ بہت سے لوگ ہو گئے تو اہل کی طرف رخ کیا۔ محمد بن اوس مقابلہ کے لئے آیا۔ مگر ہزیمت کھا کر بھاگا۔ پھر شہر ساریہ مسکن سلیمان بن عبداللہ پر چڑھائی کی وہ تاب مقابلہ نہ لاسکا پھر 'رے' بھی قبضہ و تصرف میں آ گیا مستعین نے یہ زبان دیکھ کر و صیف تر کی کو بھیجا کہ وہ ہمدان پہنچ کر اس سیلاب کو روکے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

حسن بن زید نے ایک قطعہ دولت طاہریہ کا اور ایک قطعہ خلافت

عباسیہ کا فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ جن میں ولیم اور طبرستان کے کوہستانی سلسلہ شامل تھے۔

۲۵۰ تا ۲۷۰ م	حسن بن زید بانی حکومت	۱
۲۷۹ م	محمد بن زید قائم بالحق	۲
	کچھ عرصہ سامانی قابض رہے	۳
۳۰۴ م	حسن اطروش بن علی بن حسین بن علی بن عمر بن امام زین العابدین	۴
۳۵۵ م	حسن بن قاسم	۵

ایک صدی تک یہ دولت زید یہ رہی۔ بنی سامان نے محمد بن زید کو قتل کر کے ۳۲ سال قبضہ رکھا۔ حسن اطروش نے لڑ کر اپنا ملک واپس لے لیا۔ پھر ایک جنگ میں وہ شہید ہوئے تو حسن بن قاسم نے عنان حکومت سنبھالی۔ مگر اولاد اطروش برسرِ پیکار رہے۔ آخر زیدیوں کے ہاتھ سے یہ حکومت ۳۵۵ھ میں نکل گئی۔

دولت طولونیہ

مصر میں دولت طولونیہ کا قیام | خلیفہ مقتدر کے عہد ہی میں مصر میں
دولت طولونیہ قائم ہوئی | معزز
نے با بکیال ترکی کو مصر کا گورنر کیا۔ اس نے احمد بن طولون کو اپنا نائب بنا
کر مدد فوج مصر بھیجا۔ احمد بن طولون رمضان ۶۴۷ھ میں مصر پر چڑھا

لہ احمد بن طولون کا باپ طولون ترکی غلام تھا اس کو ۶۲۰ھ میں بخارا کے عامل
نوح بن اسد سامانی نے ماموں کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ۶۲۲ھ میں سامرا
میں ان کے یہاں احمد ۶۲۲ھ میں پیدا ہوا اور طولون ۶۴۷ھ میں فوت ہوا
احمد کی تعلیم و تربیت اعلیٰ پایہ پر ہوئی۔ علم حدیث سے ولی لگاؤ تھا طوس کے
محدثین سے سماع حدیث کیا۔ صلحاء و اخبار کی صحبت بہت مرغوب تھی۔

ابن خلکان کا بیان ہے

کان احمد عاد لاجواداً شجاعاً متواضعاً	احمد میں عدل پرستی، فیاضی، شجاعت
حسن سیرت صادق الفرائض	و بہادری حسن سیرت، فراست تمام
الامور بنفسہ و یعمل للبلد و ینفق	اور صاف جمع تھے وہ جملہ فرائض
احوال رعایا و یحب اهل العلم و کانت مائدته	بذات خود انجام دیتا تھا رعایا کے

ملہ ابن اثیر ج ۱، ص ۶۱ و مقریزی ج ۲، ص ۱۰۵ ابن خلکان جلد ۱ ص ۵۵

اس وقت یہاں کے حاکم خراج ابن مدبر کا مصر میں سکہ جما ہوا تھا ابن طولون نے ان کا رنگ کچھ دنوں میں اکھاڑ پھینکا۔ خلیفہ ہمتدی کے زمانے میں اسکی حکومت بھی اس سے متعلق ہو گئی۔ اس سے اس کی قوت و عظمت دشکوہ میں اضافہ ہو گیا۔ اما جو رسابق عامل مصر کی لڑکی اس کو منسوب تھی مصر میں اس قدر شوکت حاصل کر لی کہ مساجد کے ممبر پر خلیفہ اور ماجور کے بعد احمد بن طولون کا نام خطبوں میں شامل کر لیا گیا

بقیہ نوٹ :-

محضر ہاگل یوم الخاص العالم
 دکان لہ الف دینار فی کل
 حالات معلوم کرتا تھا۔ شہروں کو لبتا تھا اور اعلیٰ علم کو بہت
 دوست رکھتا تھا اس کا دسترخوان مام و خواص ہر شخص کے
 لیے وسیع تھا۔ ایک ہزار دینار روز آخرت کرتا تھا

بعد تفصیل علوم دینی احمد سامرہ میں سرکاری عہدہ پر ممتاز ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے عباس
 وزیر عبید اللہ بن یحییٰ سے طرہوس کا تبادلہ کرایا۔ مستعین اس پر بہت ہر بان تھا۔ جب
 مستعین قید کیا گیا یہ گراں بنا۔ معتز کی ماں فقیہ نے اس کو انعام کا لایح دے کر مستعین
 کو قتل کرانا چاہا۔ اس نے اپنی جگہ احمد بن محمد کو مقرر کر کے ارگ ہو گیا۔ معتز کے عہد ۲۵۸ھ
 میں مصر کا مستقل والی بن گیا وہاں کے لوگ اسکے حسن انتظام اور پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے
 بہت خوش تھے۔

ابن طولون ۲۶۱ھ میں فوت ہوا۔ اس کے خلیفان میں ۲۹۲ھ تک حکومت رہی
 پانچ امیر ہوئے۔ احمد بن طولون (۲۵۴ - ۲۶۰) خوار ولیہ بن احمد (۲۸۲) (باقی اگلے صفحہ)

لہ دعوات الاعیان جلد اول ص ۵۲ سے ابن خلکان ج ۱ ص ۵۵ سے طبری جلد ۲ ص ۱۰۳

خلیفہ مہتدی باللہ

نام و نسب المہتدی باللہ خلیفہ الصاریح (محمد ابو محمد اسحاق بن ماموں
والثقی بن منضم بن ہارون الرشید، ایک ام ولد و درود نامی
کے لطن سے اپنے دادا کے خلافت کے زمانہ ۲۱۸ھ میں پیدا ہوا۔ مگر یعقوبی
لکھتا ہے و احمد ام ولد لقیال بہا قریب

بیعت خلافت ۲۵۵ھ میں لوگوں نے اس سے بیعت کی۔ مگر بغداد
میں جب پولیس افسر سلیمان بن عبداللہ نے شاہی کن
امیر الدین احمد کو بیعت کے لیے بلایا۔ اہل بغداد بھڑک گئے اتنے میں میر
یا جوج تیس ہزار اشرقیوں لے کر گیا۔ مگر شورش کو بڑھتا دیکھ کر بردان آ کر
کھڑے اور روپیہ سامرا سے منگا کر بغداد دیوں پر تقسیم کیا۔ جب لوگوں نے بیعت
کی۔

وقائع تخت خلافت پر ٹھکن ہو کر سب سے پہلے اس نے لہو و لعب کے
السداد پر توجہ کی۔ گانے بجانے حرام کر دیئے اور عاملان سلطانی کو حکم بھیجا کوئی

رہنما (پچھلے نسخہ کا باقی) جیش بن خمار یہ (۲۸۳ھ) ہارون بن خمارو یہ (۲۹۲ھ) شیبان بن
احمد بن طولون (۲۹۳ھ) یہ حکمراں تخت دولت عباسیہ نے احمد کی یادگار جامع طولون میں

۲۲۰ھ یعقوبی ج اس ۲۲۰

ظلم نہ کرنے پائے اور عدل و انصاف کو ہر عامل پیش نظر رکھے۔ حکومت کے جس قدر وفاتر تھے۔ ان کو سختی سے جانچا کرتا۔ اور اس کا انتظام معقول کیا۔ خود اجلاس کیا کرتا اور منشیوں کو سامنے بٹھا کر حساب کتاب کراتا۔ جعفر بن محمود جو شیعہ عقیدہ رکھتا تھا۔ اس کو سرمن رائے سے بعداً بھیج دیا۔ اس کی حرکتوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کی دینداری کا اثر عوام اور فوج پر بھی پڑا۔

وزارت | خلیفہ ہندی باللہ نے محمود بن جعفر اسکانی کو وزارت کے عہدہ پر ممتاز کیا۔ مگر وہ مرضی مبارک کے موافق نہ تھا۔ اس کو علیحدہ کر کے سلیمان بن وہب بن سعید کو سرفراز فرمایا۔

سلیمان کا خاندان امیر معاویہ کے زمانہ سے کتابت میں نامور چلا آتا تھا۔

سعید آل ہرک کا کاتب خصوصی ایک زمانہ تک رہ چکا تھا وہب جعفر بن یحییٰ اور ذوالریاستین کے یہاں کاتب رہا۔ سلیمان ۴۴ سال کے سن میں ماموں کے دفتر میں ملازم ہوا تھا۔ اس کے بعد امیر ایتاخ ترک اور امیر شناس کا کاتب رہا۔ یہ شخص انشا پر داری اور ادب میں بے مثل اور علم و فضل میں یگانہ روزگار تھا۔

قاضی | منصب قضا پر حسن بن محمد ابی شوارب کو ممتاز کیا

حجابت | صالح بن و صیف۔ موسیٰ بن نفا، عبداللہ بن کہین عہدہ حجابت پر مامور ہوئے۔

مگر خلافت عباسیہ کا نظام مملکت بہت بگڑ چکا تھا۔ مہندی اپنی سعی میں ناکام رہا۔ کیونکہ ایوان حکومت میں خود غرض امراء کا مجمع تھا انہیں ذاتی مفاد کے سوا حکومت کی فلاح و بہبود سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ اُسے سلطنت اور جان و دلوں خلافت عباسیہ کے بھینٹ دینی پڑی۔“

فتنہ مساور خارجی | معتز کے زمانے میں مساور کا اقتدار بڑھ چکا تھا ۲۵۵ھ میں موصل پر حملہ آور ہو کر عبداللہ بن سلیمان عامل موصل

کو نکال کر خود قابض و متصرف ہو گیا پھر حدیثیہ چلا گیا۔ اس زمانہ میں اس کی جماعت کے ایک رکن عبیدہ سے مذہبی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا اس نے اس کے مذہبی خیالات سے بڑا اثر لیا اور گمراہ سمجھ کر اس سے جدا ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مساور کے مقابل آیا۔ ادھر مساور نے عراق کی آمدنی دار الخلفہ جانے سے روک دی۔ حکومت نے موسیٰ بن نفا اور بابکیال کو اس کے اہتیبہال کے لیے بھیجا۔ مگر وہ اس کے مقابل نہ آئے اور ہمت ہار کر لوٹ گئے۔ ابھی یہ فتنہ ختم نہ ہوا تھا۔ ایک اور فتنہ صاحب الزنج اُٹھ کھڑا ہوا۔

فتنہ صاحب الزنج | علی بن عبدالرحیم المعروف بہ صاحب الزنج

۱۵ البیہ دالہ المبرکات ص ۲۶۲ ۱۵ ابن اثیر ج ۷ ص ۶۷

قبیلہ عبیدیس کا معمولی آدمی تھا۔ ابتدا میں منصر کے درباریوں کی مصاحبت کرتا تھا۔ دولت عباسیہ کی کمزوری دیکھ کر اسے بھی قسمت آسانی کا حوصلہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کو علوی رکن بنا کر بحرین جو شیعیان علی کا مرکز تھا وہاں جا کر کہا کہ میرا نام علی بن محمد بن احمد بن عسی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ اور اس نے مظلوم حبشیوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ لاکھوں حبشی ان دلوں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا نہ کوئی سروہرا تھا کہ ان کو حکمراں طبقہ سے آزاد کر لے۔ صاحب الزنج ان کا قائد بنا۔ اور ان سے کہا کہ میں ان کی آزادی کا ذمہ دار ہوں۔ اگر ان کا کوئی آقا مزاہم ہوگا اس سے مقابلہ کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ ہر غلام حبشی اپنے آقا کو چھوڑ کر یہاں چلا آئے وہ آزاد ہے چنانچہ اس تدبیر سے ہزار با اس کے جھنڈے تلے حبشی آ گئے۔ اس مناسبت سے صاحب الزنج مشہور ہو گیا۔

ان حبشیوں کی جماعت سے عراق میں قیامت پیا ہو گئی۔ حبشیوں نے اپنے آقا اور ان کے عزیز و اقارب سے انتقام لیتے ہوئے مسلمانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگے پھر تو جاوید سچا مظالم توڑنے شروع کر دیئے جس سے دنیا سے اسلام میں کھل بی مچ گئی۔ بحرین۔ بصرہ۔ اہلہ اور کربلا میں صاحب الزنج نے آفت بیا کر دی۔

لطف یہ تھا کہ دعوت تو آل محمد کی تھی۔ مگر عقائد خارجیوں کے رکھتا
تھا اور کبھی عباسیت کا مدعی بن جاتا۔

حکومت کی جانب سے ابو ہلال ترکی چار ہزار کی جمعیت سے صاحب
الزنج کے مقابلہ پر نہر بیان پر آیا۔ مگر حبشیوں کی یلغار سے شکست کھا
گیا۔ بعد اس کے ابو منصور ایک عظیم الشان لشکر لے کر زنگیوں (حبشیوں)
کی گوشالی کو چلا۔ اس لشکر میں متطوعہ (وائیٹر) اور بلانیہ اور سعدیہ
کی فوجیں بھی شریک تھیں۔ صاحب الزنج سے مقابلہ کیا۔ مگر ناکامی
کا منہ سن کر شاہی کو دیکھنا پڑا۔ صاحب الزنج کی اس کامیابی سے
اور جرت بڑھتی پھر وہ بصرہ کی طرف خود بڑھا۔ جعلان ترک کی اہل بصرہ
کی کمک پر سامرہ سے آیا۔ اس کو بھی غفلت میں زنگیوں نے لے
ڈالا۔ پھر جماعت رنگی کا مرانی حاصل کرتے ہوئے اہلہ پر حملہ آور ہوئے
اور گورنر ابوالخوف عبید اللہ بن حمید معہ گروہ کثیر کے مار ڈالا گیا
اہلہ میں آگ لگادی یہ شہر جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ پھر اہواؤ کو جا کر
زنگیوں نے لوٹا۔ مہندی کے بعد معتمد نے سعید بن صالح حاجب کو
زنگیوں کی گوشالی کے لیے بھیجا۔ اس نے آتے ہی ان سے سخت زنگیوں
کو سخت ہزیمت دے کر ہزار ہا کاٹ ڈالے اور ان کی قوت کو توڑ کے
رکھ دیا اور ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لوٹ لیا۔

موسیٰ بن بغانا موسیٰ بن بغانا "رے" سے "سمرن" لائے "صالح بن صفین"

کے قتل کے ارادے سے آیا۔ تاکہ معتز کے خون کا بدلہ اس سے لے موسیٰ نے
 خلیفہ مہدی سے باریابی کا اذن مانگا۔ خلیفہ اس وقت دارالعدل میں بیٹھا ہوا
 مقدمات فیصلہ کر رہا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے خود سمرانہ
 اس پر نزعہ کیا اور اس کو دارالعدل سے اٹھا کر ایک ٹوٹے پر چربیہ سوار کرایا
 اور فارنا جود میں لے جا کر وہاں تنہائی میں خلیفہ سے امیر موسیٰ نے کہا۔
 اے امیر المومنین آپ صامح کی طرف ذاری نہ کریں۔ مہدی نے یہ رنگ
 دیکھ کر حلف اٹھا لیا تو موسیٰ نے معذرت کی اور بیعت بھی کر لی۔ مگر پھر
 صامح کے پیچھے موسیٰ اور مہدی میں چٹخ گئی۔ یہاں تک کہ موسیٰ سے خلح
 خلافت کی گفتگو ہونے لگی اور اس درجہ بات بڑھ گئی کہ مہدی نے
 تلوار نکالی اور کہا

موسیٰ بن بغا مجھے تمہارا ارادہ معلوم ہو گیا ہے مجھے تم
 مستعین اور معتز کی طرح نہ سمجھنا۔ واللہ میں اس وقت
 غضب ناک ہوں اور اپنی جان سے مایوس ہو کر وصیت
 کر چکا ہوں۔ تلوار کا قبضہ جب تک میرے ہاتھ میں
 ہے بہت سوں کی جان لے کر مروں گا۔ آخر دین اسلام
 اور حیا بھئی کوئی چیز ہے۔ خلفا کی دشمنی اور خدا کے
 خلاف جرات کرنی سخت باعث وبال ہے اور مجھے
 صامح کا ہرگز علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔

یہ سن کر موسیٰ اور اس کے ساتھی خاموشی سے دربار سے

اٹھ گئے۔

صالح کا قتل | صالح کی تلاشی میں موسیٰ نے اپنے آدمی لگا دیئے دس ہزار دینار پتہ لگانے والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ صالح ایک گوشہ مکان میں سو رہا تھا۔ غلاموں کی نظر پڑ گیا۔ انہوں نے موسیٰ کو مطلع کیا اس کے آدمیوں نے جا کر صالح کو گرفتار کر لیا اور قتل کر ڈالا۔ اور اس کا سر کاٹ کر شہر میں تشریح کرایا۔ امرار کی خود سری کے اس واقعہ کا اثر ہندی نے بہت کچھ لیا۔

موسیٰ "سن" کی طرف روانہ ہوا تو ہندی نے اس کے ایک ک ساتھی باکیال کو لکھا کہ امیر موسیٰ اور دوسرے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے باکیال نے یہ خط بابِ خلافت کا آیا ہوا امیر موسیٰ کو دکھا دیا وہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پہلے باکیال کو دار الخلافہ بھیجا۔ پھر خود ہندی کے قتل کا قصد کر کے وہیں سے لوٹا۔

وفات | موسیٰ نے آکر ہندی پر زور بول دیا۔ اہل مغرب اور فرغانہ نے خلیفہ کی حمايت میں کسر نہ اٹھا رکھی اور خوب خوب مقابلہ کیا۔ امرار کے ساتھیوں میں سے صرف ایک دن میں چار ہزار ترک قتل ہوئے۔ کئی روز لڑائی کے بعد خلیفہ کی فوج نے شکست کھائی اور خلیفہ واو شجاعت دیتا ہوا گرفتار ہوا۔ دشمنوں نے اس کے خیمتین دبا کر مار ڈالا۔ یہ واقعہ رجب ۲۵۷ھ کا تھا۔ ہندی نے صرف ۱۱ ماہ پندرہ

۲۵۲ تا تاریخ الخلفاء ص ۲۵۲

فرائض خلافت انجام دیے۔

زوال سلطنت عباسیہ | ہندی کے زمانہ میں سلطنت کی خرابیاں اس درجہ پر پہنچ چکی تھیں کہ ان کی اصلاح ہندی جیسے متقی اور سلیمان

بن وہبنا وزیر فاضل سے نہیں ہو سکتی تھیں ترک اپنی جہالت سے ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ وقار خلافت عوام کے قلوب سے اٹھتا جا رہا تھا۔ عوام بھی ان کی سخت گیریاں جھیل جھیل کر بزدل بن گئے تھے۔ باشندگان بغداد جب ہندی کو ترکوں نے نرفہ میں کر لیا تو اس کے حفاظت جان کے لیے مسجدوں میں گوعائیں کر رہے تھے خود کسی قسم کی معاونت نہیں کر سکتے تھے۔

ہندی کے زمانہ میں دولت عباسیہ کا اور ملک کا حصہ بھی علیحدہ ہو گیا دولت طولونیہ قائم ہوئی۔

یعقوبی لکھتا ہے۔

صفات ہندی

و ظہرت من المہندی سیرت حسنہ و مذاہب محمودہ و جلس

للمظالم بنفسہ و ناشر الامور بحسبہ و وقع فی القصاص سبطہ و ابطل الملباہی و قدم اہل العلم

ہندی نہایت متقی تھا تہذیب و دانشگاری۔ علم و فضل میں اور اعتدال

و میانہ روی اور امانت داری و دینداری میں تمام مشہور خلفائے نبوی عباس میں قریب قریب ویسا ہی تھا۔ احکام خدا کے اجرا میں سخت تھا۔ شجاع تھا مگر اس کو بدکار نہ قرار دیا۔

۲۵۱ تاریخ الخلفاء ص ۲۵۱، ۲۵۲ تاریخ الخلفاء ص ۲۵۱

خطیب بغدادی لکھتا ہے "خلیفہ ہونے کے وقت سے لے کر قتل ہونے تک روزہ رکھتا رہا۔ رکوع و سجود میں رات کا بڑا حصہ گزارتا۔"

زہد و ورع | ہاشم بن قاسم کہتے ہیں کہ رمضان میں شام کے وقت مہندی کے پاس میں بیٹھا تھا۔ جب میں چلنے لگا تو مہندی کہنے لگا۔ ہاشم بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے افطار کیا اور نماز پڑھی۔ مہندی نے کھانا مانگا۔ تو ایک بید کی ڈلیا میں کھانا آیا۔ اس میں پتی پتلی روٹیاں تھیں اور ایک برتن میں تھوڑا سا نمک، دوسرے میں سرکہ اور تیسرے میں زیتون کا تیل تھا۔ مجھ سے بھی کھانے کو کہا۔ میں نے کھانا شروع کیا۔ اور رول میں سوچا۔ کھانا اور کھبی آتا ہو گا۔ مہندی نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا تمہارا روزہ نہ تھا۔ میں نے کہا تھا۔ پھر پوچھا کہ کیا کل روزہ نہ رکھو گے؟ میں نے عرض کیا۔ رکھوں گا اور عرض کیا۔ امیر المومنین! یہ تو ماہ رمضان ہے۔ خلیفہ بولا۔ پھر تو اچھی طرح سے کھاؤ اور امید یہ نہ رکھو کہ اور کھانا آئے گا۔ کیوں کہ اس کے سوا اور میرے لیے کھانا نہیں ہے۔ یہ شکر مجھے سخت تعجب ہوا۔ اور میں نے تعجب سے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے۔ خدا نے آپ کو تمام نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ مہندی نے کہا۔ بات یہ ہے کہ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سا شخص پیدا ہوا اور بنی ہاشم میں نہ ہو۔ اس لیے میں نے یہ طور اختیار کیا ہے۔

لباس صوف | مہندی سادگی و صنیع سے رہتا تھا۔ دربار میں لباس فاخر پہنتا۔ مگر مدتوں ایک جوڑا استعمال میں رہتا۔ ورنہ گھر میں صوف

کا لباس پہنتا تھا چنانچہ لفظویہ کا بیان ہے۔
 کہ ہتھدی کے پاس ایک جامدانی تھی کہ جس میں ایک کرتا
 صوف کا اور ایک چوڑا کپڑا رہتا تھا۔ ہتھدی اُس کو
 رات کو پہن کر نماز پڑھا کرتا تھا۔

نبی عباس کا ایوان عیش و عشرت بدل کر بوریے فقر محلات میں بچھا
 دیا۔ اُس کی سادہ زندگی زہد کا نمونہ تھی

عدل و انصاف | ہتھدی کی سیرت میں سب سے نمایاں اس کا عدل و انصاف
 اور اوامر و نواہی کا قیام ہے اس نے عدل کے لیے ایک
 خاص عمارت قبۃ المظالم کے نام سے بنوائی۔ جہاں روزانہ بیٹھ کر عوام و
 خواص کی دادرسی کیا کرتا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اس کے رُطکے پر دعویٰ کیا
 ہتھدی نے شہزادے کو عدالت میں طلب کیا اور مدعی کے پہلو میں کھڑا کر کے
 دعوے کی سماعت کی۔ شہزادے نے اقرار کر لیا۔ ہتھدی نے اس وقت
 مدعی کا حق دلوا دیا۔

عبدالقدیر ابن اسماعیل اسکانی نے تعریف کی کہ ہتھدی بولا میں اس آیت
 قرآن پر عامل ہوں و نفع الموازین القسط لیوم القیامۃ الخ اور
 بے اختیار رو پڑا۔

علامہ فخری کا بیان ہے کہ ہتھدی نے اپنے تمام متعلقین کو ظلم و تعدی
 سے حکم روک دیا تھا۔

علماء کی قدردانی اہتدیی کی علمی استعداد کو معمولی تھی۔ مگر شاہی علمی گھرانے

میں آنکھ کھولی تھی۔ علوم دینی کا اثر اسلانت سے پایا تھا۔ علماء اور اہل کمال کی توفیر و منزلت بہت کرتا تھا۔ ایک علماء کی جماعت اس کے پاس مرتبہ بڑے مرتبہ کے فقہاء اس کے دربار سے منساہت تھے انکی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا

اتباع سنت اتباع سنت کا بڑا لحاظ رکھتا تھا اپنے بزرگوں جنہوں نے عجمیوں کے مانند حکومت کی شان بنا رکھی تھی ان کے خلاف تھا

چنانچہ محلات جو گہوارہ عشرت تھے۔ اس کے لوازمات کو ختم کیا۔ نقرائی دطلالی ظروف گھلا دیئے اور اسکے ڈھلوانے گئے اپوان عشرت کو بجد سادہ صورت میں اس نے بنا دیا خلفائے عباسیہ نے سینڈھوں اور مرغوں کو اپنی تفریح طبع کے لیے محل میں رکھ چھوڑا تھا انکو ذبح کر دیا جانور خانہ جس میں درندے پلے ہوئے تھے مروا ڈلے۔ وہ فریش و فروش جن کا استعمال شرعاً ممنوع تھا اپنے محل سے ہٹوائے۔ باپ دادا نے دسترخوان کا خرچ دس ہزار درہم روزانہ کا قرار دے رکھا تھا گھٹا کر سو درہم کر دیا خود اس میں بہت قلیل خرچ اپنی ذات پر کرتا عموماً روزہ رکھا کرتا تھا۔

محبت اہل بیت حضرت علیؑ کو خصوصیت محبت رکھتا تھا۔ اسکا ایک خطبہ محمد بن علیؑ سے پوچھ کر طلبند کیا اور روزانہ تنہا مکان میں۔ درو کر اس کو پڑھا کرتا تھا۔

حلیہ قدمیانہ، بدن حسین۔ پیشانی چوڑی۔ البینہ آنکھیں کنجی، پیٹ بڑا، دار گما لانی تھی۔ سر پر بال کم تھے بلکہ

۱۹ مروج الذهب ج ۸ ص ۲۱ ۲۰ سعودی ج ۸ ص ۱۹ ۱۸ مروج الذهب ج ۸ ص ۱۹۔

۱۸ مروج الذهب ج ۸ ص ۲۹ ۲۸ التبیہ والاشراف ص ۲۹۵۔

خلیفہ معتمد علی اللہ

نام و لقب | احمد بن جعفر متوکل نام تھا۔ کنیت ابو العباس تھی لقب معتمد
علی اللہ تھا۔ ام ولد فتیان نامی خاتون کے بطن سے تھا۔

تعلیم و تربیت | شاہی خاندان میں تعلیم و تربیت ہوئی۔ اس کے اوائل عمری
میں دارالمخلافہ علوم و فنون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ معتمد پر بھی اثر پڑے

بغیر نہ رہا۔

بیعت خلافت | ہندی کے عزل کے وقت معتمد "وسق" مقام میں قید تھا
ترکی امراء نے قید خانہ سے لاکر تخت خلافت پر بٹھایا۔ اس

وقت معتمد کی عمر پچیس سال کی تھی۔

۱۱ ارجب ۲۵۶ھ کو موسیٰ بن بغداد و دیگر اعیان سلطنت نے بیعت کی اور المعتمد
علی اللہ لقب سے ملقب کیا

وزارت | عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی دربار پر نظر ڈالی۔ علی اللہ بن بختی
بن خاقان کو منصب وزارت تفویض کیا پھر حسن بن محمد بن جراح

سلیمان بن وہیب۔ ابوالصفراء اسمعیل بن بلیس۔ ابوبکر بن صالح بن شیرزاو
یکے بعد دیگرے وزارت پر وقتی ضرورت کے لحاظ سے سرفراز ہوتے رہے آخر

میں عبید اللہ بن سلیمان وزیر اعظم تھا۔

عالم مشرق | معتد نے اپنے بھائی موفق طلحہ کو مشرق کا عامل بنایا اور اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنا کر مصر و مغرب کا گورنر کیا اور اس کو خلافت مابینے مفوض الی اللہ سے خطاب فرمایا۔

قضاہ | منصب قضاة پر حسن بن محمد بن ابی الشوادب برقرار رکھے گئے۔ آگے چل کر ان کے بھائی علی بن عمر کو قضاة کے عہدہ پر سرفراز کیا۔

حجابت | اس منصب پر یاجوج ترکی۔ کیفیغ ترکی۔ حسن بن تریغک۔ خطاش یکتر فائز ہوتے رہے۔

ملوالت الملوکی | معتد نے عنان حکومت اس وقت ہاتھ میں لی جبکہ قلمرو دولت بنی عباس میں ہر جگہ بد نظمی پھیلی ہوئی تھی شورش اور ہنگامے سنے

دن ہوتے رہتے۔ سجستان، کرمان، فارس پر دولت صفاریہ کا اقتدار تھا اسان سے بھی حکومت طاہریہ کا اقتدار۔ صفاریہ کے غلبہ سے کمزور پڑتا جا رہا تھا بلخ، تاجکستان اور جرجان وغیرہ پر دولت زیدیہ کا قبضہ تھا۔ ماوراء النہر پر ایک نئی حکومت سامانیہ کے نام سے قائم ہو رہی تھی۔ شمالی افریقہ پر دولت اغالیہ کا قبضہ و تصرف تھا۔ بصرہ، ابلہ اور کوردجان وغیرہ پر صاحب الزینع چھایا ہوا تھا۔

والی شام کی بغاوت | دولت عباسیہ کے قلمرو کے حصہ ہو چکے تھے جو ابھی باقی تھے۔ ان میں بھی آئے دن بغاوت ہوتی رہتی

شام میں علی بن شیح خلافت آب کی طرف سے والی تھا۔ اس نے موقع کی بکرت

سے فائدہ اٹھا کر شورش پر کمر باندھی۔ مہندی کے وقت میں ابن شیخ نے کچھ ہاتھ پیر نکالے تھے۔ مگر یہ قلعہ بڑھنے نہ پایا۔ معتمد کے زمانہ میں اپنی قوت کے بل بوتے پر سرکاری خراج بھیجا بند کر دیا اور اس پر طرہ یہ کہ مصر سے جو خراج دارا بخلمانہ بھیجا گیا اس کو راہ میں روک لیا۔ معتمد تک عیسیٰ کی خود سری کی خبر پہنچی۔ اس نے دور بہنی کو کام میں لاکر بجائے سرزنش کرنے کے ارمینہ کے علاقہ کی حکومت اس کو اور عطا کر دی یہ طریقہ خلافت آج کا بڑھتی ہوئی شورش اور بغاوت کے خاتمہ کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ عیسیٰ بن شیخ اس مراحم خسروانہ کو دیکھ کر خلیفہ سے عذر خواہ ہوا اور اطاعت کا حلف اٹھایا اور بیعت کر لی۔ مگر کچھ عرصہ بعد پھر انحراف کیا۔

معتمد نے دمشق کا والی امیر ماجور ترکی کو کیا۔ عیسیٰ کو ناگوار گذرا۔ اس نے اپنے رط کے منصور کو اما جور سے مقابلہ کرنے کو بھیجا۔ وہاں ایک پختہ کار ترک اور منصور نو عمر اور ذہین کیا مقابلہ کرتا۔ آخر میں اس معرکہ کے مڈ منصور چڑھا اس کے ساتھی تاب مقابلہ نہ لاسکے اور یہ اما جور کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے منصور کو قتل کیا دیا۔ اس واقعہ سے عیسیٰ بن شیخ کے جو صلہ پست ہو گئے اور اس قدر بیٹے کے مرنے سے دلگیر ہوا کہ اس نے شام کی ولایت چھوڑ دی اور ارمینہ کا رخ اختیار کیا۔

شورش صنار الزنج | صاحب الزنج کا اقتدار مہندی کے زمانہ سے معتمد کے عہد میں اور بڑھ گیا۔ پھر تو وہ عراق کے بڑے حصہ پر

قابلض ہو کر حکمرانی کرنے لگا۔ ۲۵۲ھ سے ۲۵۷ھ تک اس علاقہ کے مسلمانوں پر باروک ٹوک ان نے بڑے مظالم توڑے۔ گو عباسی افواج سے مقابلے

ہوئے۔ مگر اس کو ہی ہر معرکہ میں کامیابی رہی۔ اسٹریٹس خلافت مآب کی فوج کے ہاتھوں زنگیوں کا سرغنہ بہبود نامی مارا گیا جو اپنے کو رسول کہتا تھا۔
 صاحب الزینج کا دوسرا ساتھ پہلی تھا۔ اس نے محلہ مقبرہ بنی لشکر میں ایک مسرتیار کر کے جمعہ کے دن صاحب الزینج کے نام کا خطبہ پڑھا۔ شجنین پر رحمت ادا دیکر پرتبرہ بھیجا۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس نے اہل بصرہ کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے خوف سے صد ہا بصری جنگلوں میں جا چسے۔ بصریوں کی جان و مال کے علاوہ عزت و آبرو بھی ان کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی۔ سادات کی خواتین کو لونڈی بنایا اور نیلام کیا۔ پندرہ سال تک مسلسل ایسے ظلم کیے۔ صرف پہلی نے ۵ لاکھ مسلمان قتل کئے۔ موافق خود عسکر عباسیہ کی کمان لے کر میدان میں آ گیا اور اپنے تہور و شجاعت سے زنگیوں کی ایسی خبری کہ ہزار ہا کھیت رہے۔ آخر کار ۲۰ھ میں صاحب الزینج کا غمانہ کر کے خلق اللہ کو اس کے ظلم سے موافق نے نجات دلائی اور خین کا بیان ہے کہ اس نے اور دوسرے ساتھیوں نے ایک کر ڈر مسلمان توار کے گھاٹ اتارے۔ موافق ربر اور معتد نے اس مہم کو سر کر کے بلاد اسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اور امن دینے کا اعلان کر دیا۔ چند دنوں تک امن و امان کرنے اور انتظام کے خیال سے موفقیہ میں مقیم رہا۔ بصرہ، ایلیہ کو رد و حملہ کی حکومت محمد بن حماد کو عنایت کی اور اپنے بیٹے ابو العباس کو جس نے زنگیوں کے مقابلہ میں داد شجاعت دی تھی۔ بغداد روانہ کیا۔ چنانچہ ابو العباس ۱۵ جمادی الثانی ۲۰ھ

۲۰ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۰۳ لے طبری وابن اثیر وابن خلدون جلد ۱ ص ۱۶۸

۳۶۰ لے تاریخ الخلفاء ص ۱۶۸

کو داخل بغداد ہوا۔ اہل بغداد نے بڑی خوشی منائی۔ سارے شہر میں چراغاں کیا گیا۔

۲۶۲ء میں موفق، ابن طولون کے خلاف واقعات احمد بن طولون ہو گیا۔ اور اس کو مصر سے معزول کر دینے کی

دہلی دسی۔ اس پر ابن طولون، جو مصر میں صاحب اقتدار بن چکا تھا۔ اس نے نائب سلطنت کو سخت جواب دیا۔ موسیٰ بن بفا کی ماتحتی میں موفق نے لشکر بھیجا۔ رقم میں پچھوڑ کر کسی رسد سے ابن بفا کو لوٹنا پڑا۔ مگر معتد نے رنگ دیکھ کر بھائی موفق کی مرضی کے خلاف ابن طولون کو طرسوس کی ولایت کا فرمان لکھ بھیجا۔ کیونکہ وہاں آئے دن رومی حملے ہوتے رہتے تھے۔ ابن طولون نے خلافت آب کے فرمان کے بموجب سرحد کے علاقہ میں جا کر سرحد کو بالکل محفوظ کر دیا۔ رومی ابن طولون کے نام سے خوف زدہ رہنے لگے۔ اب طولون کی توجہ بلخہ ملکوں کی طرف منقطع ہوئی۔ چنانچہ اس نے ۲۶۴ء میں سارے ملک شام پر قبضہ کر لیا اور متصرف ہو گیا۔ اب طولون یہ دولت برقعہ سے فرات تک وسیع ہو گئی۔ خلیفہ عباسی معتد کے پاس صرف عراق جزیرہ کے صوبے رہ گئے جہاں شورشوں کا تانا لگا ہوا تھا۔

موفق صاحب الزنج کے فتنہ کے سدباب میں لگا ہوا تھا۔ ابن طولون نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی فوج کو بڑھایا اور سلطنت طولونیہ کو قوی کیا۔ اس کے سوا خلیفہ کو تحفے و تحائف کثرت سے روانہ کئے اور خلیفہ سے استدعا کی کہ مصر جائے۔ معتد، موفق کے اقتدار سے گھبرا چکا تھا۔ بسا مرام سے روانہ ہوا لیکن

۱۵ ابن خلدون جلد ۱، ص ۶۰

موفق کو بصرہ میں اس کی روانگی کا علم ہو گیا۔ اس نے ناقہ سوار کے ہاتھ حاکم ہوسل کو خط لکھا کہ خلیفہ کو سرحد سے باہر نہ جانے دے۔ چنانچہ اس نے معتمد کو سمجھا بھجا کر روک لیا اور سامرا کی طرف باحترام و اکرام واپس کیا۔

موفق کو ابن طولون کی اس حرکت سے بے حد اس سے ہزاری پیدا ہو گئی اور اس نے معتمد سے اس پر لعنت بھیجنے کا حکم آئمہ مساجد کے نام لکھوایا۔

اندرونی خلفشار کی وجہ سے سرحد پر شورش اٹھ نکھڑی ہوئی۔

شورش سرحد رومی مسلمانوں کے علاقہ میں لوٹ مار کرتے رہتے۔ ۲۶۳ھ

میں رومیوں نے قلعہ بوہرہ جو ان کے لیے سب سے بڑی حد بندی تھی اس پر قبضہ کیا اور اسلامی لشکر جو حفاظت سرحد پر تھا۔ اس پر آئے دن حملہ کرتے رہتے یہی وجہ تھی کہ خلیفہ نے ابن طولون کو اس طرف کا والی بنایا۔ چنانچہ طرسوس پر ابن طولون نے بقوت قبضہ کر کے رومیوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو پسپا کر دیا بلکہ فوجیں تیار کر کے رومی ملکوں پر چڑھ دوڑا۔ اور اکثر رومی شہروں کو تانٹ و تاراج کرویا جس سے ابن طولون کی بیسیت و جلالت شان رومیوں کے قلوب پر چھا گئی۔

۲۶۵ھ میں رومیوں نے اس علاقہ کو چھوڑ کے دیار ربیعہ کی سرحد پر غارت گرمی شروع کر دی اور بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے گئے عبداللہ بن زید بھی گرفتار ہو گئے مگر اس سلسلہ میں قیصر روم نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور چند مصاحف ابن طولون کے پاس ہدیہ میں بھیجے۔

واقعات متقلبہ ۲۶۶ھ میں سسلی کے مسلمانوں اور رومیوں میں بحری معرکہ

درپیش ہوا۔ اس میں مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی اور وہ ناکامی کے ساتھ سلی
لوٹ گئے۔ پھر دیارِ مدینہ پر رومیوں نے تاخت کی۔ ۲۶ھ میں رومی ایک لاکھ
فوج کے ساتھ طرسوس پر حملہ آور ہوئے تو ابن طولون کے غلام باذیاری نے ایسا
مقابلہ کیا کہ ستر ہزار مارے گئے۔ رئیس البطارقہ مقتول ہوا۔ اور بے شمار مال
غنیمت عسکرِ اسلامی کے ہاتھ آیا۔

امیر صفیہ جعفر بن محمد نے بحری و بری فوج سے سر قوسہ کو فتح کر لیا جس سے
کچھ عرصہ کے لیے سرحدی بغاوت کے خطرہ کا سدباب ہو گیا۔ قسطنطنیہ سے
جنگی بیڑا آیا تو اس کو بھی شکست فاش دی۔

احوال علویین | محمد کے زمانہ میں اثنا عشریہ کے گیارہویں امام ابو محمد حسن عسکری
نے ۲۶۰ھ میں وصال فرمایا اور اپنے والد بزرگوار کے
پہلو میں دفن ہوئے۔ ان کی وفات پر شیعوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کی
رأے یہ تھی کہ امامت کا سلسلہ ان کی ذات پر منقطع ہو گیا۔ اب کوئی امام دنیا
میں نہیں ہے۔ بعض کا کہنا یہ تھا کہ ان کے بھائی جعفر امام وقت ہیں لیکن زیادہ
تر افراد ان کے بیٹے محمد عسکری کو امام تسلیم کرتے ہیں جو اپنی والدہ کے سامنے
ایک سرداب سرمن رائے (تہ خانہ) میں داخل ہوئے اور باہر نہ نکلے ہی
امام ہدی (امام منتظر اور امام قائم) کے نام سے مشہور ہیں۔

گو شیعوں میں امام جعفر صادق کے بعد سے ہی اختلاف شروع ہو گیا
تھا۔ ان کے سات بیٹے تھے عبد اللہ، اقطع، محمد، موسیٰ، اسمعیل وغیرہ

بعض شیعوں نے عبد اللہ قطع کو امام کے منصب پر فائز کیا۔ کسی نے محمد کو امام قرار دیا۔ ایک جماعت شیعہ اسمعیلی کی امامت کی قائل ہوئی جو آگے چل کر اسمعیلی کہلائے گئے۔ غرض کہ امامت کا مسئلہ شیعوں میں متفق علیہ نہیں ہے۔

اسمعیلیہ اور امامیہ مبداء تشیع میں باہم متفق اس صورت سے ہیں
اسمعیلیہ کہ دین میں رائے کو دخل نہیں بلکہ تحقق شرع کے لیے ایک امام معصوم کا وجود ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر امام جعفر صادق تک چھ اماموں کی امامت پر شیعوں کی کل جماعتیں متفق ہیں ان جماعتوں میں دوسرے گروہ ہیں امامیہ و اسمعیلیہ، بقیہ ان کی شاخیں ہیں۔ گروہ امامیہ نے موسیٰ کاظم سے سلسلہ حسن عسکری تک قائم کر رکھا ہے اور امام قائم کے منتظر ہیں اور اسمعیلیہ نے اسمعیلی کی اولاد میں امامت مخصص کر دی ہے۔

اسمعیلیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا ظہور کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی وہ مستور ہوا کرتا ہے۔ لوگوں کو اس کے حال کی آگاہی نہیں ہوتی۔ مگر جب یہ صورت پیش آئے تو اس کا کوئی نائب ظاہر ہو جو خلق اللہ پر رحمت ہو اور دعوت و تبلیغ کے منصب پر قائم ہوئے گا۔ ان کے آئمہ پر خلافت بنو فاطمہ میں بحث کی جائے گی۔

باطنیہ باطنیہ، اسمعیلیوں کی ایک شاخ ہے جو معتز کے عہد کی پیداوار ہے امام حسن عسکری کے بعد اسمعیلی داعیوں نے اپنی تعلیمات کو جن کا زیادہ حصہ مخفی رکھا جاتا تھا۔ اس کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی اور نہایت صبر و استقلال اور نرمی سے اپنے خیالات کی خاص خاص لوگوں میں تبلیغ کرتے

اس وجہ سے اس جماعت کو باطنیہ کہنے لگے۔ زیادہ تر ان کے پھندے میں نو مسلم جو سی پھنسے۔ یہ لوگ ظاہرہ مسلمان تھے۔ باطن میں اپنے قدیمی عقائد کے قائل تھے جو سیوں میں ویسا نیہ اور مانیہ خیالات کے لوگ زیادہ تھے باطنیہ جماعت میں ان لوگوں نے شامل ہو کر اپنے عقائد کی خوب خوب تبلیغ کی اور مگر ابی کا دروازہ باطنیہ کے پر دے میں اسلام میں کھول دیا۔ گو عہد خلافت اسلامیہ میں نو مسلم جو سیوں نے فتنہ اٹھائے تھے۔ برائے۔ فضل و زراہ ان کے دم میں پھنس گئے تھے۔ مگر ان زندیقوں کو جہدی۔ ہادی نے کیفر کردار کو پہنچا دیا تھا جس کا تفصیلی حال پہلے آچکے ہے۔

باطنیہ میں سب سے بڑا شخص عبداللہ بن میمون بن قدرح و یصانی تھا اسلام لانے کے بعد داعی نبوت ہوا۔ پہلے عسکر کرم میں مقیم ہوا وہاں سے نکلا گیا۔ پھر بصرہ میں بنی عقیل کے پاس رہا۔ اس کے بعد حمص (شام) چلا گیا وہاں ایک موضع سلیمیہ کو اپنا مرکز بنایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فرقہ باطنیہ کا ظہور ہوا۔ بعض مورخین دولت فاطمیہ کا بانی عبید اللہ مہدی کو میمون کی نسل سے بناتے ہیں۔ مگر علامہ ابن خلدون اس کی تردید کرتے ہیں۔

قرامط | یہ جماعت بھی اسمعیلی شیعوں سے عہد معتمد میں نکلی۔ ان کا مستقر عراق تھا۔ بے باک اور خونریز جماعت تھی اسلام کو اس جماعت نے بہت نقصان پہنچایا۔

حمدانی قرامط نواحی خوزستان سے کوفے کے متصل قریہ نہرین میں آکر داعی

امامت ہو کر قیام پذیر رہا۔ اس کے ظاہرہ زہد و عبادت کو دیکھ کر اہل قریہ اسکے گردیدہ ہو گئے۔ اس نے پچاس وقت کی نماز کی تلقین کی۔ جب کثرت سے لوگ آنے لگے تو امام منتظر کی دعوت شروع کر دی جب حمدانی قرمطی بیمار پڑا کر مہنت نامی نے اس کی تیمارداری کی جب وہ اچھا ہو گیا تو حمدان نے تیماردار کا نام اختیار کر لیا۔ پہلے یہ لوگ کر مہنت پھر قرمط کہلانے لگے۔ سو ادعراق کے کم عقل و ہتھالی کا لشکر سی پیشہ رکھنے والے اس کے دام میں بھنس گئے جب زیادہ رجوعات ہونے لگی تو قرمط نے ایک آسمانی کتاب کے اپنے اوپر نازل ہونے کا دعویٰ کیا۔

دعوت قرامط | قرمطی کی یہ دعوت تھی کہ فرج بن عثمان قریہ نصرانیہ کا باشندہ داعی مسیح ہے۔ مسیح ہے، کلمہ ہے۔ مہدی ہے احمد بن محمد بن حنفیہ ہے۔ جبریلؑ ہے اور مسیح نے انسانی پیکر میں آکر اس سے کہا کہ تم داعی ہو۔ حجۃ ہو۔ ناقہ ہو، دائبہ ہو۔ یحییٰ بن زکریا ہو۔ روح القدس ہو! قرامط کو چار رکعت نماز کی تعلیم دی، دو۔ طلوع آفتاب سے قبل اور دو غروب آفتاب سے پہلے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ احمد بن محمد بن کی رسالت کی بھی شہادت تھی۔ نماز میں کلام اللہ کی آیات کے بجائے "استفتاح" اس کے گمان میں جو احمد بن محمد بن حنفیہ پر نازل ہوا، اس کی تلاوت کی جاتی کعبۃ اللہ کی بجائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا، جمعہ اور اتوار سہتہ میں ہر دو دن رخصت کئے رکھے۔ ہر چنان اور نور روز کے دن میں دو روزے مقرر کئے بنید کو حرام اور شراب کو حلال قرار دیا۔ جنابت میں غسل کے بجائے دھو

اور غیر عار ب پر جزیہ مقرر کیا۔ اس کے علاوہ ثنوی مذہب کی بہت سی باتیں
 قرامط نے اپنی کتابیں۔ ان کا عقیدہ باطنی یہ تھا کہ نور سے خیر کا ظہور ہوتا
 ہے اور ظلمت سے شر کا ظہور ہوتا ہے۔ بزوان اور اہرمن کی باطنی تعلیم تھی اس
 کے عقائد میں ایرانی فلسفہ کی آمیزش تھی۔

وقائع قرمطی | سواد کوفہ، امیر شیم کا علاقہ تھا۔ اس کو قرمط کا حال معلوم ہوا

اس نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا۔ حمدانی قرمط نے موقعہ پا کر
 اس کی لوندی سے گڑ گڑا کر رحم کی درخواست کی۔ اس نے شیم کے کیمے سے
 نیچے سے چھپا کر چانی نکال کر دروازہ قید خانہ کا کھول دیا۔ دوسرے دن شب
 میں شیم نے دروازہ کھلا پایا۔ وہ فرار ہو گیا۔ صبح قید خانہ خالی تھا۔ عوام میں یہ
 یہ شہرت اڑ گئی کہ قرمط اپنی کرامت سے غائب ہو گیا۔ اس سے عوام اور
 گمراہ ہو گئے۔ شیم عراق سے شام پہنچا۔ اور وہاں اپنے خیالات کی اشاعت
 کرنے لگا۔ ادھر سواد کوفہ میں جو تخم بویہ گیا تھا۔ خوب برگ و بار لایا۔

دولت سامانیہ | معتد کے عہد میں نصر بن احمد بن اسد سامانی اپنے والد احمد بن

اسد کے بچے فرغانہ کا حاکم مقرر ہوا۔ ناموں نے ہی احمد کو
 عامل مقرر کیا تھا۔ نصر نے اپنے بھائی اسمعیل کو ۲۶۱ھ میں بخارا میں نائب بنا
 کر بھیجا۔ مگر دونوں بھائی حاسدوں کے ہتھ میں پڑ کر باہمی لڑ پڑے۔ ۲۶۵ھ
 میں اسمعیل نے نصر کو مقابلہ پر شکست دی اور نصر کو گرفتار کر لیا۔ مگر پھر ہر دو بھائی

۱۰۲ ابن اثیر جلد ۱ ص ۱۰۲ و ابوالفدا ۱۰۵ کتاب الفرق بن الفرق ص ۲۶۹

۱۰۵ ابن اثیر جلد ۱ ص ۱۲۸

میل کر بیٹھے نصر سمرقند بھیج دیا گیا۔ احمد بن اسد چار بھائی تھے۔ ماوراء النہر کے چار
 حصوں پر فرغانہ، شاس، اشروسند، ہرات پر نوح۔ احمد۔ یحییٰ۔ الیاس بن
 اسد عامل تھے۔ ان سامانیوں نے دیکھا کہ یعقوب صفاری نے ہرات سے
 کر فارس تک خود مختار حکومت قائم کر لی تو انہوں نے بھی باہمی مل کر ماوراء النہر
 میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اپنی حکومت کا دائرہ فارس تک سفاری
 دولت کو ختم کر کے بڑھا لیا۔ ۲۶۷ھ میں یہ عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی اور
 ۳۸۹ھ میں خاقانی ترکوں اور آل سبکتگین کے ہاتھوں ختم ہوئی دولت مانیہ
 کے مفصل حالات آگے آتے ہیں۔

عزیزانہ صفاری۔ سامانیوں کے قیام سے عملاً خلافت عباسیہ کا نفوذ
 آٹھ گیا۔ صرف خطبوں میں خلیفہ کا نام رہ گیا۔

مغرب میں دولت طولانیہ کے قیام سے مصر اور شام۔ برقعہ سے خلافت
 عباسیہ کا اثر جاتا رہا تھا۔ اب ماوراء النہر اور فارس سے بھی اقتدار آٹھ گیا۔

معتد کے بعد موفق ولی عہد قرار دیا گیا تھا۔ مگر ۲۷۸ھ میں اس
 ولی عہدی کا ایک ایک انتقال ہو گیا۔ اس لیے معتد نے اپنے بیٹے مفوض
 اور موفق کے بیٹے ابوالعباس کی ولی عہدی کا فرمان لکھا۔ لیکن ابوالعباس
 صاحب اثر اور شجاع تھا جن نے صاحب الزنج کے مقابلہ میں کارہائے
 نواباں کئے تھے اس نے اپنے آپ کو مفوض ہاشم پر مقدم کر لیا۔

حالا موفق عباسی | موفق صحیح معنی میں امور خلافت انجام دے رہا تھا اور
 اس نے اقتدار دولت بنی عباس کو برقرار رکھنے میں

اپنی جان کی بازی لگا دی۔ صاحب الزنج کے فتنہ کو ختم کیا۔ مگر حکومت کے ارکان خود غرض اور ناکارہ تھے۔ اس کی تمام مساعی بے سود رہیں۔

خلیفہ کی حالت | معتمد نام کا خلیفہ رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی لہو و لعب

رقص و سرود میں گذرتی تھی۔ اگر معتمد نے اپنی رائے کو کوئی کام بھی کبھی کیا تو اس میں ذلت کا پہلو ضرور ہوتا تھا۔ ابن طولون کے حوالہ میں آکر مصر جا رہے تھے۔ اگر چلے گئے ہوتے تو رہا سہا بہرہم خلافت بنی عباس کا ختم ہو گیا ہوتا۔

خمارویہ | ۱۰۰۰ء میں طولون مرا۔ تو اس کا بیٹا خمارویہ اس کی جگہ مصر میں تخت نشین ہوا۔ ابوالعباس اور خمارویہ میں سخت جنگ ہوئی۔ خون کے دریا بہہ گئے۔ لیکن خمارویہ کو فتح ہوئی۔

دعوے مہدیت | اسی سال عبید اللہ مورث خلفائے مصر اور افضیاء یمن کے مقتدا نے دعوے مہدیت کیا اور ۱۰۰۰ء

میں اس نے حج کیا۔ قبلیہ بڑکنانہ نے اس کا ساتھ دیا۔ اور ملک مغرب میں ان کے ساتھ گئے۔ یہیں سے مہدی کو عروج حاصل ہوا۔

ابوالعباس کا اقتدار | موفق کے مرنے کے بعد معتمد کی گلو خلاصی ہوئی تھی۔ مگر ابوالعباس جس کے ہاتھ میں فوج کی کمان

تھی۔ اس نے مثل موفق کے حکومت پر اپنے پنجے جما لیے۔ موفق بجائی کا خیالی رکھتا تھا۔ اس نے اپنے چچا معتمد کو نظر انداز ہی کر دیا۔ معتمد نے ایک مجلس عام میں اپنے بیٹے کو ولی عہدی سے معزول کر کے ابوالعباس

کو ولی عہد بنایا اور خود لوگوں سے اس کی بیعت لی اور اس کا لقب معتضد رکھا
اس کے بعد سے ابوالعباس نے اپنے چچا کی خبر گیری شروع کر دی اور احترام و
اکرام سے پیش آیا کرتا۔

وفات معتضد ایک دن محفل رقص و سرود تھی اس میں دو شراب چل رہا تھا
معتضد نے زیادہ پی لی اور اس پر کھانا زیادہ کھا لیا جس سے اس
کو تھمہ ہو گیا۔ ۱۹ رجب شب ۲۴۹ھ کو انتقال کر گیا۔ ۲۳ برس معتضد نے
سلطنت کی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں گلا گھونٹ
دیا گیا۔

علی ترقی معتضد کو کوئی علمی دلچسپی نہ تھی مگر اس کے عہد میں قلمرو بنی عباس میں
بڑے بڑے جلیل القدر علماء علمی سرگرمی دکھا رہے تھے البتہ
۲۴۹ھ میں اس نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی منجم یا افسانہ گو سر راہ نہ بیٹھے اور کتب
فروشوں کی ہدایت کی کہ آئندہ سے فلسفہ اور مناظرہ کی کتابیں فروخت نہوں
نائب سلطنت موفق موفق معتضد کا بھائی تھا اس نے ہر تہ میں خلافت حقیقی معنی میں
بھی اور اس نے عباسی حکومت کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا
معتضد میں کوئی علمی صلاحیت نہ تھی۔ البتہ موفق میں جملہ اوصاف جہان بینی کے
فضل و کمال، تدبیر دیاست و اخلاق عدل و انصاف میں اپنے اسلاف کے
قدم بقدم تھا۔ رعایا کی وادری کے لیے خود قضا کے ساتھ بیٹھا اور مقدمات

۱۰ تاریخ الخلفاء ص ۱۹۶ ۱۱ تاریخ الخلفاء ص ۱۹۶

۱۲ تاریخ الخلفاء ص ۱۹۶

کی سماعت کرتا اور منصفانہ فیصلہ دیتا تھا۔

موفق شجاع دہرادن تھا خورد فوجوں کی کمان کے کر میدان میں اترتا تھا۔
الزنج کی قوت کو اس نے اور ابو العباس نے ختم کیا۔ ترکوں کو اس نے حد سے
ہمگے نہ بڑھنے دیا۔ بلکہ اس کے جبروت سے امراترک لرزہ برآمد کرتے اس
کی وفات سے دولت عباسیہ کو بڑا نقصان پہنچا۔

حالات و زراعت عبید اللہ بن سحیب بن خاقان اصولیاست سے واقف اور
امایات کا بڑا ماہر ۲۳ھ میں گھوڑے سے گر کر فوت ہوا۔

حسن بن محمد اپنے عہد کا بے نظیر انشا پر واز ایک عرصہ تک موفق کا نائب رہا
پھر وزارت پر ممتاز ہوا۔ تمام ضوابط از برکتے دو مرتبہ وزیہ ہوا۔ ایک دفعہ
۱۶ دن فرانش وزارت انجام دینے۔ موسیٰ بن بغا کی ورثی سے بغداد چلا گیا
تھا۔ سلیمان بن وہب عرصہ تک متذی کا وزیر رہا۔ پھر موفق کا میر منشی ہوا
وزارت پر موفق نے سر فراز کیا۔ مگر ۲۳ھ میں معتد اس سے خفا ہو گیا اس
نے اس کے ریشے و سب اور ابراہیم کے گھر لٹوا دئے۔ اور اس کو قید کر دیا اور
بغداد سے پھر حسن بن محمد کو وزارت پر بلا لیا۔ پھر اس سے خفا ہو کر سلیمان کو بلایا
ان پر بھی عتاب نازل ہوا تو ان سے نواکھ دینا وصول کیے اور نظر بند
کر دیا۔ جہاں ۲۳ھ میں وہ انتقال کر گیا۔

معتد کے عہد کے علماء را امام بخاری۔ امام مسلم۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن
ماجنہ۔ ربیع الجبیری۔ ربیع المرادی۔ یزنی۔ یونس بن

لکھ ابن اثیر جلد ۷ ص ۱۴۰

عبدالاعلیٰ - زبیر بن بجاہ، ابو الفضل رباشی - محمد بن یحییٰ ذیلی - حجاج بن شاعر
 عجبی الحافظ، سوسی المقری - عمر بن شیبہ، زرعمہ رازی - محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم
 داؤد النطاہری - ابن دارۃ، لقی بن مخلد - ابن قتیبہ - ابو عاتم رازی وغیرہ
محمد بن وقیبہ احمد بن عمر بن عمر بن ہیر خصاف کنت ابو بکر فقیہ اہل محدث
 زہد و ورع کی شہرت تھی۔ فقہ اپنے والد اور حسن بن زیاد سے
 پڑھی۔ حدیث ابو داؤد طیالسی سے سنی۔ نعلین و موزہ و وزی کی کمائی سے
 زندگی بسر کرتے تھے۔ حکومت کے دست نگر نہ تھے۔ ۲۶۱ھ میں انتقال ہوا نصیباً
 میں سے کتاب الخراج و کتاب الحیل - کتاب الوصایا - کتاب الشروط صغیر و کبیر کتاب
 ادب القاضی - کتاب التفقات وغیرہ کثیر التعداد مشہور ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادہم البلیغی محدث فقیہ، زاہد اولیائے کبار سے تھے
 بادشاہی ترک کر کے کوچہ فخر میں قدم رکھا۔ فضیل بن عیاض سے خرقة ارادت
 پہنا۔ ۳۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

محمد بن شجاع ثعلبی فقہ میں حسن بن مالک کے شاگرد اور حدیث میں یحییٰ بن آدم
 و دیکھ وغیرہ کے علم کے دیاتے۔ ۳۶۶ھ میں انتقال ہوا۔ تصحیح الآثار، نوادر
 کتاب المضار بہ، الرد علی المشبہ تصانیف یادگار سے ہیں۔

نصیر بن یحییٰ البلیغی تلمیذ سلمان ابو زبانی ۳۶۴ھ میں فوت ہوئے محمد
 بن ایمان ماتریدی سمرقندی ۳۶۴ھ میں فوت ہوئے۔ معالم الدین یادگار
 سے ہے۔

بجاہ بن قتیبہ قاضی مصر فقہ یحییٰ بن ہلال رازی دامام زفر سے اور حدیث

ابو داؤد الطیاسی سے سماعت کی۔ ۲۷۰ھ میں فوت ہوئے۔ کتاب الشروط۔
کتاب المحاضر والسجلات، کتاب الوثائق والہود و تصنیف سے ہے۔

امام المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برون بخاری
حقیقی ولادت ۱۹۲ھ میں ہوئی۔ شیخ داخلی محدث بخارا کے پاس تحصیل علم
کیا۔ پھر مکہ معظمہ طالب علم کے لیے گئے۔ حج کیا۔ اٹھارہ سال کی عمر سے تصنیف
و تالیف شروع کی۔ محدث رہونہ کے حلقہ میں بھی شریک ہوئے۔ پھر ۱۰ سال
۲۵۶ھ میں انتقال ہوا۔ آخر تنگ میں دفن ہوئے۔ ۵ لاکھ حدیثیں یاد تھیں
(مقدمہ فتح الباری)

امام حافظ مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری شاگرد امام بخاری آپ کا
مجموعہ حدیث صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہے ولادت ۲۴۲ھ میں ہوئی ان کے
پاس تین لاکھ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں ۲۶۱ھ میں انتقال کیا۔

امام ابو داؤد بن الاسحت الازدی السجستانی ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے
امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا۔ شافعی مذہب تھے۔ ۵ لاکھ حدیث یاد تھیں
۲۶۵ھ میں انتقال ہوا۔

امام ابو عیسیٰ بن سوہ بن موسیٰ بن عیسا ک سلیمی ترمذی ولادت ۲۰۹ھ
میں ہوئی۔ امام بخاری و مسلم کے شاگرد تھے۔ جامع ترمذی شامل ترمذی یادگار ہے
۲۶۹ھ میں انتقال ہوا۔

ملوک سامانی

۳۹۵ھ تا ۵۰۱ھ مطابق ۸۷۸ء تا ۹۹۹ء

بہرام چوہی کی نسل سے اسد بن سامان ایک شخص تھا جس کو اعزاز کی وجہ
کے ناموں الرشید بہت محترم سمجھتا تھا۔

اس کے چار لڑکے تھے۔ جنہوں نے دارالخلافہ میں باموں کے وقت میں
تربیت پائی اور پھر ان کو ذمہ داریوں کے عہدے بھی دے گئے۔ ان کے نام
نوح۔ یحییٰ۔ الیاس اور احمد تھے۔ خراسانی نائب عسان بن ثابت نے احمد کو فرما
یحییٰ کو استر و سنا اور یاس۔ الیاس کو سمرقند کا حاکم بنا دیا۔ ان
کی ادلاویں عرصہ تک حکومت رہی۔ کبھی تو ملوک طاہر کی طرف سے ان کو
حکومت ملتی تھی اور کبھی خلفائے بغداد کی طرف سے مقرر کئے جاتے تھے بادشاہی لقب اس
خاندان میں اسمعیل ابن احمد بن اسد سامانی کے وقت سے استعمال کیا گیا جو ایک
خود مختار بادشاہ ماورالنہر میں ہوا۔ اور خلیفہ بغداد کی جو کچھ اس نے خدمت کی
وہ جزاً بطور اطاعت اور جزاً بطور سلوک تھی۔

اسمعیل سامانی نے بہت بڑی فتح ترکستان میں جہل کی شاہ ترکستان کو
مع اس کی خاتون کے گرفتار کر کے سمرقند لایا اور پھر جیوں سے عبور کر کے عمر ابن
لیث کو گرفتار کیا جس کا ذکر ملوک صفاریہ کے تذکرہ میں آچکا ہے ان دونوں خاتون
نے اسے مستقل بادشاہ بنا دیا۔ شروع شروع اس نے ماورالنہر میں زور پکڑا اور

سمرقند اس کا پایہ تخت ہوا۔ عمر بن لیث کو اس نے قید کر کے لے لیا اور بھیجا۔ وہاں سے اس کو بھستان، خراسان، مازندران، رے اور اصفہان کی حکومت عطا ہوئی۔ اس نے محمد بن زید علوی کو جس نے طبرستان میں خروج کیا تھا شکست دی۔ یہ بادشاہ بڑا عادل اور نیک نام تھا۔ اسمعیل کے بعد آٹھ بادشاہ خاندان سامانی کے اور ہوئے۔ جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔

نمبر شمار	نام	تہ جلوس	کیفیت
۲	احمد بن اسمعیل	۳۰۰	خلیفہ بعد اونی اس کو عہد نامہ اور لو بھیجا۔ اس کا پایہ تخت بخارا تھا۔ یہ بہادر اور کج خلق تھا۔ اراکین دولت کے ایسا یہ قتل کیا گیا۔ ۴ سال تک یہ بادشاہ رہا۔
۲	ابو الحسن نصر بن احمد	۳۰۰	نہایت خور و سالی میں یہ تخت پر بیٹھا۔ اس کے خاندان کے اس سے منحرف رہے اور مغلوب ہوئے ہوش سنبھالنے پر یہ بڑا نامور بادشاہ ہوا۔ ۳۳۳ھ میں ۲۸ سال حکومت کر کے ۳۴۰ سال کی عمر میں اس نے انتقال کیا۔ اپنی کریم النفسی سے اس کا لقب امیر سعید ہوا۔
۳	نوح بن نصر بن احمد	۳۳۱ھ	اس کو سلاطین و یامہ سے برابر مقابلہ رہا۔ اکثر یہ غالب رہا۔ ۳۳۷ھ میں یہ مر گیا۔

نمبر شمار	نام	جلس	کیفیت
۵	عبد الملک بن نوح	۳۴۳ھ	ملک رے اور خراسان کی بابت یہ بھی اپنے باپ کی طرح دیالمت سے برابر لڑتا رہا۔ آخر میں کچھ مصالحت ہو گئی تھی۔ اور اسی اثنا میں چوگان کھیلے ہوئے گھوڑے سے گر کر یہ ۳۵۰ھ میں مر گیا۔ لوگ اس کو مویدا اور موفق بھی کہتے تھے
۶	منصور ابن نوح بن نصر	۳۵۰ھ	اپنے بھائی عبد الملک کے مرنے پر خراسان اور ماوراء النہر کا بادشاہ ہوا۔ البتگین یہ سال خراسان اس کی تخت نشینی کے خلاف تھا۔ اس لیے وہ اس کی تخت نشینی کی خبر سکرغزنی بھاگ آیا اور یہاں اسی کے غلام بکتگیز کی ذات سے سلطنت کی بنیاد پڑی۔ رکن الدولہ ولہی پر یہ بادشاہ غالب آیا اور اس سے کچھ سالانہ خراج مقرر کیا گیا۔ پندرہ سال حکومت کر کے ۳۶۵ھ میں یہ مرا۔ لوگ اس کو امیر موند اور امیر سدید بھی کہتے تھے
۷	نوح بن منصور بن نوح	۳۶۵ھ	البتگین کے خدام سلطان بکتگین کا یہ ہم عصر تھا۔ اس کے وقت میں عہد الدولہ بن رکن الدولہ ولہی تمام عراقین پر قابض ہو گیا تھا اور شمس الملک قابوس بن وشمگیر جرجان

نمبر شمار	نام	سنہ جلوس	کیفیت
			<p>اور طبرستان پر قابض تھا۔ اس کے وقت میں بڑے بڑے معرکے ہوئے اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں کئی مرتبہ تو یہ فخرالدولہ کی حمایت میں عضدالدولہ ولیمی سے لڑا پھر بغراخاں گورنر خراسان ابو علی کی سازش سے ترکستان سے بخارا آیا اور ماوراءالنہر پر قابض ہو گیا۔ امیر فوج تابستانہ نہ لاکر مفروز ہو گیا۔ ابو علی خراسان کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ بغراخاں بیمار ہو کر اپنے وطن کو والپس چلا اور راہ میں مر گیا۔ اس طرح نوح پھر ماوراء النہر کا بادشاہ ہوا۔ لیکن ابو علی اور فائق نے لڑائی کی دبھکی دی تو وہ گھبرایا۔ سبکتگین کا شمار اب تک سہا طین میں نہ تھا۔ سپہ سالاروں کی طرح ہندوستان میں کچھ اس نے غزوات کئے تھے جس سے اس کا نام روشن ہو چکا تھا۔ نوح نے اس سے مدد مانگی جسے اس نے فخر سمجھا۔ اور فوج لے کر نوح کے پاس آ موجود ہوا غرضکہ سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود نے ابو علی کو شکست دی جس کے صباہ میں امیر نوح نے سبکتگین کو ناصر الدین اور محمود کو سیف الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ پھر اس کے بعد کئی مرتبہ سبکتگین اور محمود نے نوح کی طرف سے لڑائیاں</p>

نمبر شمار	نام	سہ جلوس	کیفیت
			کہیں۔ نوح کے گورنر اور ملازم اکثر ناک حرام تھے۔ اس لئے اس کو بڑی بڑی دقتیں پیدا ہوئیں۔ ۳۸۶ء میں یہ اپنی موت سے مرا۔
۸	منصور بن نوح بن منصور	۳۸۶ء	درباریوں کا حال تو بگڑا تھا ہی۔ انہوں نے ضیفنا الدولہ ایسے خیر خواہ و دولت سے منصور کو لڑوانا چاہا لیکن محمود بچا لے گیا۔ اس کے بعد خود اراکین نے منصور کی آنکھ میں سلاخی پھیر کر تخت سے اتار دیا اور اس کے بھائی عبدالملک کو تخت پر بٹھایا۔
۹	عبدالملک بن نوح		عبدالملک بن نوح کو بھی لوگوں نے محمود سے لڑوانا چاہا محمود کب تک مہر کرتا یہ لڑ پڑا۔ عبدالملک بھاگ کر اپنے دارالسلطنت کی طرف گیا۔ وہاں ایک خان کا شغری سے آ کر قابض ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالملک گرفتار ہو گیا اور دولت سامانیہ کا خاتمہ ہوا۔ منصور بن نوح سامانی نے کچھ سر اٹھایا بلکہ ایک خان سے خوب خوب لڑا لیکن آخر ہزیمت پائی اور ۳۹۵ء میں آل سامان کا خاتمہ ہو گیا یہ حکمراں بہادر تھے اور ملک گیری کا شوق رکھتے تھے۔

سامانی دور میں جہاں شجاعت اور بہادری کے جوہر نظر آتے ہیں
علمی ترقی وہاں تہذیب و تمدن میں ان کے عہد کو خوش گو اور زمانہ کہا جاسکتا

ہے سامانیوں کے دور میں علوم و فنون کی ترقی بھی قابل ذکر ہے بادشاہ سامانیہ
 علم اور علماء کے قدردان تھے۔ ابوصالح منصور بن اسحاق کے علمی مذاق کے
 اثر نے ابو زکریا رازی فلسفی کو اس کا مدح خواں بنا دیا۔ اس نے اپنی ایک
 کتاب کا نام المنصوری اس کے نام پر معنون کی۔

بعد کو نوح ثانی (۹۶۷ء) نے نو عمر ابی سینا کو (حسن کا باپ ایک اسمعیلی
 فرقہ کا آدمی تھا) اپنے دربار میں مدعو کیا اور وہ اس کے کتب خانہ سے استفادہ
 حاصل کرتا رہا۔

سامانیوں کے دور میں جدید فارسی کا نشوونما ہوا۔ فردوسی (۹۳۴ء-۱۰۲۰ء)
 کی پیدائش اسی عہد میں ہوئی۔

بلخ منصور اول کا (۹۶۱ء-۹۶۶ء) وزیر تھا۔ ابن حوقل جغرافیہ نویس
 نے اس کے زمانہ وزارت میں ملک کی اندرونی ترقیوں کی بڑی تعریف و توصیف
 کی ہے اسی عہد میں الطبری کی تاریخ کا فارسی زبان میں خلاصہ کیا گیا۔ ایک
 خان نے ۹۹۹ء میں اس ترقی یافتہ حکومت کو یا کمال کر دیا۔

ابو زکریا رازی۔ شیخ ابو بکر محمد بن زکریا رازی علم طب۔ منطق۔ علم ہندسہ، علم
 موسیقی کا ماہر تھا۔ بغداد کے بیت الشفاء میں رئیس الاطباء رہا۔ کتاب الجامع، کتاب
 الاعصاب وغیرہ کثیر التعداد تصانیف اس کی یادگار سے ہیں۔ ۳۲۰ھ میں
 فوت ہوا۔

خليفة المعتضد بالله

نام و نسب | ابو العباس احمد بن ابو احمد موفق بن متوکل - اس کی والدہ صرا زامی ام ولد تھی۔

بیعت خلافت | ۱۹ رجب ۲۶۹ھ میں اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی

وزارت | عبید اللہ بن سلیمان بن وہب اس کا پہلا وزیر تھا۔ اس کے بعد قاسم بن عبید اللہ بن سلیمان مذکور منصب وزارت پر ممتاز ہوا۔

حجابت | منصب حجابت پر صالح الایمن کا تقرر ہوا۔

قضاة | منصب قضا پر ابو اسحاق بن اسمعیل بن حماد بن زید مالکی۔ پھر یوسف بن یعقوب اور ابو حامد عبد الحمید بن عبد العزیز حنفی بصری مشرقی ممالک کے عہدہ قضا پر مامور ہوئے۔

شہنہ بغداد | معتضد نے اپنے غلام بدر کو بغداد کی شہنہ عطا کی اس وقت معتضد کی عمر ۳۶ سال کی تھی۔

بنی عباس میں معتضد عقل و دانش تدبیر و سیاست اور جاہ و جلال میں ایک امتیازی درجہ رکھتا تھا وہ کبھی ترکوں کا کھلونا نہیں بنا۔ بلکہ تمام سرکش امراء کو زیر رکھا۔ اور مخالف قوتوں کو ابھرنے نہ دیا۔ عباسی دولت

جس حالت پر پہنچ گئی تھی اس کی از سر نو اصلاح کی اور تمام عمر ترقی میں نشان ہا۔

تخت پر بیٹھے ہی امیر رافع بن ہرثمہ پر نظر رکھی کیونکہ یہ خود سر امیر تھا۔

رافع بن ہرثمہ کو محمد بن طاہر نے ۲۷۱ھ میں خراسان اپنا نائب بنا کر بھیجا۔

اس نے شاہی علاقہ پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ مقتصد نے اس کی معزولی کا حکم دیا

اور عمر بن لیث صفاری کو جو عرصہ سے خراسان کی فکر میں تھا خراسان کا عامل

بنا دیا۔ رافع نے علویہ طبرستان سے ساز باز کر کے عمر کے مقابل ہوا۔ مگر محمد بن

زید غلامی والی طبرستان نے عمر بن لیث سے لگاؤ پیدا کر لیا اور وقت پر

امداد دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معرکہ میں رافع کو شکست ہوئی

نیشاپور چھوڑ کر ابورواہ چلا گیا۔ مگر عمر بن لیث نے راستہ روک لیا تو وہ

خوارزم بھاگا۔ شاہ خوارزم نے ابو سعید فرغانی کو استقبال کے لیے بھیجا اور

رافع کو دھوکہ دے کر قتل کرا دیا اور سر عمر بن لیث کے پاس بھیج دیا۔

خوارج کی شورش کا خاتمہ | ہارون خارجی موصل کے نواح کے خوارج کا

قائد بن گیا۔ حمدان بن حمدون عامل موصل نے

۲۸۱ھ میں ہارون سے موافقت کر لی۔ یہ خبر مقتصد کے کانوں تک پہنچی

تو اس نے موصل پہنچ کر بدوں کا قتل عام بول دیا۔ مگر حمدان قلعہ ہارون

میں قنایج رہا۔ اس نے قلعہ کو منہدم کر دیا۔ حمدان وہاں سے بھی نکل بھاگا۔ مگر

کہیں جان کی اماں نہ تھی۔ خود مقتصد کے حضور میں حاضر ہوا۔ ہارون نے جزیرہ

کی طرف رخ کیا۔ کثیر التعداد ساتھی ہو گئے۔ سرداران فوج اس کے مقابل

ہوئے شکست کھانی۔ معتضد نے حسین بن صہبان کو اس ہم پر بھیجا اور حمرون کو قید سے آزاد کر دیا۔ حسین نے جا کر ہارون کو شکست دے دی اور گرفتار کر کے بغداد لایا جس کو ۲۸۳ھ میں سولی دے دی گئی۔ ہارون کے قتل کے بعد موصل میں کامل امن و سکون ہو گیا۔

احوال قرامطہ | معتد کے حالات میں لکھا جا چکا ہے۔ قرمطی شام چلا گیا تھا مگر عراق، بحرین اور اس کے نواح میں اس کے ساتھیوں نے اس تحریک کو چلائے رکھا۔ کثرت سے لوگ قرمطی خیال کے ہو گئے ۲۸۳ھ میں ان میں سے یحییٰ بن ہمدی نے "قطیف" میں دعویٰ کیا کہ وہ ہمدی موعود کا داعی ہے جن کا عنقریب ظہور ہونے والا ہے اور ہمدی کی جانب سے ایک صداقت نامہ بھی پیش کیا۔ قطیف اور بحرین کے شیعیان علی نے اس دعوت کو بطیب خاطر قبول کیا۔ ان میں سب سے اہم شخصیت ابو سعید جنابی کی تھی۔ بحرین سے کچھ روز کے لیے یحییٰ چلا گیا اور کچھ دن بعد لوٹ گیا۔ اس کے پاس ہمدی کی طرف سے سب کے نام شکر یہ کے خط تھے اور خمس دینے کا حکم تھا۔ شیعوں نے نامہ ہمدی کو سر آنکھوں پر رکھا اور خمس کے پیش کرنے کی تعمیل کی۔ یحییٰ قبلہ تیس میں گیا اور اس کو بھی گمراہ کیا بحرین کے والی کو اس کا علم ہوا۔ اس نے یحییٰ کو گرفتار کر لیا اور اس کو سخت سزا دی۔ ابو سعید جنابی بھاگ گیا۔ کچھ عرصہ قید رکھ کر چھوڑ دیا۔ یحییٰ جب جھوٹا تو اس نے بنی کلاب، بنی عقیل اور قریش کے لوگوں کو خفیہ طور سے اپنا

ہم خیال بنا لیا۔ اب ان کی قوت اتنی بڑھ گئی۔ ۳۸۷ء میں ہجر کے نواح میں
 قرامط لوٹا۔ بارہ ڈاکہ زنی کرنے لگے۔ ابوسعید نے بصرہ پر حملہ کا ارادہ کیا یہاں
 کا والی احمد لواتقی تھا۔ وہ ابوسعید کے ہمراہیوں کی قوت سے خوف زدہ ہو گیا
 اور معتضد کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے حکم دیا کہ بصرہ کے اردگرد شہر
 پناہ تعمیر کر دی جائے۔ تاکہ قرامط حملہ نہ کر سکے۔ لیکن قرامط نے ہزار ہا
 ہمراہیوں کے ساتھ حملہ کیا اور بصرہ اور ہجر کے اطراف میں ظلم و ستم روا رکھ
 کر اپنی دھاک بٹھا دی۔ مقابل میں عباس بن عمر و غنودمی والی فاضل معتضد
 کی طرف سے آیا۔ اس کو ان کے مقابلہ پر شکست ہوئی۔ عباس کے سوا تمام
 عسکر یوں کو جو گرفتار تھے۔ ابوسعید نے آگ میں جلوا دیا۔ اس کے بعد عباس
 کو رہا کر دیا گیا کہ وہ جا کر معتضد سے سب حال کہے یہ اہلہ ہوتا ہوا بغداد
 پہنچا۔ معتضد نے اس کی دلہری کے لیے خلعت عطا کیا۔

قرامط نے نواح کو فہ کی طرف رخ کیا اور وہاں شورش بپا کر دی
 اس شورش کو دیکھ کر ایک طالبی غلام بدر مجاہدانہ ذوق و شوق سے اٹھ کھڑا ہوا
 اور اس نے مجاہدین کی جماعت کو لے کر قرامط پر بیخار بول دی بہت سے
 روسا کو موت کے گھاٹ اتارا۔ معتضد نے علیحدہ فوجیں روانہ کیں جنہوں
 نے ان کو بے دریغ قتل کیا۔ ہزار ہا قرامطی مارے گئے۔ ایک داعی ذکر وہ
 بن ہر وہ بنے ٹے کے قبائل کو اپنا ہم نوا بنانا چاہا۔ مگر وہ تھے نہ چڑھے
 بنی قیس ان کے دام میں آگئے۔ ان کو لے کر معتضد کے غلام شبل جو ان

کے مقابل آیا۔ اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اصفافہ کی مسجد حلا ڈالی اور
شام کی سرحد تک کی آبادیوں کو ویران کر دیا۔ طولونی عہدہ دار طغ بن خنیف
نے روکا لیکن ذکر دیہ سے اس کو شکست کھانا پڑی۔

۲۸۹ھ میں شام اور کوفہ پر قرامطہ کا تسلط ہو گیا۔ مگر عامل کوفہ نے

ان سے لڑا پھر ان کے سردار ابوالفوارس کو گرفتار کر کے معتضد کے
پاس بھیج دیا۔ معتضد نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ
یا اس کے انبیاء کی روح تمہارے جسم میں داخل ہو کر تم کو عمل خیر کی ہدایت
کرتی ہے۔ اور خطا اور غلطی سے روکتی ہے اس نے کہا کہ

ہمارے جسموں میں اللہ تعالیٰ کی روح آیا ابلیس کی
اس سے تم کو کیا غرض۔ تم وہ بات پوچھو جو تم سے
تعلق رکھتی ہے۔

معتضد نے پوچھا۔ وہ کون سی بات ہے۔ وہ بولا کہ

جب رسول اللہ صلعم نے وفات پائی۔ تمہارے باپ
حضرت عباس موجود تھے۔ مگر وہ نہ خلافت کے لیے
تامزد کئے گئے اور نہ کسی نے بیعت ان کے ہاتھ
پر کی۔ پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے وقت وہ
زندہ تھے مگر خلافت حضرت عمر کو ملی۔ اس کے بعد
اصحاب شوریٰ میں آئی۔ پھر بھی تمام صحابہ نے

تمہارے خدا مجد کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھا تو تم
اپنے کو کیوں حقدار سمجھتے ہو؟

مقتضد نے ان باتوں سے خنفا ہو کر اس کو قتل کرادیا۔ رئیس
قراصلہ ذکر وید بن ہرود یہ کا بیٹا ابوالقاسم یحییٰ بن کلین امامت کی تبلیغ کر رہا تھا
اور اس نے اپنے امام کو امام جعفر کی اولاد بتایا اور کہا میرے تابع ایک
لاکھ آدمی ہیں جو ہر وقت تاجان دینے کو تیار ہیں۔ غرض کہ ۲۸۹ھ میں بنی
کلب نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس نے اپنے مریدوں کا نام فاطمین رکھا
غرض کہ عراق۔ بحرین شام میں ان کی چہرہ دستیاں بہت بڑھی ہوئی تھیں۔
اسی زمانہ میں فاطمی دعاۃ میں اور فرقہ میں اسماعیلی امامت کی تبلیغ
میں مشغول تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام اسلامی ممالک میں ایک ساتھ رامت
امامت بلند کیا جائے تاکہ بنی عباس سے مقابلہ نہ کر سکیں۔

ان کے حالات اپنے اپنے لوگیت کے تحت
غصقرا چکے ہیں۔ مقتضد کے وقائع کے ساتھ جو
تعلق ہے یہاں اس کا اظہار ہے۔ مقتضد نے

عمرو بن لیث صفاری
اور اسمعیل سامانی

عمرو کو زافع ابن ہرثمہ کے سر پیش کر کے حملہ میں اور دارالہنر کا علاقہ اس
کی خواہش پر دیا تو شکر یہ میں چالیس لاکھ درہم، بیس گھوڑے معہ رسن و ساز مطا
۱۱۵۰ء ادریس بن اسمعیل سامانی کے مقتضد کی خدمت میں بھیجے اور امیر محمد بشیر کو اس علاقہ
پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا اور دارالہنر پر اسمعیل قابض تھا آیدیں لب جیوں پر مقابلہ ہوا امیر محمد را گیا ہو

فوج نیشاپور چلی گئی۔ عمرو بن لوہہ اسمعیل سے مقابلہ کرنے آیا۔ بلخ میں مورچہ لگایا اسمعیل نے اسے گھیر لیا۔ تاب مقابلہ نہ لاکر راہ فرار اختیار کی۔ مگر راہ میں گرفتار ہوا اسمعیل نے معتضد کے پاس اس کو بچا دیا۔ معتضد نے اسے قید کر دیا اور اسمعیل کو اس کے تمام مقبوضات کا حاکم بنا کر خلعت سے نوازا۔

عمرو کے گرفتار ہونے سے طبرستان کے علویوں نے ہاتھ پیر نکاسے۔ ان کی نگاہ عرصہ سے خراسان پر تھی۔ محمد بن زید غلو می سے فوج کشی کر دی اسمعیل نے کہا بھینجا کہ میں نے تمہارے فائدان کا احترام کر کے جرجان چھوڑ رکھا تھا اب تم خراسان کا قصد نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اسمعیل نے محمد بن ہارون کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ باسب جرجان پر نہایت خونریز معرکہ رہا۔ محمد بن زید زخمی ہوئے اور ان کا لڑکا زید گرفتار ہوا۔ محمد زخمیوں کے صدمے سے انتقال کر گئے۔ اسمعیل نے زید کی بڑی خدمت کی احترام و عزت سے اپنے پاس رکھا۔

دولت صفاریہ اور زیدیہ دونوں اسمعیل سامانی کے زیر نگیں آ گئیں۔ اور ماوراء النہر سے لے کر طبرستان تک سامانی حکومت کے ڈنکے بج گئے۔

طرس کے بھری بیڑے کی تباہی | امیر محمد بن ابی اساج کو معتد کے زمانہ میں عروج ہوا اور آذربائیجان

کا حاکم مقرر ہوا۔ معتضد کے زمانہ میں خود سری کرنے لگا تو خلیفہ نے اس کو رام کرنے کے لیے آرمینیا کی حکومت اور خلعت عطا کیا۔ ابن ابی اساج نے

اظہار شکر گزاری میں قیمتی ہدایا پیش کیے مگر اس نے اپنے غلام وصیف کو آمادہ کیا کہ وہ سرحد کی ولایت کی درخواست اس کے حضور میں پیش کرے اس سازش میں اہل طرطوس شامل تھے وصیف نے ظاہرہ ابن الساج کا ساتھ چھوڑ کر بلطیہ چلا گیا۔ معتضد کو مخبروں سے تمام حالات معلوم ہو گئے وہ خود وصیف کی تادیب لے اٹھا۔ عین درہ پر وصیف گھر گیا اور گرفتار ہو کر معتضد کے حضور پیش ہوا۔ فوج کو امان دی گئی۔ طرطوس کے امرا گرفتار کئے گئے اور یہاں کے بحری بیڑے کو جس میں پانچ سو جہاز تھے جلا ڈالے گئے۔ اس فعل سے مسلمانوں کی بحری قوت رومیوں کے مقابلہ میں کمزور ہو گئی۔

معتضد نے خمارویہ بن طولون پر بہت زیادہ مزاحم خلیفہ معتضد اور خسر دانہ روار کھے۔ کیونکہ معتضد جب تخت نشین ہوا تو خمارویہ نے بیس خچر سولے سے لے ہوئے

طولون مصر کے تعلقاً دس خادم، دو صندوق زبور اور تیرہ اس سپہ سالار کی ساز و سامان وغیرہ نذرین خلافت پناہ کو پیش کئے تھے۔ معتضد نے اس کے صلہ میں مصر کی باقی ماندہ رقم میں سے کل دو لاکھ دینار لے کر تین لاکھ سالانہ پرفرات سے رقبہ تک کی حکومت کا سی سالہ قبائلیہ خمارویہ اور اس کے بڑے کے نام لکھدیا ۲۸۲ھ میں بارہ پارچے کا خلعت مالائے مروہ پر عطا کی اور ۲۸۲ھ میں خمارویہ نے مزید تقرب کے لیے اپنی بیٹی قطراندی کو علی بن معتضد کو بیاہنا چاہی معتضد نے خود اپنے ساتھ شادی منظور کی چنانچہ بڑی شان و شوکت سے یہ تقرب انجام پائی۔ خمارویہ نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا۔ اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی

اس کے لیے سونے کا تخت تھا جس کے ستون مرصع اور جالی دار طلائی قبہ تھا جس کے ہر حلقہ میں ایک انول موقی تھا۔ رخصتی کے وقت مصر سے بغداد تک ہر ہر منزل پر اپنے محل کے مشابہ ایک قصر تعمیر کر کے سارا سامان سے آراستہ تھا جہاں عروس روزانہ قیام کیا کرتی عروس کی سواری کے ساتھ اس کا چاشمہاب بن احمد بن طولون تھا۔ آغاز محرم ۲۸۲ھ میں بڑے شان سے بغداد میں داخل ہوئی۔ یہاں بھی شاہانہ استقبال کیا گیا۔ بغداد کو مثل عروس کے سجایا گیا تھا۔ شمار دیہ مصر اور شام کا والی اور طرسوس کا قلعدار تھا۔ رومی اس کی جلا شان اور رعیت سے سرحد میں قدم رکھتے گہراتے تھے۔ ۲۸۲ھ میں شمار دیہ کو اس کے غلام نے قتل کر دیا۔ اس کا لڑکا تخت نشین ہوا۔ لیکن چند ماہ بعد وہ بھی معزول کر دیا گیا۔ اس کا بھائی ہارون تخت نشین ہوا۔ خلیفہ نے طرسوس اس کے قیضہ سے نکال کر دوسرے والی کے سپرد کیا۔ پھر قسطنطنیہ اور عواہم کھیلے کر اس کی حکومت شام اور مصر تک محدود کر دی اور چار لاکھ ۵ ہزار دینار سالانہ خراج اس کے ذمہ کیا۔

رومیوں سے جنگیں | معتقد کی توجہ اندرونی اصلاح و تنظیم و شورشوں کے

انساد کی طرف زیادہ رہی۔ ۲۸۵ھ میں موافق کے

غلام راغب نے طرسوس سے بحری حملہ کیا۔ اور تیس جہاز رومیوں کے گرفتار کر کے جلا دیے اور تین ہزار رومی اس معرکے میں قتل ہوئے اس واقعہ کے انتقام میں انہوں نے ۲۸۶ھ میں پھر طرسوس پر حملہ کیا۔ یہاں کا حاکم گرفتار

طہ کتاب الولایة کنذی ص ۲۴۰

ہو گیا۔ ۲۸۸ھ میں حسن بن علی نے کئی زوی قلعہ فتح کئے اور بہت سے زوی گرفتار کئے اس کے انتقام میں رومیوں نے کیسوم پر برسی اور بگری دوسموں سے حملہ کر کے ہندو ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔

ولی عہد اپنے لڑکے علی مکتفی کو معتضد نے ولی عہد قرار دیا تھا۔

وفات معتضد نے ۲۱ ربیع الثانی ۲۸۹ھ مطابق ۹۰۲ء کو بصرہ ۳۴ سال وفات پائی ۹ سال ۹ ماہ ۳ دن فرائض خلافت انجام دیئے۔

اوصاف معتضد بڑے جاہ و جلال کا مالک اسلامیہ کا شہنشاہ تھا تاخرین خلفائے بنی عباس میں اس کو امتیازی درجہ حاصل تھا اس لئے دماغ اور حوصلہ و ہمت کا خلیفہ اس تحت حکومت پر ایک عرصہ بعد بیٹھا تھا۔ تہ سیرد سیاست کے ساتھ محاسن اخلاق سے بھی آراستہ و پیراستہ تھا۔ اس کا عمد عام فلاح و بہبود و امن و امان عدل و انصاف میں مشہور تھا۔ اس نے ہی خلافت عباسیہ کے بے روح جسم میں جان ڈال دی تھی۔ اس لیے اسے سفارح ثانی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

علامہ مسعودی لکھتا ہے۔

معتضد کے تحت خلافت پر قدم رکھتے ہی فتنہ و فساد

میں سکون پیدا ہو گیا۔ ملک کی حالت درست ہو گئی

لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چیزوں کا نرخ ارزاں

ہو گیا۔ شورش و ہیجان میں سکون آ گیا۔ مخالفین لے صلح

۱۵ ابن خلدون جلد ۳ ص ۳۵۴ ۱۶ مسلمانوں کا نظم مملکت ص ۶۷

کر لی وہ مظفر و منصور تھا۔ تمام امور ممالکت اس کے قابو میں آگئے۔ مشرقی و مغربی علاقے اس کے زیر فرمان ہو گئے۔

الفخری کا بیان ہے۔

مقصد عاقل، فہیم، فاضل اور خصائل حمیدہ سے آراستہ تھا۔ اس کی تحت نشینی کے وقت سلطنت ویران ہو رہی تھی۔ سرحدیں بے کار ہو چکیں تھیں اس نے بڑی خوبی سے اس کی اصلاح کی۔ اس کے عہد انتظام سے اس کی سلطنت آباد ہو گئی۔ آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ سرحدیں مضبوط ہو گئیں۔ وہ سیاست میں نہایت مضبوط اور فتنہ پرستوں کے لیے نہایت سخت تھا۔ رعایا کے مال و متاع میں فوجوں کی دست درازی اور اینارسانی کا خاتمہ کر دیا۔ اپنے ابن عم آل ابی طالب کا محسن تھا۔ اس کے زمانہ میں شورشیں و لڑائیاں بھی ہوئیں۔ عمرو بن لیث الصفاری نے بڑی عظمت و قوت حاصل کر لی تھی اور عجم کے بڑے حصہ پر چھا گیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا۔ اگر میں چاہوں تو دریائے بلخ پر سونے کا پل بنا دوں۔ اس کا باورچی خانہ چھ سو

ادنیوں پر چلتا تھا۔ لیکن معتضد کے اقبال سے بڑی ذلت و خواری کے ساتھ
 قید ہوا۔ اور معتضد نے دولت عباسیہ کے منتشر شیرازہ کو پھر سے متحد کر دیا اور عیال
 میں عدل و انصاف قائم کیا اور مرتے وقت بڑی دولت خزانہ میں چھوڑ گیا۔

سیاست | معتضد تدبیر و سیاست میں اپنے عہد کے حکمرانوں میں بہت
 فائق تھا اور دولت عباسیہ سے کٹ کر دولت صفاریہ اور دولت

سامانیہ بنی۔ مگر معتضد نے عمرو بن لیث صفاری اور اسمعیل سامانی کو اپنی جن
 تدبیر سے بھڑا دیا۔ چنانچہ سفاری حکومت ختم ہو گئی۔ سامانی حکومت اس
 قدر کمزور ہو گئی کہ کچھ عرصہ بعد اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

ترک امرارحہ کے ہاتھ میں خلافت کی باگ تھی ان کی طاقت کو
 توڑ کر رکھ دیا۔ کسی ترک امیر کو مجال نہ تھی کہ معتضد کے مقابل آتا یا خود سر ہر
 کرتا۔

انتظام مملکت | تمام دفاتر سرکاری کی دیکھ بھال خود معتضد نے کی۔ پہلے
 خلفاء کے زمانہ میں حکومت کی آمدنی بہت گھٹ گئی تھی

حتیٰ کہ تنخواہیں وقت پر نہ مل سکتی تھیں۔ معتضد نے اپنے حسن انتظام سے اس
 میں معقول اضافہ کیا اور اس کے زمانہ میں حکومت کا میزانیہ اتنا بہتر ہو گیا کہ
 حکومت کے مصارف کے بعد خزانہ میں بڑی رقم سالانہ بچ جا یا کرتی تھی۔

یومیہ خرچ | معتضد فضول خرچ نہ تھا۔ مگر ضروری اخراجات میں کمی نہ کرتا تھا
 سات ہزار اشرفی روزانہ کا خرچ تھا۔ صافی کی کتاب لوزن

میں ان اخراجات کا گوشوارہ موجود ہے۔

معتقد نے دیوان موارثت کو ختم کیا اور حکم دیا کہ موارثت کا جو
تعمیر و قصر ترک نہ کیے وہ ذی الارحام کو ملا کرے۔ ایک قصر اپنے

تعمیر کرایا۔ اس میں ۴ لاکھ اثرفیاں صرف کیں

۲۸۱ھ میں معتقد نے مکہ شریف میں دارالاندوہ گرا کر مسجد حرام کے

پاس ایک مسجد بنا دی۔

۲۸۲ھ میں معتقد نے نوروز کے دن عید منانے
مشرکانہ رسوم کی بندش آگ جلانے اور آگ پر پانی چھڑکنے سے منع کیا

کیونکہ یہ فعل مجوسیوں کا تھا۔

معتقد میں جہاں اوصاف جہاننابی کے تھے وہاں وہ اپنے
مذہب کا بڑا پابند تھا۔ فسق و فجور سے اس کا دامن کبھی آلودہ

مذہبیت

نہیں ہوا تھا۔

قاعنی اعمیس کہتے ہیں کہ ایک روز میں معتقد کے پاس گیا تو دیکھا کہ
اس کے پیچھے کئی رومی مرد نہایت خوبصورت کھڑے ہوئے تھے میں ان
کو دیکھ کر خاموش رہا۔ جب میں چلنے لگا تو مجھے معتقد نے کہا کہ آپ مجھ سے
برگمان نہ ہوں۔ خدا کی قسم میں نے کبھی حرام پر اپنا اتار بند نہیں کھولا۔
اصلاح بغداد میں مختلف الدقیقہ لوگ آباد تھے۔ عجمیوں اور یہودیوں

۵ تاریخ الخلفاء ۲۵۸ ۵ مروج الذہب جلد ۱ ص ۱۱۶ ۵ تاریخ الخلفاء

ص ۲۵۸ ۵ تاریخ الخلفاء ص ۲۵۸

کے یہاں کی خرافات اور رسوم مروج تھیں۔ مخم اور قصہ خوانی سربراہ بننے کے
 گمراہی کا دروازہ کھولے ہوئے تھے۔ معتقد نے ان کو شوارع عام پر بیٹھے
 کی ممانعت کر دی۔

سب سے بڑی خرابی اس زمانہ میں فلسفہ یونانی کی وجہ سے پیدا ہو گئی
 تھی۔ کم علموں کے عقائد و خیالات بہت بگڑ گئے تھے تو کتب فروشوں کو
 فلسفہ کی کتابوں کی اشاعت ممنوع قرار دیدی تھی۔ مگر اہل علم کے لیے
 ان کا پڑھنا منع نہ تھا۔

وسعت سلطنت

معتقد تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے پیشروں کے تغافل
 سے صفاریہ، سامانیہ، طولونیہ کی حکومتیں قائم ہو چکی
 تھیں۔ دولت عباسیہ صرف جزیرۃ العرب۔ بلاد جزیرۃ النہرین۔ عرب، عراق
 عجم، آذربائیجان، ارمینیا اور داقالیم جو بحر جرجان اور بحر مند کے کنارے
 ہیں۔ مگر طولونیوں کو اطاعت گزار کیا جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ صفاریہ کا خاتمہ
 ہوا اور سامانیہ کمزور ہو گئے۔ ان کے بہت سے علاقہ قلمرو عباسیہ میں لوٹ آئے

زراعت کی ترقی

چنانچہ معتقد کی توجہ زراعت کی طرف بہت تھی وہ
 ملک کو خوشحال دیکھتا چاہتا تھا چنانچہ دجلہ کی ایک
 نہر ڈبیل تھی جس کا زمانہ مدت ہائے دراز سے بند تھا۔ اس کے اطراف کی زمین
 پانی نہ ملنے سے بخر ہو گئی تھی۔ معتقد نے اس نہر کو درست کر دیا جس کے ذریعے
 بڑا علاقہ سیراب ہونے لگا۔

۲۵۸ھ تاریخ عرب موسیو سید یوسف ۲۰۲

ترقی تجارت | معتقد نے تجارت کو بہت کچھ مراعات دے رکھی تھیں تجارت کے قافلہ دارانہ خلاف سے جانے۔ حکومت کی طرف سے ان کی حفاظت

کا انتظام گذرگاہوں پر تھا۔ اس کے عہد میں ڈاک کا معقول انتظام تھا۔
علمی ترقی | معتقد کا عہد انتظام ملک کے بعد علمی ترقی میں بھی پیش پیش ہے اس نے سامرا کے بجائے پھر بغداد کو دارالخلافہ بنایا۔ یہاں پہلے سے اہل علم جمع تھے دوبارہ دارالحکومت ہونے سے علمی چہل پہل میں اور اضافہ ہوا معتقد کو علم سے دلی لگاؤ تھا۔ اور اس نے اس کی ترقی کے لیے سعی بیخ کی پہلے چہل دارالعلوم قائم کیا۔

دارالعلوم | یہ پہلا خلیفہ ہے جس کے دل میں جدید صورت میں دارالعلوم کا خیال آیا۔ اور اس نے اس کا نقش اول قائم کیا۔

علامہ مقررینہ می کا بیان ہے۔

جب خلیفہ معتقد باللہ نے بغداد میں شامیہ کا محل بنوانا چاہا تو ضرورت سے زاید زمین لی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس زمین میں مکانات، حجرے اور خاص کمرے بنواؤں گا ان میں مختلف صنعت اور علمی علوم کے ماہرین رہیں گے جن کی زندگی کی شاندار کفالت، اس کے دار سے سے کی جائے گی تاکہ جو شخص جس علم و فن کی تعلیم حاصل کرنا چاہے اس کے ماہرین سے استفادہ کر سکے۔

یہ مدرسہ ایسا تھا جہاں صنعتی اور علوم عقلیہ و علمیہ کے اکتشافات کے لیے مشاہیرہ پر اساتذہ فن جمع کئے گئے تھے اور ہر فن کے لیے الگ الگ مکان تھے جن میں دارالاقامہ اور کمرے کا انتظام تھا اور تحقیق علم اور کسی خاص فن سے شغف رکھنے والے طلبہ کو یہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور کے رجحان کے مطابق اس دور میں صنایع اور عقلیات کا عنصر غالب تھا۔

معتقد کے عہد میں علمی چہل پہل بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی نظر آتی ہے کیوں کہ عربوں کا بڑا حصہ جو عجمیوں کے اقتدار کی بدولت کشور کشانی سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کی توجہ زیادہ تر علم و فن کی طرف ہوتی چنانچہ اس فاتح قوم نے میدان علمی میں بھی اپنی فطری استعداد اور غیر معمولی بیداری کا ثبوت دیا۔ علم کی سرپرستی دولت بنی عباس کا عام شیوہ رہا۔ لیکن عربوں کی ترقی کا مدار محض دولت پر نہ تھا بلکہ زیادہ تر ان پرستان علم کی ذاتی جدوجہد پر تھا جو بجز فضل و کمال اور علم و دانش کے کسی دوسری چیز کے سامنے اپنی پشت خم کرنا علم و فضل کی توہین تصور کرتے تھے اس کے نیازی اور استغناء کا نتیجہ تھا کہ حکومت و دولت کی گردن اکثر ان کے در پہ جھکتی تھی اور یہ سب اس علمی روح کی بدولت تھا جس کی اشاعت مذہبی اشاعت میں مضمر تھی چنانچہ محدثین کا طبقہ تھا جس میں سے اکثر کے حالات پہلے بیان کئے گئے ہیں۔ انھوں نے حکومت کا تو سل عار سمجھا بڑے سے بڑے جلیل القدر خلفائے بنی عباس نے ان کے سامنے ڈالنے سے ادب طے کیا

غرضکہ معتضد کے عہد میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بہت بڑھ گیا تھا۔

فن بیٹاری | معتضد کے عہد کے علماء کے علاوہ دوسرے صیغوں کے ملازم تک تصنیف کا شوق رکھتے تھے چنانچہ اس کا داروغہ اصطلیل یعقوب بن امی حزام نے فن بیٹاری پر الفروسیہ و منہیات النخیل لکھی جو اپنی نوعیت کی لاجواب کتاب ہے۔

علوم عقلیہ | معتضد کو علوم عقلیہ میں دلچسپی صرف ہیبت سے تھی اس کے عہد میں اسحاق بن حنین فلسفی تھا جو علم نجوم کا بڑا ماہر تھا۔ معتضد نے تقویم کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور اس کو ٹھیک کرایا۔ ابو ریحان بیرونی لکھتا ہے۔

معتضد کے عہد میں بہت تحقیق اور تدقیق سے یہ تقویم تیار ہوئی جو تقویم معتضدی کے نام سے مشہور ہے۔

علماء کی قدردانی | معتضد باللہ کے دربار میں جہاں تمام وزراء، اصرار و دست بستہ کھڑے رہتے تھے صرف وزیر اعظم اور حکیم ثابت بن قرہ صابی کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ معتضد ثابت کی اس کے علم و فضل کے اعتبار سے بڑی قدر و منزلت کرتا تھا۔ ایک دن باغ میں معتضد پہل قدمی کر رہا تھا۔ ثابت ہمراہ تھا۔ معتضد ثابت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ دفعتاً معتضد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ثابت ڈرا۔ معتضد نے کہا۔ ڈرو نہیں میرا ہاتھ اوپر تھا۔ میں اس کو سوکے ادب سمجھتا ہوں کہ میرا ہاتھ اہل علم کے

کے اوپر ہو۔

حق گو علماء معتقد کے عہد میں ظہار حق باٹھا کتے ہوئے باک نہیں کرتے تھے

ابو الحسن فوری دربار کی طرف سے گذرے خدام کشتی میں نمبیز کے منگے لے کے جا رہے تھے دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معتقد نے منگوائے ہیں۔ آپ نے تمام منگے توڑ دیے جب معتقد نے مسکرا کے پوچھا کہ تم کو محتسب کس نے مقرر کیا ہے تو فوراً جواب دیا کہ جس نے تجھے خلیفہ مقرر کیا معتقد نے منا اور سر جھکا لیا۔ باوجود یہ کہ فقہائے عراق نے بیعت کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔

حکما ر حکیم شان بن ثابت بن قرہ حرانی شان کی کنیت البر سعید ہے۔ یہ نامور فلسفی اور طبیب اپنے باپ کی طرح فاضل طبیب تھا۔ خلیفہ

معتقد باللہ عباسی نے اپنے دربار کا خاص طبیب بنایا تھا۔ رئیس الاطباء کہلاتا تھا پھر قاہرہ باللہ کی خدمت میں باریاب ہو کر اس کا طبیب خاص ہو گیا اس کے فضل و کماں نے قاہرہ کو گرویدہ کر لیا تھا وہ ہر ملکی معاملہ میں شان سے ہی مشورہ لیا کرتا۔ یہ پہلے صابئی مذہب کا پیرو تھا۔ مگر علیکے اسلام کی صحبت سے داخل اسلام ہو گیا۔ پھر قاہرہ سے کسی وجہ سے چٹخ گئی۔ محضی طور سے خراسان چلا گیا۔ مگر گوارہ علوم و فنون اور سر چشمہ حکمت و معارف بغداد کی زندگی کی ہوک اٹھتی تھی وہاں حی نہ لگا۔ بغداد چلا آیا۔ راضی باللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد الحکم کے پاس رہا اور اس کے اخلاق کی اصلاح

کی۔ اس نئے واسطے میں ایک مہمان خانہ بنوایا۔ الحکم اس کی عزت و تکریم بحید کرتا تھا۔ ۱۳۳ھ میں وفات پائی۔ عثمان نے ۳۰۵ھ میں خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایک ایسا بیمارستان بنایا جائے جو خلیفہ کے نام سے منسوب ہو چنانچہ خلیفہ نے اس کے بنانے کا حکم دے دیا یہ نہایت عظیم الشان اسپتال باب الشام میں تیار ہوا۔ اس کا نام بیمارستان المعتضد رکھا گیا۔ خلیفہ حبیب خاص کے دوسو اشرفیاں ماہانہ خرچ کے لئے دیا کرتا تھا۔ ۳۳۰ھ میں عثمان نے بیمارستان سیدہ کا افتتاح کیا جو سوق کھچی میں تھا۔ خود عثمان اس کا مہتمم بنا اور نامور اطباء کو اس میں مقرر کیا۔ اس کا خرچہ چھ سو اشرفی تھا۔ یوسف بن یحییٰ منجم کے ذمہ انتظام صرفہ کا تھا۔

امراء و وزراء اس کی بڑی قدر کرتے تھے وزیر علی بن عیسیٰ بن جراح کہہ کر سفری شفا خانے قائم کر لئے۔

احمد بن الطیب نخری یعقوب کا شاگرد تھا۔ علوم فلسفہ کا ماہر تھا منطق و موسیقی میں اس کی عظیم الشان تصانیف ہیں۔ ایک عرصہ تک خلیفہ معتضد کا مصاحب و مدیم رہا۔ ۳۸۶ھ میں قتل ہوا۔ الفہرست صفحہ ۲۶۱، قفطی ۱۷۸ طبقات الاطباء ۱۲ صفحہ ۳۰۹

ابن فقیہ۔ ابو بکر احمد بن محمد الہدیٰ معروف ابن فقیہ الہندی نے ۳۹۹ھ میں کتاب البلدان لکھی۔

النیریزی فننل بن حاتم علم ہندسہ، ہیئت اور حرکات نجوم کے علمائے متقدمین میں سے سا تھا۔ شرح جسطی شرح اقلیدس۔ ذریعہ کبیر یادگار سے

ہیں۔ قفلی ص ۱۶۸ میں اس کی تصانیف کا ذکر ہے۔ اس نے اپنی تصنیف
کتاب احداث ابو خلیفہ معتقد نے یہ لکھی تھی۔ تیسری صدی کے بعد فوت ہوا
رطبقات الامم صفحہ ۹۶)

محمد بن و فقہا | محمد بن سلمہ بلخی فقیہ کامل شداد بن حکیم و جوزجانی سے اور بغداد
میں محمد شجاع بلخی سے فقہ پڑھی اور ان سے ابو بکر اسکان
نے حاصل کی۔ ۲۷۸ھ میں انتقال ہوا۔

سلیمان بن شعیب از اصحاب امام محمد فقیہ، ان سے طحاوی نے روایت
کی ۲۷۸ھ میں فوت ہوئے۔

احمد بن ابی عمران شیخ الطحاوی فقیہ محدث، فقہ ابن سمانہ و بشیر بن الولید
اور حدیث علی بن عاصم و شعیب بن سلیمان سے ابن یونس نے تاریخ میں روایت
کی ۲۷۸ھ میں انتقال ہوا۔

عبد الحمید بن عبد الحریز قاضی القضاة بغداد۔ فقیہ۔ ثقہ، متقی، ۲۹۰ھ
میں فوت ہوئے۔

ابو حنیفہ بن داؤد بن وندالاہ پوزی مختلف علوم و فنون میں مہارت
رکھتے تھے۔ ایک کتاب علم نباتات پر لکھی جس سے ان کی بڑی شہرت ہو
۲۸۲ھ میں انتقال ہوا۔

خلیفہ مکتنی باللہ عباسی

نام و نسب ابو محمد کنیت علی بن احمد معتضد نام اور مکتنی باللہ لقب تھا
سلطنت میں پیدا ہوا۔ ماں ام ولد تھی جین لقب تھا۔ لوگ اس کو خاضع
کہتے تھے۔

خلافت معتضد کی وفات ہوتے ہی اس کی بیعت لی گئی۔ جب وہ مسند
آرائے حکومت ہوا تو اس نے امور سلطنت کو مثل باپ کے
بکھرا ہوا پایادہ بکثرت ریشہ دو اینوں اور اطراف ملک کی ہنگامہ آرائیوں میں
مبتلا ہو گیا۔ مگر اس کے پاس مال و زر وافر تھا اور فوج بہت کافی تھی۔ اس
لیے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گیا۔ باپ کے نقش قدم پر
چلا اور اسی کی روش پر گامزن ہوا۔ اس کو تہ بہادر کہا جاسکتا تھا اور نہ بزدلی
کا الزام اس پر رکھا جاسکتا تھا۔

وزارت وزارت کے عہد سے پر قاسم بن عبید اللہ کو جس طرح معتضد
کے زمانہ میں تھا قائم رکھا۔ پھر عباس بن جن کو وزارت دی
ہے وقت اس کا باپ حسن بن ایوب بن سلیمان زندہ تھا۔
اس نے اپنی انگشتری میں اپنے باپ معتضد کی انگشتری کی طرح احمد
علی اللہ می بیس کشاہہ شی و ہو خالق کل شیء نقش کندہ کیا۔

منصب قضا پر یوسف بن یعقوب اور اس کے بیٹے محمد بن یوسف اور ابو
قضاة حازم کو مقرر کیا۔ پھر آخر لاکر کی جگہ عبداللہ بن علی بن ابی الشوارب
 اموی کو مقرر کیا

حجابت حجابت کے عہد پر خلیفہ سمرقند می اور اپنے مولیٰ سوسن کو رکھا۔

خروج قرامنہ اکتفی کے عہد میں قابل ذکر اہم واقعات میں قرامنہ کی بغاوت ہو
 قرمطی شام چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی ابوالقاسم کنیت بتائی
 اور آل ابی طالب کی طرف اپنے تئیں منسوب کرتا تھا۔ حالانکہ قبائل بنو کلب
 میں کوئی شخص آل ابی طالب میں داخل نہیں ہیں۔ اس کے حالات مختصر معضد
 کے عہد میں بیان کئے گئے ہیں تفصیلی یہاں لکھے جاتے ہیں۔

قرمطی ۲۸۹ھ میں ہمدان کو اپنے تصرف میں لایا اور یہاں سے رقبہ
 کی جانب جو بلاد مصر میں داخل تھا بڑھا سبک دلی سے جو اس علاوہ کا عامل
 تھا اس کی بڑھتی ہوئی۔ اس نے دلی اور اس کی افواج کے پرچے اڑاتے
 ہوئے نواح دمشق کا رخ کیا۔ اس وقت ابن طولون کے خاندان میں مصر اور
 شام کی حکومت تھی اور ہارون بن خارویہ ابن احمد بن طولون کی طرف سے طنجین
 حبش فرغانی دمشق، حمص اور ہارون کا حاکم تھا۔ اس نے وادی قیروان اور
 رفاعی کے مقامات میں جو دمشق کے ماتحت تھے۔ اختتام رجب ۳۸۹ھ میں
 قرمطی سے مقابلہ کیا مگر اس نے طنج کو بھی شکست دی۔ اس کی جماعت کی
 بڑی تعداد کو تہ تیغ کیا اور تین ماہ میں روز تک دمشق کو محاصرہ میں رکھا
 اس درمیان میں اکثر خوزیر لڑائیاں ہو جاتی تھیں۔ مگر فتح و شکست کا نتیجہ کسی

طرت ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران میں لوگ دمشق کے اطراف و جوانب غوطہ اور دوسرے مقامات سے آ کر قرمطی جماعت میں شریک ہوتے رہے اور اس کے قوت بازو میں گئے تھے مصری فوج نے بھی اس سے ساز باز کر لیا جب طنج کی فوج مقابلے کے لیے حریف کے سامنے آئی تو کونار اور کوبک کے مشہور مقامات میں جو دمشق سے ایک دن کے فاصلہ پر تھے۔ غرہ رجب سال رداں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ قرمطی مارا گیا۔ اور مصریوں کو بھی شکست ہوئی۔ جماعت قرامطہ نے قرمطی کے بھائی ابوالحسن کے ہاتھ پر بیعت کر کے از سر نو دمشق کا مظاہرہ کیا اور شب و روز اہل دمشق کے ساتھ سرگرم پیکار رہنے لگے۔ دمشق کے حاکم نے شہر کو قرامطہ کے حوالے کیا اور رعایا کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ قرمطی نے بھی اسی سال روز یکشنبہ ۱۳۔ رجب کو دباں سے کوچ کیا اور تمھیں پہنچ کر خمیہ زن ہوا۔ یہاں سے اپنی جمعیتوں کو شہر حلب کی طرف جو دمشق کے ماتحت تھا روانہ کیا ان لوگوں نے دباں پہنچ کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

یہ خیر منکر کتنی اپنی افواج کو لیے مدینۃ السلام سے نکلا اور ابوالاعز حنیفہ بن مبارک بن حنیفہ سلمیٰ کو مقدمتہ ابلیش بنا کر روانہ کیا وہ یہاں سے چل کر شہر حلب کے سوا میں پہنچا۔ قرمطی نے ایک دستہ فوج کا اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ابوالاعز کی فوج قرمطی سے زیادہ تھی یہ واقعہ ۲۰۔ رمضان سنہ رداں میں پیش آیا۔

جب جنگ چھڑی تو کتنی کی افواج نے کشتوں کے پشے لگائے اور

بیشمار قرامط کو گرفتار کیا اور جو بچ رہے تھے ان میں باہم پھوٹ پڑ چکی تھی تر مصلیٰ نے اپنے رفقاء کو چھوڑ دیا اور روپوش ہو کر کوفہ کی راہ لی۔ واسیہ جو دلابت رجب اور سعفی الغزلیت کے ماتحت تھا۔ اس کے والی نے تر مصلیٰ کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تر مصلیٰ کے رفقاء میں صرف چار یا پانچ آدمی ساتھ رہ گئے تھے وہ کنتفی کے پاس رہ رہے بھیجا گیا اور روز ووشنبہ ۲۲ محرم سنہ ۱۰۱۱ میں اس کے سامنے پیش کیا گیا۔

اسی سال روز ووشنبہ ۱۰۱۱ میں ربيع الاول کو کنتفی لباس فاخرہ میں آراستہ ہو کر باجاہ و حبال قرامطی اور اس کے اسیر رفقاء کو ساتھ لئے ہوئے مدینہ اسلام بغداد میں داخل ہوا۔ کچھ روز کے بعد محمد بن سلیمان بن بقیہ افواج اور قرامطہ مصر کے ساتھ جو شام میں ایک ایک کر کے گرفتار کئے گئے تھے آپہنچا۔

پرانی عید گاہ کے متصل اور مدینہ السلام سے مشرقی جانب ایک پرقضا ریتلا اور ہموار میدان خاص کرتیا رکھا گیا تھا ۲۲ ربيع الاول سنہ جاری میں قرامطی اور اس کے ساتھیوں کے خون سے میدان لالہ زار بنا یا گیا قرامطہ نے عام خلقت کو تباہ کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ اس لئے فتح و شادمانی کا یہ اہم واقعہ تھا عام و خاص لوگوں نے بے حد خوشیاں منائیں۔

قرامطہ ثانی نے شام میں طولونی افواج کے پرچے اڑا دیئے تھے اس وجہ سے محمد بن سلیمان کو مصر کی طرف بڑھنے اور فتح کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آیا روز پنجشنبہ ۱۰۱۱ میں وہاں پہنچا اس نے آل طولونی کی رہی رہی قوتوں کو مٹا دیا اور ان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس حکومت کا

خاتمہ کر دیا۔ آل طولون کی کل ۴ سال ۵ ماہ اور سات دن تک حکومت رہی۔
 ۳۹۳ھ میں بنو کلب میں ایک اور قمر مطیٰ حبس کی کنیت ابو خاتم تھی
 شام کے نواح میں نمودار ہوا۔ اس کی تحریک نے زور پکڑا اور روز بروز اس کے
 پیرو بڑھنے لگے اور اذرعات بصری حوراں اور شینہ کے اطراف میں جو
 دمشق کے ماتحت علاقے تھے پھیل گئے۔ یہ لوگ یہاں کے باشندوں کو
 لوٹے، خون ریزی اور قید کرتے ہوئے طبریہ کی طرف جو بلاد اردن میں
 واقع تھا چلے گئے اور اس شہر میں بزرگ داخل ہو کر کبکرت افواج رعایا اور
 یہاں کے سردار جعفر بن ناکم کو تہ تیغ کر دیا۔

یہ منکر خلیفہ نے حسین بن ہمدان تغلبی کو اس کے مقابلہ پر بھیجا۔ ایک
 مشہور مقام خندق پر جو دمشق کے ماتحت تھا۔ اس کا قرا مطے سے مقابلہ ہوا
 دونوں میں خوب معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ ایک دوسرے پر فتح پانے کی
 کوششیں کرتے رہے۔ آخر حسین اپنے حریفوں پر غالب آیا اور ان کو
 کھلے میدان میں شکست دی۔ یہ واقعہ اسی سال شعبان کا ہے جس کی طرف
 بنو کلب کے ایک شاعر نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لولا حسین یوم درومی خندق

وخیلہ در جہلم نشفت

ففس امیر المؤمنین المکتفی

اگر خندق کے معرکہ میں سوار اور پیدل فوجوں کو لے کر حسین مقابلہ نہ
 کرتا تو امیر المؤمنین مکتفی کی روح کو تسکین نہ ہوتی۔

یہ نظم طویل ہے کہنے والے نے اس واقعہ کے ہیرو معرکے کے تمام حالات اور شام میں قرامطہ کے کارناموں کو مفصل بیان کیا ہے۔

قرمطی ہزیمت اٹھا کر بیت چلا گیا اور وہاں کے باشندوں کو قتل کر کے شہر میں آگ لگا دی۔ پھر وہاں سے ناصیۃ البحر کی طرف روانہ ہوا کئی نے چند سپہ سالاروں کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ جن میں محمد بن اسحق بن کندا جلیق اور مونس رجازن ملقب بہ فحل بھی تھے۔ شاہی افواج نے باغیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ حالت دیکھ کر بنو کلب میں تشویش پیدا ہو گئی اور ان کو اپنی جانوں کے لئے پڑ گئے۔ آخر ان میں ایک آدمی اٹھا اور دھوکا دیکر قرمطی کو جان سے مار ڈالا اور اسی رات کو فحل مٹی کے نیچے دبا کر سب کے سب غائب ہو گئے۔

بنو کلب کا ایک سردار جس کی کنیت ابو ذئب تھی قرمطی کے سردار اور دونوں پھیلیوں کو کاٹ کر محمد بن اسحق بن کندا جلیق کے پاس لایا جس نے ابو ذئب کو ان مخالفانہ کے ساتھ دربار شاہی میں بھیجا اور وہ سوال سنہ جاری میں دربار خلافت میں سرپیش ہوا۔

ذکر دیہ بن مہروبیہ کی بغاوت بنو کلب اور دوسرے قبائل میں ۲۹۳ھ میں شروع ہوئی تھی۔ ایک مشہور مقام صور عسک کا یہ رہنے والا تھا جو قادیسیہ سے براہ خشکی عرضاً چار میل کے فاصلہ پر واقع ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شخص جس قرمطی کا ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کا باپ تھا اس کی عمر ایک شام میں ظاہر ہوئی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مضافات میں

کو فہ میں تخریب قرامطہ کا بانی اور عبدان کی بغاوت سے پہلے تھا۔ پھر حال وہ اس سال ۱۰۱۷ء کو مصعبی کو فہ میں آیا۔ اس وقت کو فہ میں اسحق بن ابراہیم اور اسحق بن عمران حاکم تھے۔ رعایا اور شاہی ملازمین نے اس کا مقابلہ کیا۔ مگر اس نے انہیں شکست دے کر بہتوں کو قتل کر ڈالا۔ اسحق بن عمران نے دربار خلافت کو کمانگی خلیفہ نے راین معتضدی نیز بشلریشی اور عینی صفوانی و خادموں کی سرکردگی میں کو فہ فوج روانہ کی۔ حواری کے قریب پہنچ کر غنیم سے مقابلہ ہوا۔ مگر نتیجہ برعکس نکلا۔ دشمن نے فوج کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ آخری ذی الحجہ میں رونما ہوا۔

اس کے بعد قرمطی مکہ سے واپس آئے واپس آئے حاجیوں کے قافلوں کی کہیں گاہ میں جا بیٹھا۔ سب سے پہلے خراسانی قافلہ کو درقصہ کی منزل پر جا گھیرا۔ یہ قافلہ بہت بڑا تھا۔ اس کو لوٹ کر قافلہ کی دوسری منزل کی طرف بڑھا۔ اس کا نام عقبہ تھا۔ اس نے یہاں شاہی قافلہ پر چھاپہ مارا۔ مبارک قسمی اور ابوالعشا لڑا۔ احمد بن نصر عقبلی قافلہ سالار تھے۔ آخر الذکر شامی سردار کا حاکم تھا۔ قرمطی نے ان دونوں سردار۔ تمام امراء اور عوام کو قتل کیے۔ یہاں سے تیسرے شاہی قافلہ کی طرف جو ہبیر کے مشہور مقام طلیح میں پڑا ہوا تھا گیا اور اس کو بھی تاخت و تاراج کیا۔ یہ علاقہ رگستان میں ثعلبہ اور شقوق کے درمیان واقع ہے۔ قافلہ میں نفیس موسوی احمد بن سیمار نیز امراء و سالار قافلہ اور ہرٹاک اور ہر طبعے کے لوگ تھے۔ قافلہ کے پاس ہزار سے زیادہ آدمیوں کو اس نے قتل کیا اور اس سے پہلے دوسرے قافلوں میں

جس قدر خونریزیاں کی بھینس ان کے مقتولین کی تعداد اس کے علاوہ ہے
یہ خبر سنکر قادیان سے وصیف بن صوار تلہن خذرمی اور قاسم بن بہار اس
کی سرکوبی کے لیے بنی شیبان کی بڑی دل فوج لے کر روانہ ہوئے اس مہم
میں امراء بھی شریک ہو گئے تھے۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان روم ایک مشہور
جگہ پر جہاں قافلے پانی لینے کے لیے ٹھہرا کرتے تھے روز یکشنبہ ۲۴ ربیع
الاول ۲۹۵ھ میں طرفین کا مقابلہ ہوا۔ اور گھسان کی لڑائی ہوئی انجام
کار کرویہ کی جماعت نے ہزیمت اٹھائی اور تمام باغی بزد۔ گرفتار ہوئے
قرمطی بھی اسیر ہوا۔ گراسے کئی زخم کاری لگے۔ تھے وہ جانبر نہ ہو سکا دوسرے
روز اس نے دم توڑ دیا۔ اس کی نعش اونٹ پر باندھ کر مدینۃ الاسلام بھیج
دی گئی اور تمام قیدی اور مقتولین کے سر بھی روز دو شنبہ ۲۵ ربیع الاول
سنہ مذکور میں وہاں روانہ کئے گئے۔

اس کے بعد عراق میں یہ تحریک کمزور ہو گئی۔ مگر جنابلی بحرین میں موجود
تھا وہ مکتفی کے عہد میں خاموش رہا۔

۲۹۵ھ میں اسمعیل فوت ہوا۔ اس کا جانشین
اسمعیل بن احمد سامانی | احمد ہوا۔ مکتفی نے اس کیلئے سند ولایت بھیجی۔

شیبان بن احمد بن طولون کے مرتے ہی دولت طولون
دولت طولون | ختم ہو گئی شام و مصر مکتفی کے قبضہ میں آ گئے۔

دولت اعلیٰ | افریقہ میں ابو عبد اللہ حسن سیفی داعی فاطمین کا اقتدار بڑھ رہا

تھا۔ اس نے اس دولت پر اپنا تسلط جمایا جس کی وجہ سے یہ دولت ختم ہو گئی۔ ابو عبد اللہ حسن خضعی کے حالات جلد ہفتم میں تفصیل سے ہیں۔

روم | مکتفی کے آغاز عہد میں رومیوں سے تعلقات اچھے تھے اور دونوں طرف سے ہدیہ اور تحفہ آتے جاتے تھے۔ لیکن ۲۹۱ھ میں رومیوں نے پھر سرحد دولت بنی عباس کو لوٹا۔ اس وجہ سے عسکر اسلامی نے ان کا مقابلہ کیا جس میں پانچ ہزار رومی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت کچھ ہاتھ آیا۔

رومیوں کے ہاتھوں جو مسلمان پکڑے گئے تھے۔ ان کا زرفدیہ اور تبادلہ سے تین ہزار مسلمان ۲۹۳ھ میں مکتفی نے آزاد کرائے۔

وفات مکتفی | روز کیشنبہ ۱۳ رومی قعدہ ۲۹۵ھ بغداد میں انتقال کیا پ ۳۱ سال کی عمر میں ۶ سال اور ۱۹ روز اس نے حکومت کی۔

حلیہ | نجیف اُجسہ، گندمی رنگ، چھوٹی آنکھیں ڈاڑھی اور سر کے بال دراز اور خوبصورت تھے۔ چہرہ حسین اور پابند ازمناسب تھا۔

اوصاف | مکتفی کی خوش خانہ مشہور تھی۔ عدل و انصاف میں کسی خلیفہ سے پیچھے نہ تھا۔ اس کے والد نے دوسروں کے مکانات بحق حکومت

فبط کر کے نعمت خانہ بنوائے تھے ان کو گروا دیا اور ورثا کو نہیں دیا اور مساجد بنوائیں اور قصر میں جو مکانات آئے تھے۔ ان کے مالکوں کو وہ مکانات دے دیئے۔ اس عمل سے اہل بغداد مکتفی کے گرویدہ ہو گئے اور رعایا میں دیتے

ابی دنیا نے دو شعر لکھ کر مکتفی کو بھیجے، اس میں ہزار و پچاس صدیہ میں عطا کیے۔

خشیت الہی | مکتفی نے اپنی بیماری میں کہا کہ مجھے ان سات سو دیناروں کا بڑا خطرہ لگا ہوا ہے جو اپنے خرچ میں لے آیا ہوں لانگہ

میں بھی طرح جانتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے اور مجھے اذن کی چنداں احتیاج بھی نہ تھی۔ اگر فردائے قیامت میں مجھ سے اذن کی پریشانی ہوئی تو میرے ساتھ بوسے گذرے گی۔ میں اپنی غلطی پر خدا سے مغفرت مانگتا ہوں

ہمعصر علی | عبداللہ بن محمد بن حنبل۔ ثعلب الام العربیہ، قنبل المقری ابو عبد اللہ بوسنجی فقیہ، ہزار صاحب مسند، ابو مسلم کنجی۔ قاضی ابو

حازم۔ صالح جزرہ۔ محمد بن بصر المرزسی۔ ابو حسین نوری شیخ صوفیہ۔ ابو جعفر ترمذی شیخ شافعیہ عراقی۔

فلسفی | اسحاق بن جنین مشاہیر حکماء میں سے تھا۔ خلیفہ مکتفی نے اس کو وزارت پر ممتاز بھی کیا۔ اس کو نجوم میں کمال حاصل تھا۔ ایک بار مکتفی نے

کہا۔ ایسا طالع اختیار کر کہ میرا بیٹا ولی عہد ہو۔ اس نے کہا علم کی رو سے ظاہر ہے کہ تیرا بھائی ولی عہد ہوگا۔ ۲۹۸ھ میں انتقال ہوا۔

فقیہ | محمد بن مقاتل رازی، اصحاب امام محمد میں سے تھے۔ فقہ و محدث فقیہ تھے۔ علی الرازی عالم عارف، زاہد۔ محمد حسن بن زیاد سے تھے کتاب الصلوٰۃ مشہور تصنیف ہے۔

خلیفہ مقتدر باللہ

نام و لقب | ابو افضل کنیت جعفر بن احمد معتضد نام اور مقتدر لقب تھا
 بعض کا خیال ہے کہ اصلی نام اسحاق ہے وہ متوکل کے
 ہم شکل تھا۔ اس لیے اس کا نام بھی جعفر ہو گیا۔ اس کی ماں ام ولد بھی روم
 کی باشندہ اور شغب نام تھا۔

خلافت | ۲۸۲ھ میں پیدا ہوا۔ تعلیم و تربیت شاپانہ طور و طریق سے
 ہوئی روز یکشنبہ ۳۰۰ھ ارزی القعدہ ۲۹۵ھ میں بیعت لی گئی۔
قضیہ | ابو افضل کی خلافت کو چار مہینے گزرے تھے کہ ارکان سلطنت
 اور سپہ سالاروں کی ایک جماعت نے جس میں حسین بن حمدان بن حمدون لغابی
 و صیف بن صوار یگین، خزرمی، محمد بن داؤد بن جراح اور علی بن عیسیٰ سمرانی
 لشکر اور ممتاز اہل دفتر تھے۔ مقتدر کو معزول کر کے عبدالعزیز کی
 بیعت لی۔ اس سلسلہ میں حسین ابن حمدان، عباس بن حسن کے ہاتھ سے مارا
 گیا اور فاتک معتضدی بھی جو ابن حمدان کی مدد کو آیا تھا مقتول ہوا۔

ابن المعتز | عام لوگ مقتدر کو معزول سمجھ کر ۵ اریح الاول روز شنبہ
 ۲۹۷ھ کو ابن المعتز کی بیعت کرنے لگے۔ ایک رات دن
 اسی طرح حالت گذری۔ تاہم مقتدر دار الخلافہ سے نہ جدا کیا گیا اور نہ تخت

خلافت سے اتارا گیا۔ چند خاص شاہی علاموں نے ابن المعتز کی جماعت کے مقابلہ کیا اور لڑکر انھیں اٹے پاؤں پر اگندہ بھانگے پر مجبور کیا اس سہنگامہ میں بہت سے لوگ کام آئے۔ ابن المعتز گرفتار ہو کر قتل ہوا جس سے مقتدر کے لیے مطلع صاف ہو گیا۔

وزارت | مقتدر نے عباس بن حسین کو جس طرح کتفی کے عہد میں وزارت کے عہدہ پر تھا قائم رکھا۔ مگر جب عباس مارا گیا تو حسب ذیل لوگوں کی طرف بہ ترتیب ذیل وزارت منتقل ہوئی۔

علی بن محمد بن موسیٰ بن فرات، محمد بن عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان

ابن علی بن محمد بن فرات کا خاندان علاقہ وحیل کا تھا۔ ذی علم اور عدل و انصاف کا خوگر تھا۔ برکی کی طرح فیاض اور فاضل، تدبیر سیاست میں ممتاز، تین مرتبہ وزیر بنا۔ قرامطہ کی حمایت میں قتل ہوا۔

علی بن عیسیٰ ایوان و عدل و انصاف سے کام لیا کرتا۔ شراب فروشی اور شراب نوشی کے خلاف احکام جاری کئے۔ پانچ لاکھ دینار خراج ایک سال کا رعایا کو معاف کر دیا۔ سخی۔ فیاض۔ اہل علم کا قدروان، خود فاضل جلیل تھا۔

عباسی تاریخ میں اس سے زیادہ متقی اور دیندار وزیر نہ گذرا تھا۔ حافظ قرآن، حدیث میں بھی درکن حساب کا ماہر، صدقات و خیرات میں ہزاروں روپے صرف کرتا تھا۔ اس نے کار خیر کے لیے اوقاف کے دیوان البر کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا۔ رعایا

ابن اثیر جلد ۴ ص ۴۸۰ تاریخ الخلفاء ص ۲۶۴

انقلاب بدوق صدرہ، علی بن عیسیٰ بن واؤد بن جراح۔ علی بن محمد بن فرات
دو بارہ وزیر بنا یا گیا (عابد بن عباس۔ علی بن محمد بن فرات) (سہ بارہ وزیر
بنا یا گیا) عبداللہ بن محمد بن عبداللہ خاقانی۔

عبداللہ کو وزارت اُس وقت ملی تھی جب اُس کا باپ محمد بن
عبداللہ زندہ تھا۔ مگر بیٹے کو عہدہ وزارت پر فائز ہوئے بارہ روز گئے
کہ باپ کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات روزِ دوشنبہ وقتِ عصر ۲۲ ربیع الاول
کو اور بقول بعض ۳۱۲ھ کے اوائل میں ہوئی۔ اس وقت تک عبداللہ
آخری شخص تھا کہ باپ کی زندگی میں وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا گیا۔

صفحہ ۱۳۶ کا بقیہ نوٹ) کی دادری کے لیے روزانہ صبح سے عصر تک امور وزارت انجام دینا
امورِ مملکت میں بڑا تجربہ کار تھا۔ انتظامی حیثیت سے اس کا دور وزارت کامیاب رہا۔ ۳۱۲ھ
میں مقتدر نے معزول کر دیا۔ اس کے بعد عابد بن عباس وزیر ہوا وہ شگدن اور نائل تھا
اس کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ کا دوبارہ تقرر ہوا۔ پھر یہ بھی معزول ہوا تو ابوالعباس احمد بن
عبداللہ بن احمد بن خصب کا تقرر مل گیا۔ ۳۱۲ھ میں یہ بھی ہٹا لایا گیا۔ ابن سکوت لکھتا
ہے یہ شرابی تھا۔ حکومت کا نظام بگاڑ گیا۔ ابن خصب کے بعد ابو علی محمد بن علی بن مقلہ
وزیر ہوا اس کے ممالک آگے آئے ہیں ۳۱۲ھ میں معزول کرنے کے فارس ممالک میں کر دیا گیا۔ اس کے
بعد ابوالقاسم سلمان بن حسن بن خالد وزیر بنا۔ اس سے بھی وزارت نہ سنبھلی عبداللہ بن محمد کلواز
کو یہ منصب ملا مگر یہ بھی ایبات کو سنبھال نہ سکا جب کہ آگے ذکر کیا جائے گا پھر حسین بن قاسم وزیر
ہوا اس کے بعد ابوالفضل جعفر بن فرات کو قلمدانِ وزارت سپرد ہوا۔ اس کے وقت میں مقتدر قتل ہوا۔

احمد بن عبید اللہ خصیبی۔ علی بن علی (دوبارہ وزیر بنایا گیا) ابو علی بن محمد بن علی بن
مقلہ، سلیمان بن حسن بن محمد بن جراح، علی بن علی کا ابن عم تھا، عبید اللہ بن
محمد کلو اذانی، حسین بن قاسم بن عبید اللہ بن سلیمان بن وہب۔ فضل بن جعفر
بن موسیٰ بن فرات،

مقتدر کی انگشتری میں المقتدر بابت کندہ تھا۔

قضاة | منصب قضا پر جن لوگوں کا تقرر عمل میں آیا ان کے نام یہ ہیں۔
محمد بن یوسف بن یعقوب۔ مشرقی سمت اور کرخ کے لیے مقرر کئے
گئے تھے۔ ترقی کر کے قضاة القضاة کا درجہ حاصل کیا۔ جب ان کی وفات
ہوئی ان کے صاحبزادہ عمر بن محمد بن یوسف کو یہ عہدہ عطا کیا گیا اور تقرر بھی
سمت مشرقی اور کرخ کے لیے عمل میں آیا۔ مدینۃ المنصور اور ماتحت علاقہ جات
کے لیے یہ لوگ بہ ترتیب ذیل مقرر کئے گئے۔

عبداللہ بن علی بن ابی السوار بن ان کے صاحبزادہ محمد بن عبداللہ
عمر بن حسن (اشبانی کے نام سے مشہور تھے) بعد کو ان کا عہدہ توڑ دیا گیا،
حسن ابن عبداللہ بن ابی السوار بن۔ عمر بن محمد بن یوسف۔

حجابت | حجابت کے عہدہ پر بہ ترتیب سون مولیٰ، نصر قشوری، یاقوت
اور رائق کے دو بیٹے ابراہیم اور محمد مقرر کئے گئے

فتنہ قرامطہ | مسعودی کا بیان ہے۔ اہم حوادث اور غیر معمولی واقعات جو
مقتدر کے عہد (۳۳۱ھ) میں رونما ہوئے۔ ان کی کوئی مثال
پیشتر اسلام میں نہیں ملتی۔ ابو ظاہر سلیمان بن حسن بن بہرام جنابی حاکم بحرین

۲۵ ربیع الاول ۳۱۱ھ کو چار سو سوار جن کی سواری میں چار سو گھوڑیاں
 تھیں اور پانچ سو آدمیوں کی پیدل پلٹن کے ساتھ احساہ راجہ میں واقع ہو
 سے چھ راتوں میں بصرہ پہنچا اور شب کے وقت شہر میں گھس کر سبکدوشی اور
 اس کے رفقاء اور رعایا میں جس کا اس سے سامنا ہوا قتل کر تا گیا۔ لوگ خوف
 سے بھاگ بھاگ کر ابلہ، مفتح، شطوط، انہار، جزائر اور دوسرے مقامات
 میں چلے گئے۔ شہر میں سترہ روز بغیر کہ جو کچھ مال سمیٹ سکے اور اس کو لے
 کر اپنے گھروں کو واپس آگئے۔ پھر حجاج کے قافلوں کو جو مکہ معظمہ سے واپس
 آ رہے تھے۔ ثعالبہ کے قریب بہیر کے نواح میں جا کر روکا۔ اس وقت یہ جماعت
 پانچ سو سوار اور چھ سو پیدل آدمیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے قافلہ کے سردار خواہا
 اور عوام کے خون سے زمین کو رنگین کر کے ابوالہیجا عبدالعزیز بن حمدان بن
 حمدون امیر قافلہ احمد بن محمد بن کثیر و نیز ممتاز حضرات اور ہر طبقہ کے
 بہت سے مرد اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ شمشیر اور تمام مال و اسباب جنگ
 کا شمار و اندازہ کسی طرح نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لوٹ لیا۔ یہ واقعہ یکشنبہ ۱۹
 محرم ۳۱۲ھ کا ہے۔

۳۱۳ھ میں ابوطاہر نے حجاج کے قافلوں کی جو جگہ کے لیے گھروں
 سے نکلے تھے ناکہ بندی کی۔ اس وقت بھی اس کی جماعت کی تعداد پانچ سو
 سوار اور چھ سو پیدل آدمیوں پر مشتمل تھی۔ قافلہ کے بعض آدمیوں پر اس
 کا داؤ چل گیا مگر باقی لوگ کوفہ اور مدینہ السلام سے واپس چلے گئے
 ابوطاہر نے بھی کوفہ کا رخ کیا۔ اس کے مقابلہ کے لیے دربار خلافت سے

جعفر بن ورقاء شیبانی جنسی صفوانی خادم مولیٰ ابن صفوان عقیلی شامی سرحد
اور انطاکیہ کا حاکم مثل خادم و لغنی طرف سبکی خادم اسحاق بن شیرد بن
سبکی معہ فوج کے بھیجے گئے۔ مقابلہ پر اس نے لوگوں کو شکست دی ہتھیار
آدمیوں کو قتل کیا اور جنی صفوانی کو لوگوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔

کو فہ سے زال و اسباب اور اپنے اہل خاندان کو لے کر احساہ واپس
چلا گیا اور کو فہ کو اسمعیل بن یوسف بن محمد بن یوسف المعروف بہ اخبضر
صاحب بامہ بن ابراہیم بن موسیٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی
طالب کے سپرد کر گیا۔

ابو طاہر کے مقابلہ کے لیے ابو القاسم یوسف بن ابی سباح اپنی فوج
لے کر واسطہ سے روانہ ہوا۔ یہ آذربائیجان اور میدیہ ایران بلیقان وغیرہ
ممالک کا حاکم تھا۔ بارگاہ خلافت سے یہ واسطہ بھیجا گیا تھا۔ تاکہ فوجی تیاریاں
کر کے بحرین کی طرف فوج روانہ کرے۔ ابھی یہ واسطہ میں تیاریاں کر رہا
تھا و قحتمہ کو فہ پر حاکم بحرین کی چڑھائی کی خبر ملی وہ فی الفور اس کے مقابلہ کے
لئے نکل کھڑا ہوا۔ اور ابو طاہر آگے بڑھ کر ایک مقام پر جو خور لوق کے نام
سے مشہور تھا۔ اتر اور اس مقام پر اپنا قبضہ کیا۔ ابن ابی سباح بھی دوسرے
روز ابو طاہر کے پاس ہی پاس ایک مقام پر آا۔ جو بن النہرن کے
نام سے مشہور تھا اور قریہ حرورہ کے متصل واقع تھا۔ اسی حرورہ کی طرف
خوارج کے فرقہ حروریہ کی نسبت کی جاتی ہے۔ الغرض ابو طاہر اس قریہ
اور کو فہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔

۹ شوال روز شنبہ ۳۱۵ھ کو دو جماعتوں میں معرکہ کارزار گرم ہوا
 ابن ابی سباح گرفتار ہو گیا۔ اس کی فوج کے پرچے اڑا دیئے گئے اور تیس
 ہزار سے زیادہ سوار اور پیدل آدمی کام آئے۔ اس کے علاوہ اس کی
 فوج کا معتد بہ حصہ راستے ہی سے جدا ہو گیا تھا۔ اور ایک حصہ بھی پیچھے
 باقی رہ گیا تھا۔ حاکم بحرین کے تقریباً دو ہزار آدمی مارے گئے جن میں زیادہ
 تر پیدل تھے

ابوظاہر کو فہ سے انبار آیا اور اس کو اپنے قبضہ تصرف میں لایا ساتھ
 کے کچھ لوگ دریائے فرات کو بچاند کر مشرقی سمت میں جا پہنچے اور انبار کے
 سپہ سالار اور اکابر لوگ مثلاً حارثی برغوث، ابن ہلال، محمد بن یوسف خزرکی
 کو قتل کر دیا۔

ابوظاہر نے دریائے فرات پر ایک بل بنایا اور اپنی جمعیت نیز اہل خانہ
 کو یہیں چھوڑ کر خود سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ انبار سے گذر تا ہوا شاہکی
 دربار تک جانا چاہا اور زبار ایک جو ایک چھوٹی نہر سے بڑھتا چلا گیا تھا۔ یہ
 نہر عفرقوق مشہور پہاڑی سے ایک فرسخ کی بلندی پر ہے مدینۃ السلام سے
 اس کی مسافت ایک دن سے بھی کم ہے۔

مولس خادم نصر حاجب المعروف کشوری اور ابو لہیا عبدالسدین
 حمدان جو ابن ابی سباح کے مقابلہ سے پہلے چھوٹ چکا تھا اور اس کے ساتھ
 کے قیدی بھی رہا ہو چکے تھے زبار خلافت کا تمام شاہی لشکر اسی نہر پر پڑا
 ہوا تھا۔ جب انہیں ابوظاہر کے نزدیک آنے کی خبر ہوئی تو نہر کا پل کھاٹ

دیا۔ یہ نہرو دونوں فریقوں کے درمیان حد فاصل بن گئی۔ ابو طاہر کی پید
 فوج کے چھ آدمی پانی میں اتر آئے تھے۔ مگر ان پر دوسری سمت سے پتھروں
 کی بوچھاڑ پڑنے لگی۔ چاروں چار اس نے انبار واپس جانے کی پھیرائی۔
 مونس نے اپنے غلام بلیق کو تفریباً بن ہزار اور بقول بعض سات
 ہزار فوج کے ساتھ قصر ابن بہیرہ کے راستہ پر متعین کیا جو کہ جاتے ہوئے
 راستہ میں ملتتا ہے۔ یہ لوگ فرات کے جسر سورا کو عبور کر کے براہ نیشکی روانہ
 ہوئے اور راستہ کتر کے ابو طاہر کی جمعیت تک پہنچنے کی کوشش کی
 بعض ممتاز آدمیوں نے پانی میں اتر کر ابو طاہر کے بنائے ہوئے بل کو
 جلا ڈالا۔ جس کے جل جانے سے وہ نہر کی مشرقی سمت میں رہ گیا اور
 اس کی جماعت نہر کی غزلی جانب میں تھی۔ جب اس نے بلیق کی آمد کی خبر
 سنی تو ایک چھوٹی سی کشتی میں دریائے فرات کو طے کیا۔ جس میں اس کے
 تین بھائی بھی تھے۔ بقیہ لوگ تیر کر دریائے فرات کے پار ہوئے اور
 بھاگ کر اپنی جماعت میں جا ملے۔ ابو طاہر کے دو بھائی ابو العباس وفضل
 اور ابو یعقوب یوسف اپنی جماعت ہی میں تھے جب انہیں بلیق کے نزدیک
 آنے کی خبر ملی۔ اسی وقت انھوں نے اس ابی سباح کو قتل کر دیا۔
 بلیق آپہنچا اور ان لوگوں سے سرگرم پرکار ہوا۔ مگر اس کے بہت
 سے آدمی مارے گئے اور خود اس کی جان بچ گئی۔
 ابو طاہر تمام سامان اور اسباب لے کر شہر ہیت آیا اور اس کا
 محاصرہ کیا۔

اس نے انبار کی جانب ہیتا سے کچھ فاصلہ پر مقام فہم بقہ میں تمام رفقہ کے
 کئی جتھے کر دیئے تھے یہ سب کے سب مسافت طے کر کے یہاں آ کر اس سے
 مل گئے۔ روز یکشنبہ ۸ رومی الحجہ سنہ مذکور میں ہیتا کے لوگوں نے اس کا
 مقابلہ کیا شام کو ہارون بن غریب الخمال ابو العلاء سعید بن حمدان، یونس غلام
 احمسی اور دوسرے اکابر بھی وہاں پہنچ گئے تھے جن کے آنے سے جنگ
 کے شعلہ اور بھڑک اُٹھے۔ شہر نپاہ کی دیواروں سے جنگ ہونے لگی
 دفعۃً غنیم کے کئی قلعہ شکن آلات میں آگ لگ گئی۔ جس کی وجہ سے
 وہ لشکر گاہ کو واپس گیا اور دوسرے روز دوشنبہ کی صبح کو وہ رجبہ لک
 بن طوق کے ایک گوشہ کی طرف روانہ ہوا۔ کوچ سے پہلے علی الصباح
 اس کی لشکر گاہ سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ مگر وہ دراصل اسباب
 و سامان کو آگ کی نذر کر رہا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس بار برداری کے
 وسائل کی کمی تھی اور سامان اور کنبہ کے لوگ بہت تھے۔

جب وہ رجبہ پہنچا، اس وقت یہاں کا حاکم ابو جعفر محمد بن عمرو بن
 تغلبی تھا۔ اس نے شہر کو بروز شمشیر فتح کیا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ یہ جاگہ شام
 کی طرف ہے اور پھر قریسیا کو جو جزیرہ کی سمت میں واقع ہے فتح کیا
 یہاں سے اس نے جماعت کی ٹولیاں بنا کر اطراف و اکناف میں روانہ
 کیں اور فوج کا ایک ایک دستہ حسین بن علی بن سبیر تغلبی اور معاذ اعرابی
 کلابی کی سرکردگی میں کفر توٹا و اس العین اور نصیبین کی طرف روانہ کیا
 جس نے قبائل تغلب اور بخر کے بدوؤں اور شہریوں سے مقابلہ کیا۔

اس سے پہلے سلیمان علی کو لشکر کی رسد کے لیے کفر توڑنا بھیجا تھا یہ شخص اس
جماعت میں نہایت متقشف اور ان کے مذہب سے پورا واقف تھا۔ یہ ابو زکریا
بهران کی جماعت میں شریک تھا۔ مگر بعد کو ابو سعید جنادی اور اس کی اولاد کو
جا ملا۔

فوج کا ایک اور دستہ جس میں کم و بیش دو ہزار آدمی تھے رقبہ بھیجا پورجہ
سے تیس فرسخ کے فاصلہ پر تھا یہ دستہ بھی حسین بن علی بن سبزوہ اور معاذ کلابی
کی سرکردگی میں روانہ ہوا، روز یکشنبہ ۲۲ رجمادی الاول ۳۱ھ کو
دونوں رقبہ پہنچے۔ اس وقت یہاں کا امیر نجم غلام حبیبی صفوانی تھا۔ شنبہ
۲۵ رجمادی الاولیٰ کو طرفین میں لڑائیاں ہوئیں۔ چہار شنبہ کو کچھ دن باقی
تھا کہ اس کی فوج رجبہ سے واپس چلی گئی۔ جانبین کے کچھ آدمی مارے
گئے۔ جن میں رقبہ کے آدمی زیادہ تھے۔

یکم شعبان ۳۱ھ کو وہ رجبہ سے روانہ ہوا اور براہ خشکی اور براہ
دریائے فرات اس نے مسافت طے کی رجبہ میں تقریباً سات ماہ تک اس نے
اقامت کی۔ یہاں سے چل کر دوبارہ ہیبت آیا اور اس کے اس نے خشکی اور
دریائی راستوں سے اس پر حملے کئے۔ طرفین میں زور شور کی معرکہ آرائیاں ہوئی
جب اس نے اس شہر پر پہلی بار حملہ کیا تھا تو اس کے پاس کشتیاں نہیں تھیں
الغرض وہ یہاں سے بھی روانہ ہوا اور کوفہ اور قادسیہ کے نواح میں آیا یہاں
رسد فراہم کر کے نصرہ کے بیرونی حصوں کو طے کرتا ہوا بحرین واپس چلا گیا
۳۱ھ میں چھ سو ہزار اور نو سو بیس فوج سے کرکہ منہ کی طرف بڑھا اور

۷ ذی الحجہ دو شبہ کے دن یہاں پہنچا۔ یہاں کا حاکم محمد بن اسمعیل معروف و نابینا
مغلب تھا۔ عمائد شہر عوام، حجاج اور ان کے باشندے اس کے مقابلے میں
صفت آرا ہوئے۔ مگر جب لطیف غلام ابن حجاج مقتول ہوا تو اس کے لیے
میدان خالی کر دیا گیا۔ لطیف مکہ کے با اثر لوگوں میں تھا اور اس پر کافی اعتماد
کیا جاتا تھا۔ لوگوں نے تلواریں لے کر خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ تاہم وہ خونریزی
اور قتل عام سے باز نہیں آیا۔

جو لوگ اس گروہ کے ہاتھوں بے گرام اور تمام شہروں میں مائے
گئے تھے ان کی تعداد تیس ہزار تھی۔ بہت سے لوگ وادیوں میں کچھ پہاڑوں
کی چوٹیوں پر اور کچھ جھگڑوں میں پھاس اور سخت نکالیف اٹھا کر ہلاک ہو گئے
تھے جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکا۔

خانہ کعبہ کی بے حرمتی | اس نے بیت اکرام کے دروازے جن پر سونے کے
پتھر چڑھے ہوئے تھے توڑ ڈالے۔ خانہ کعبہ میں
چاندی کی صتی محرابیں، جتنے قیمتی ہیرے، جتنے عجاڑ اور سونے چاندی
کے جتنے منطقی اور تازیرات تھے جن سے بیت اکرام ہر وقت آرامتہ
رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ آنا گہرا
کر دیا کہ تقریباً کہنی تک ہاتھ چلا جاتا تھا اور پھر کعبہ کا غلاف اتارا اور ان تمام
سامانوں کو پچاس اونٹوں پر بار کیا۔ اس وار و گیر اور قتل عام کے وقت
جن لوگوں نے بیت اکرام میں پناہ لی تھی ان کی وجہ سے بعض چیزیں لٹ
سے بچ گئیں یہ واقعہ روز دو شبہ ۱۳ ذی الحجہ ۳۱ھ کا ہے اس کی فوج

مکہ معظمہ میں آٹھ روز تک مقیم رہی روزانہ صبح کو شہر میں داخل ہوتی تھی اور شام کو واپس باہر آتی تھی۔ بالآخر قتل و غارت کرتی ہوئی ہفتہ کے روز مکہ سے روانہ ہوئی۔ مگر راستہ میں قبیلہ ہذیل بن بدر کہ بن الیاس بن مضر ان کو مزاحم ہوا۔ قبیلہ کے لوگ تنگنا یوں، گھائیوں اور پہاڑیوں میں پھیلے پڑے تھے۔ پتھروں اور نخیروں سے وہ حملہ آور ہوئے اور اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا یا فوج رستہ بھول گئی۔ تین دن تک پہاڑوں اور وادیوں میں بھٹکتی پھری اس بادیہ نوردی میں بہت سے مرہ و زن نے جو گرفتار تھے اس کی قید سے نجات پائی۔

اس وقت اس جماعت کے انواع و اقسام کے مال و اسباب سے تقریباً ایک لاکھ اونٹ لہے ہوئے تھے قبیلہ ہذیل نے بہت اسباب و سامان اور ہزاروں اونٹ اس سے چھین لیے۔ عنیم نے ہذیل کے ایک سیاہ فام غلام کو جس کا نام زیا تھا۔ اماں دی تھی جس کی مکافات میں اس نے ان لوگوں کو راستہ بتایا تو وہ تنگنا یوں سے نکل کر اپنے ملک واپس آ گئے۔ بقیہ قرامط کا حال راضی کے تذکرے میں ہے۔

منصور حلاج | مضافات ملک فارس میں شہر بضاہ کا باشندہ حسین بن منصور معروف بہ حلاج کے قتل کا واقعہ ۲۴۴ ذیقعدہ ۳۳۷ھ کو

ظہور پذیر ہوا۔ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر بغداد آیا اور اناج کی آواز لگائی۔ اس کا قول تھا کہ انسان میں خدا جلوسل کر سکتا ہے قرآن وحدیث سے

لے تہنیہ و اشراف ص ۲۷۱ تا ۲۸۲

تھا۔ حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا اور قاضی ابو عمرو دیگر علمائے اس کے
 قہ کی تائید کی اور اس کے قتل کا حکم دیدیا۔ ۲۴ ذی قعدہ ۳۰۹ھ کو اس
 کو کوڑے لگائے گئے۔ دونوں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ سر تن سے جدا
 لیا اور لاش بلا دی گئی۔ یہ تمام واقعات پولیس کی جماعت کے روبرو تید
 نہ کی فیصل پر انجام پائے یہاں قید خانے کو عرف میں مزون کہتے ہیں،
 کی نسبت جو جو مذہبی باتیں ہر جگہ بیان کی جا رہی تھیں۔ ان کی وجہ سے
 نہایت خطرناک تھا۔ اس کے متبعین اور پیروؤں کی تعداد بہت تھی
 حج نقون اور الوہیت کی باتیں کرتا تھا۔ علاج کے مساک و مذہب کے
 حلق جو روایتیں صحت کی حد تک پہنچی ہیں یا جو خود اس نے اپنی کتابوں میں
 لکھے۔ ان باتوں کو مسعودی نے ارباب النخل و رؤساء الملل کے تذکرے
 ذیل میں بیان کیا ہے۔

مختار نے بغداد کے شحنة عمرویہ کو نکال دیا جو ابن معتز کا حامی تھا
 مختار اس کی جگہ مولس خازن شحنة مقرر ہوا۔

امامیان معتز کا قتل | ابن معتز، امیر محمد بن داؤد، قاضی احمد بن یعقوب
 بدر العجمی امیر و صیف بن صوار تلکین کا تبار وغیرہ
 گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ بعضوں کو قتل کر دیا۔ حسین بن حمدان والی
 وصل حس نے معتز کے خلاف ابن معتز کی حمایت کی تھی وہ پتہ نکلا۔ اس کے
 بانی ابو الہیجا کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ہردو میں جنگ ہوئی۔ آخرش

سے تاریخ الخلفاء ص ۲۰۱ سے تجا اب الامم ابن مسکویہ ج ۱ ص ۲

حسین نے ابن فرات کے ذریعہ خطا معاف کرا کر مقتدر کے حضور حاضر ہو گیا
 مقتدر نے اس کی عزت افزائی کی اور قم۔ قاشان کا والی بنا دیا۔ کچھ دن
 بعد ربیعہ کا علاقہ بھی اس کو دے دیا۔ ۳۰۳ھ تک ان مقامات کا حکم ان
 وزیر علی بن عیسیٰ اور حسین بن حمدان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا
 وزیر نے حسین کو حکم دیا کہ موصل کے علاقے عباسی عمال کے سپرد کرے اس
 انکار کیا۔ مقتدر نے فوجیں موصل کی سرکردگی میں بھیجیں۔ حسین اور ابوالہجاء
 گرفتار ہوئے۔ قید کئے گئے۔ ۳۰۵ھ میں ابوالہجاء آزاد ہوا اور حسین قتل
 دیا گیا۔

وقائع ۳۰۵ھ | شاہ روم کی طرف سے دو قاصد بغداد آئے اور یہ درخواست
 پیش کی کہ فریقین آپس میں صلح کر کے قیدیوں کو فدیہ پر رہا کر
 دیں مقتدر نے درخواست منظور کر لی اور اس کام کے انجام دینے کے لیے
 موصل کو بھیجا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔

دولت اور لیسہ آنغالبیہ | دولت اور لیسہ و اغالبیہ کا خاتمہ عبید اللہ مہدی فاطمہ
 کے ہاتھوں ہوا۔ فاطمی حکومت قائم ہوئی، اس
 مستقر شہر ہمدان متصل قیروان تھا۔

بغاوت مراد و تاج | اولیٰ سردار مراد و تاج بن زیاد نے ۳۱۵ھ میں علم بغاوت
 بلند کیا۔ سب سے پہلے حاکم جرہار، اسفاریں، شیروین
 حملہ آور ہوا۔ اس کو قتل کر کے قرزین، رے، ہمدان، کنکو، قم، قاشان

نہان، طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ ایک سونے کا تخت بنایا گیا جس پر بیٹھ کر
 دربار کیا کرتا تھا۔ مقتدر کو خبر لگی۔ اس نے فوج بھیجی وہ ناکام رہی۔ مگر
 داویج نے بطور حفظ ما تقدم مقتدر کو چند لاکھ سالانہ خراج دینا منظور کر
 لیا۔ غرض کہ خراسان اور ماورالنہر میں آل سامان کا کچھ یوں ہی سا اقتدار
 ان کے مقابل ایک جدید طاقت ولیمیوں کی اٹھ کھڑی ہوئی۔

لحمدان | موصل پر آل حمدان کا ایک عرصہ سے اقتدار بڑھ رہا تھا یہ لوگ
 اہور اور شجاع بھی تھے۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بھی
 اپنی حکومت کی بنا ڈالی۔

رومی حملہ | رومیوں نے بغداد کی کمزوری محسوس کر کے ۳۰۳ء میں جزیرہ کے
 حدود پر حملہ کر دیا۔ فوج سرحد پر نہ گئی۔ قلعہ منصورہ پر فاتحانہ
 گئے اور صمد ہا مسلمان گرفتار کر کے لے گئے۔ جن کو مقتدر نے چھڑایا جس کا
 کرپیلے آچکا ہے پھر ۳۱۵ء میں قیصر روم نے طیبہ پر حملہ کیا اور اس کو ویران
 کر ڈالا۔ وہاں کے بہت سے مسلمان قتل ہوئے۔ مقتدر کو اہل طیبہ نے اطلاع
 دی۔ مگر ان کی فریاد نہیں سنی گئی۔ مقتدر عیش و عشرت میں مبتلا تھا۔ مجبور ہو کر
 ۳۱۵ء میں خود طبرسوس کے مسلمانوں نے رومی سرحد میں حملہ کر دیا۔ چار سو
 مسلمان گرفتار ہو گئے اور بہت سے شہید کر دیئے گئے۔ اس سال دمشق رومی
 نے ایک عظیم الشان فوج لے کر ارمینیا کے سب سے بڑے شہر وکیل پر چڑھائی
 کی۔ اس کے ساتھ منجیق وغیرہ قلعہ شکن آلات کے علاوہ آتش باری کے بڑے
 بڑے ہتھیار تھے مگر مسلمانوں نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور رومیوں پر

غالب آکر دس ہزار روپیوں کو تین گنا کر ڈالا۔ اس فتح سے سرحد کے روپیوں
مسلمانوں کا رعب غالب ہو گیا۔

زیاری حکومت کا قیام | مقتدر کا عہد دولت عباسیہ کے لیے پُر آش
تھا۔ ایک تو ان کے مقابل آل ہاشم

فاطمی نے حکومت مغرب میں قائم کی۔ جرجان میں محمد زید علوی کے قتل کے
اس خاندان کے ایک رکن حسن بن علی الملقب بہ اطروش کو طبرستان پھر
کی فکر ہوئی۔ اس وقت احمد بن اسمعیل سامانی کا قبضہ تھا۔ اطروش و طیم پور

تیس سال اسلام کی اشاعت کی، ہزاروں ویلی ان کے ہاتھ پر اسلام
ان کو ہمراہ لے کر محمد بن اسمعیل سے مقابلہ کرنا چاہا۔ مگر ویلی رضامند نہ

ہوئے۔ طبرستان پر عبداللہ بن محمد کا تقرر ہوا۔ اس کے مرنے پر محمد بن ابرا
والی ہوا یہ دیالمہ سے الجھ پڑا۔ تو اطروش نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر

میں طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ ابراہیم کو مار بھگا یا۔ چار سال بعد ہی سامانی نے
کو قتل کر دیا۔ تو اس کا داماد حسن بن قاسم المعروف بہ داعی جالشین ہو

انہوں نے ویلی افسروں کی مدد سے سامانی حکومت کے بہت سے علاقے
قبضہ میں کر لیے۔ کچھ دن بعد اس کا ویلی افسر سفار بن شیروہ سعید بن

سامانی سے مل گیا اور حسن مقابلہ میں کام آئے۔ اس کے مقبوضات
سفار قابض ہو گیا جس کے ایک افسر ہارون بن ہزام نے ابو جعفر بن حسن

کو بھی کشین کیا۔ لیکن سفار نے ہر دو کو مروا ڈالا اور طبرستان
پہنچ کر ویلی حکومت ختم ہو گئی۔ سفار نے سامانیہ کا خطبہ بند کر دیا اور

سامانی نے فوج کشی کر دی۔ اسفار گھبرا گیا۔ صلح کر لی۔ مرد او بیج کے آدمیوں نے اسفار کو بھی قتل کر دیا۔ اس کا علاقہ مرد او بیج کے قبضہ میں آ گیا۔ اب اس کی تو بہت بڑھ گئی۔ اس نے چند دونوں میں ہمدان، ویلور، قم، کاشان اور اصفہان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دولت عباسیہ نے آخرش دو لاکھ سالانہ پر مفتوحہ علاقہ کا ٹھیکہ ۳۱۹ھ میں مرد او بیج کو دے دیا اور اس کا والی بنا دیا غرض کہ جرجان میں باقاعدہ ریاستی حکومت قائم ہو گئی۔

امیر الامرا مونس | مونس مقتدر کا غلام تھا۔ اس کو بڑھا کر امیر الامرا کر دیا وہ تمام امور مملکت پر حاوی ہو گیا۔ اب مقتدر کی آنکھ کھلی تو اس کو نظروں سے گرا نا چاہا۔ چنانچہ مونس نے امیر ابو الہیجا بن حمدان والی جبل اور دوسرے امراء کو گانٹھ لیا۔ ۳۱۶ھ میں مونس نے مقتدر کو لکھا کہ

شاہی خدم و حشم اور حرم سلطانی کے بیجا مصارف، جاگیروں پر ان کا قبضہ و تصرف اور امور سلطنت میں ان کا مداخلت کرنا فوج میں برہمی کا سبب بن رہا ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ آپ جاگیریں ان کے قبضہ سے نکال لیں۔ خدم و حشم کو الگ کر دیں۔ ہارون بن غریب جو مقتدر کا عزیز تھا مونس کو یہ خیال ہوا کہ میری جگہ امیر الامرا یہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو محل سے نکال دیا جائے۔

مقتدر نے ہارون کو شام و جزیرہ کی سرحد کا حاکم کر دیا اور تمام

مطالبات ماننے کو تیار ہو گیا مگر مخالفین کی تشفی نہ ہوئی۔ محرم ۳۱ھ میں مولانا نازوک ابوالہیجا اور دوسرے امرائے مخالف نے مقتدر کو معاہل و عیال کے مولانا کے محل میں قید کر دیا اور اس کے سوتیلے بھائی محمد کو خلیفہ بنا کر قاہرہ کا لقب دیا۔ اور قاضی ابو عمرو مالکی کے سامنے مقتدر سے باقاعدہ خلافت سے خلع کا حلف لیا۔ نازوک نے قصر خلافت کی شاہی فوج مصافحہ کو قصر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ بگڑ بیٹھی۔ قاہرہ سے حق بیعت اور ایک سال کی تنخواہ کا مطالبہ کیا اور گھیر لیا اور نازوک اور ابوالہیجا کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف مولانا کے محل میں سے مقتدر کو نکال لیا اور قصر خلافت میں لے آئے۔ قاہرہ سے مقتدر نے کوئی باز پرس نہ کی اور اس کی ماں کے پاس نظر بند کر دیا۔

مقتدر نے تجدید بیعت کا اعلان کیا۔ شاہی ماں

دوبارہ بیعت خلافت

بیچ کر فوج کو تنخواہ دی امیر مولانا بدستور اپنے عہدہ پر قائم رہا۔ اس وقت تو مقتدر دوبارہ حکمران بنے مگر امیر مولانا کی جاہ پسندی اور دیگر امرائے خود غرضی اور رشاک و رقابت رنگ لائے بغیر نہ رہ سکی۔ دو جامعیتیں بن گئیں۔ امیر مولانا اور عباسی وزیر سلیمان بن جماعت کے سرغنہ تھے۔ صاحب دولت یا قوت اور محمد بن یا قوت شحہ بغداد اور دوسری جماعت کے سرگروہ تھے۔ ۳۱ھ میں مقتدر نے اصحاب کا محکمہ بھی محمد بن یا قوت کو دیدیا۔ مولانا بگڑ بیٹھا۔ اس عہدہ پر قاضی یا عدل

۶۵ تا ۶۲

ہونا چاہیے تھا۔ مقتدر نے یاقوت اور محمد کو کل عہدوں سے علیحدہ کیا یاقوت کو کرمان و فارس اور محمد کو سبستان اور دوسرے لڑکے مظفر کو اصفہان کا والی بنا کر بھیج دیا۔ جا جب ابراہیم رائق اور اس کے بھائی محمد کو شہنشاہ بغداد مقرر کیا۔

مالی حالت | حرم سلطانی کے اصرار پیر اور مقتدر کے مصارف کثیر اور محاصل کی قلت نے حکومت کا مالی نظام بگاڑ دیا۔ خزانہ خالی تھا۔ ۳۱۹ھ میں وزیر سلیمان بن وہب کو الگ کیا اور ابوالقاسم کلواذانی کا تقرر ہوا لیکن وہ بھی حکومت کا میزانیہ نہ سمجھا سکا۔ اس لیے حسین بن قاسم کو منصب وزارت تفویض ہوا۔ مولس اور حسین میں اختلاف ہو گیا تو حسین نے اپنی عالی و داعی سے بغداد میں مولس کے خلاف فضا پیدا کر دی۔ مولس پر زنگ دیکھ کر موصل چلا گیا۔ یہاں مال و اسباب اس کا ضبط ہوا۔ حکومت کو ۳۰ لاکھ اشرفی ہاتھ لگی۔ شاہی خزانہ میں دولت جمع ہو گئی۔ مقتدر نے حسین کو عماد الدولہ کا لقب دیا اور سکون پر اس کا نام نفیس کر لیا۔ حسین نے تمام امراء کو جو مولس کے ساتھ چلے گئے تھے بغداد بلا بھیجا اور آل حمدان کو کہلا بھیجا کہ امیر مولس کی تیغ سے ہدایات کرو دیا۔ چنانچہ بیس ہزار فوج سے امیر مولس کو روکنے آل حمدان آئے اس نے آٹھ سو کی مختصر جماعت سے ان کو شکست فاش دی اور موصل پر قبضہ کر لیا۔ امیر مولس بڑا فیاض اور محسن اور سیرہ چشم تھا۔ بغداد، مصر، شام سے لوگ اس کے پاس پہنچ گئے اور بہاں پھر فوج داند داند کو حجاج

ہو گئی۔ وہ بھی موصل پہنچے۔ امیر مونس نے ان سب کو ہمراہ لے کر بغداد پر ^{۳۲}میں حملہ بول دیا جس سے مقتدر کے حواس جاتے رہے۔

مقتدر کا قتل | مقتدر نے ابوالعلا سعید بن حمدان اور صافی بصری کو مونس کے روکنے کے لیے سر من رائے اور محمد بن یاقوت

کو "معتوق" روانہ کیا۔ ابن یاقوت کی سپاہ حلتی بنی۔ محمد بن یاقوت نے مقتدر سے کہا۔ آپ خود مونس کے مقابل ہو جائے۔ وہ آپ کو دیکھ کر رام ہو جائے گا۔ آخر کار مقتدر فوج سے کزنکلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ^{۳۳}میں بصری طرح قتل

ہوا۔ سر جدا کر کے لکڑی پر آویزاں کیا گیا۔ بدن پر سے کپڑے اتار کر لاش عریاں چھوڑ دی گئی۔ ایک رات پانچ گھنٹے گڑھا کھود کر مقتدر کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔

مونس خود راشدہ میں مقیم تھا۔ سر مقتدر کا اس کے سامنے پیش ہوا اس نے افسوس کیا۔ قتل کے وقت مقتدر کی عمر ۳۴ سال کی تھی مدت خلافت پچیس سال۔

حلیہ | مقتدر کا حلیہ یہ تھا۔ قدمیانہ، ذرا جھکا ہوا۔ آنکھیں چھوٹی گندم کون رنگت، خوبصورت چہرہ، ہڈیاں خوبصورت اور سرخی مائل۔

تجمل و طمطراق | مقتدر، عقل و دانش اور تدبیر و سیاست سے عاری نہ تھا۔ لیکن عیش پرستی نے ناکارہ کر دیا تھا۔ وقت عورتوں

کی صحبت میں رہتا۔ ظاہری طمطراق اتنے بڑھانے لگے تھے کہ حکومت ان

سے بجا رہا۔ الامم لہ التہذیب والاشراف ص ۱۲۷

کے اخراجات کی تکمیل نہ ہو سکی۔ لوندیوں اور محلات شاہی پر بے دریغ روپیہ
 لٹاتا تھا۔ خزانہ کے قیمتی جواہرات ان میں تقسیم کر دیے تھے۔ ایک ایک
 دربار کی شان و شوکت میں لاکھوں روپیہ صرف کر دیا کرتا تھا۔
 مقتدر بادشاہ کا عہد حکومت باوجود اندرونی شورشوں اور بیرونی
 فتوں کے شان و شکوہ اور عظمت و جلال کا تھا۔

۱۳۰۵ء میں جب شہنشاہ روم کا سفیر مصالحت اور قیدیوں کے
 باہمی تبادلے کی غرض سے بغداد آیا تو خلافت کے ہیبت و ودیدہ کا مظاہرہ
 کرنے کے لیے ایک نو تعمیر محل میں اس کا وسیع پیمانہ پر خیر مقدم کیا گیا
 یہ محل دارالشجرہ نہایت پیش قیمت فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ مجلس میں قرینہ
 سے دروازوں، دہلیزوں، صحنوں اور راستوں پر صاحب اور خادم
 مامور تھے اور دوریہ قطاروں میں سپاہی صف بستہ کھڑے تھے ان کا
 لباس نہایت موزوں اور وقت کے مناسب تھا۔ ان گھوڑوں پر زینت
 اور دوسرے اعلیٰ قسم کی جھولیں پڑی تھیں۔

علامہ سیوطی کا اس واقعہ کے متعلق یہ بیان ہے
 مقتدر نے بڑے وسیع پیمانہ پر اس سفیر کے استقبال کی
 تیاریاں کی تھیں۔ بات شامیہ سے دارالخلافت تک
 ایک لاکھ، ہزار مصدق فوج صف بستہ کھڑی تھی فوج کے
 آگے، ہزار خادم دست بستہ کھڑے تھے ان کے بعد سات

ملک تاریخ بغداد خطیب بغدادی ص ۱۰۰ تا ۱۰۱

سو حاجب کھڑے تھے۔ دار الخلافہ کی دیواروں پر اٹھائیس
ہزار لہشی پردے پڑے تھے اور بائیس ہزار دوسرے پیش
قیمت اور اعلیٰ قسم کے پردے پڑے تھے۔ یہ دربار کی آرائش
کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بارہ ہزار فرش
بچائے گئے تھے۔

مقتدر باللذو علیہ کے کنارے آہنوس کے تخت پر تاج پہنے جلوس
فرما تھا۔ بدن پر سفید لہشی لباس تھا جس پر سونے کا کام بنا تھا۔ تخت پر
منقش سنہرا فرش بچھا تھا جس کی جھال میں تیس کے دالوں کے برابر نمائش
پیش قیمت جو اہرات لٹک رہے تھے۔ پانچ ہزار اوسے تین واہنس مانبا
دو بائیس جا بجا بیٹھے تھے۔ اس وقت قاصد اور ترجمان سامنے کھڑے
ہوئے۔ قاصد (سفر) نے سجدہ کیا۔ اور مولس خادم اور نصر قشوری کے
واسطے سے جو مقتدر کے ترجمان تھے گفتگو کی۔

دار الشجرہ | محل دار الشجرہ میں سونے چاندی کا ایک درخت بنایا گیا تھا اس
کا تنہ اور شاخیں سونے، چاندی کی تختیں پتیاں اور پھول
پھل جواہرات کے۔ شاخوں کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ وہ ہوا سے
اصلی شاخوں کی طرح جھومتی تھیں۔ ان پر سونے اور چاندی کے طیور
بٹھائے گئے تھے۔ ان میں یہ صفت رکھی گئی تھی کہ جب ان کے جوف
میں ہوا بھرتی تھی تو ان سے چہانے کی سی آواز نکلتی تھی اور سب کی

انے تاریخ الخلفاء ص ۲۵۰ سے فتوحات اسلامیہ

بولیاں ایک دوسرے سے جدا تھیں۔

اصراف بیجا | مقتدر نے اپنے عیش و عشرت میں جو دولت لٹائی اور اصراف بیجا کیا۔ اس کا تخمینہ سات کروڑ اشرفی کا کیا جاتا ہے۔

ملکہ قہرمانہ | ملکہ قہرمانہ ام موسیٰ مقتدر کی ماں، محل میں بیٹھ کر خود حکمرانی کرتی تھی وزیر اور دم نہ مار سکتے تھے۔ اس نے مفید کام بھی

کئے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ کرمہ کے غراب کے لیے بڑا وقف کیا تھا۔ قاہرے ربروسی سے اس پر قبضہ کر لیا۔ ملکہ نے اپنے ذاتی صرفے سے ایک شفا خانہ بھی بنایا تھا۔

مقتدر کا عہد | مقتدر کا زمانہ ۲۵ سال کی طویل مدت کا ہے مگر حکومت میں شورشیں رہیں۔ انقلابات گذرے دو مرتبہ تخت

سے اتارا گیا تیسری مرتبہ جان سے ہاتھ دھولے پڑے۔

باغات | مقتدر کو باغات اور میوے کے درخت لگانے سے بڑی دلچسپی تھی۔ چنانچہ اس نے ہندوستان سے ترنج منگایا۔ اور

عمان میں اس کے درخت لگائے گئے۔ پھر وہاں سے عراق اور شام میں لگائے گئے۔

رواداری | خلیفہ مقتدر میں جہاں مادہ عیش و عشرت تھا وہاں میں چند خوبیاں بھی تھیں اس کے مزاج میں رواداری کا مادہ بہت تھا چنانچہ

۱۔ فتوحات اسلامیہ ۱۵ ابن اثیر ج ۸ ص ۶۶ ۲۔ تلہ ابن اثیر ج ۸ ص ۸۸

۳۔ مناجتہ الطرب فی نقدات العرب ص ۱۱۱

وہ اہل ذمہ کی مخصوص اہلیتوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو
 بعض خدمات کے لیے سرکاری ملازمتوں میں داخل کیا۔ بلکہ ۹۰۹ء میں
 مقتدر نے ایک فرمان جاری کیا جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو صرف
 دو قسم کے سرکاری عہدوں پر متعین کیے جانے کی اجازت دی گئی تھی یعنی
 طبیب اور جہنبد

امرالمقتدر ان لا یخدم احد الیہود والنصارى الا فی الطب
 و الجہنبد۔

رسائل جاخط میں ہے کہ

یہودیوں کی نوازی | خلیفہ متوکل کے زمانہ میں ۸۴۷ء تا ۸۶۱ء عراق

میں یہودی زیادہ تر زنگار ریزہ دباغہ حجام اور قصاب
 تھے۔ مگر مقتدر کے عہد میں یہودیوں کو سرکاری ملازمت
 ملنے لگی اور مالیات میں ان سے کام لیا گیا۔ پھر تو ایک بغداد
 کا محلہ سا یہودی کاروں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا نام دربن
 الیون تھا۔

دیوان الجہنبد | مقتدر نے الجہنبد کا محکمہ نیا قائم کیا تھا۔ کیوں کہ نظام مالیات
 میں کچھ وقتی چیزیں نئی بڑھیں۔ اس وقت تک مسلم حکومت
 میں درہم (معیاری سیم) راج تھا۔ اس کی جگہ دینار (معیاری طلا) لے لی،
 شرح مبادلہ میں رد و بدل ہونا ضروری تھا یہ لازمی ہو گیا کہ خزانہ عامرہ میں جو سکے

لے الجوزم الزا برہ ح ۲ ص ۴۷۰ اٹلے مسکویہ ۲۴۷

آئیں انہیں معیاری سکتہ میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے (صرف) جہنبد مقرر کئے جاتے تھے محمد بن عبید اللہ بن یحییٰ خلیفہ مقتدر کا وزیر تھا اس نے درباری ساہوکار (جہنبد) یوسف بن قنیاس اور ہارون بن عمران مقرر کئے تھے۔

رفاہ عام | مقتدر اسلامی نظریہ سے قابل پذیرائی نہ تھا۔ مگر اپنے ہم عصر شاہان عالم کے مقابلہ میں امتیاز میں درجہ رکھتا تھا جہاں وہ عیش و عشرت اور محلات کی رنگینیوں میں وقت گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بعض کام قابل قدر کئے۔ بیمارستان کی طرف اس کی زیادہ توجہ تھی۔ اس کا وزیر علی بن عیسیٰ جس کو رفاہ عام کے کاموں سے دلی لگاؤ تھا۔ اس کے ہاتھوں بہت سے کام کرا دیئے جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے۔

شفابخانہ | مقتدر نے بغداد میں عظیم الشان شفابخانہ بنوایا۔ اور اس کا نگران سنان بن ثابت بن قرہ جو بڑا مشہور طبیب اور صابی تھا۔ علی کی وزارت میں وبائی مرض پھیلا تو اس نے متعدد فرمان اس بار میں لکھے اور شفابخانوں کے متعلق نئے کارخانے قائم کئے۔

۳۱۹ھ میں ایک نیم حکیم نے ایک بیمار کا علاج غلط کیا اور وہ مر گیا خلیفہ کو اطلاع ہوئی۔ اس نے حکم صادر کیا کہ کوئی شخص باقاعدہ جب تک امتحان نہ دے۔ مطیب اور علاج نہ کرنے پائے سنان بن ثابت متحن

مقرر ہوا اور ہزار ہا طلبیوں نے امتحان دیئے۔ آٹھ سو ساٹھ آدمی امتحان میں کامیاب ہوئے اور ان کو سنان نے سند عطا کی۔

مقتدر کی ماں نے جو شفا خانہ بنایا تھا۔ سالانہ خرچ سات ہزار دینار تھا یہ شفا خانہ دجلہ کے کنارے تھا۔ ۳۰۰ سالہ میں رسم افتتاح اس کی عمل میں آئی تھی۔

علی بن عیسیٰ وزیر نے اپنے صرفہ سے محلہ حربیہ میں ۳۰۰ سالہ میں شفا خانہ قائم کیا تھا۔ مشہور طبیب ابو سعید بن یعقوب اس کا نگران تھا دوسرے وزیر ابن فرات نے محلہ درب الفضل میں ایک ہسپتال قائم کیا اور سنان کے نگرانی میں دیا۔ امرائے عہد نے اس کے علاوہ شفا خانہ عوام کے لیے قائم کئے تھے۔

سیاسی حالت | مقتدر باللہ کے عہد خلافت میں داخلی اور خارجی دونوں قسم کی فضا اضطراب انگیز تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ترکوں کا حکومت کی مشینری پر غلبہ تھا۔ اس زمانہ میں فوج کے جنرلوں کا عمل دخل اتنا بڑھ گیا تھا کہ خلیفہ کا تقرر اور عزل ان کے اختیار میں تھا اس وقت وزیر ارکان کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ یہ سب خلیفہ کی صغیر سنی اور نااہلی کا نتیجہ تھا۔ خلیفہ عیش و عشرت اور لطف اندوزیوں میں غرق تھا حکومت کے نظم و نسق میں حرم و ذلیل تھیں۔ اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ دولت عباسیہ پر پڑے بغیر نہ رہا۔

۳۲۲ طبقات الاطبا ص ۲۲۲

اشاعت اسلام | مقتدر باللہ کے زمانہ میں اسلامی اخلاق اور معاشرت کا اثر دیگر اقوام پر بے حد پڑ رہا تھا جس پر یہ نہیں بلکہ خود عوام و کجاخو اص بطیب خاطر اسلام کی آغوش میں آنا اپنے لیے باعث صداقت و سچائی تھے چنانچہ بلغار کا بادشاہ شمس کے بعد اسلام لایا اور یہ بادشاہ نہایت صاحب اقتدار تھا وہ قسطنطنیہ - اٹلی - فرانس - اسپین پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد اس کے بیٹے نے حج کیا اور بغداد آیا۔ خلیفہ مقتدر باللہ نے اس کو رایت علم عطا کیا۔ مسعودی کے حوالے سے صاحب تلیف نق الاخبار لکھتا ہے کہ بادشاہ کا نام الماس خاں بن ملکی خاں تھا۔ اسلام لانے کے بعد بادشاہ نے مقتدر باللہ کے دربار میں سفیر بھیجا اور غائبانہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی یہ بھی درخواست کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے فقہاء اور علماء بھیجے جائیں ان کے ساتھ ریاضی دان بھی آئیں کہ ٹھیک ٹھیک سمت قبلہ بتائیں۔ مقتدر نے علماء و فضلاء کو اس خدمت پر مامور کیا جن میں سوسن راسی اور بدر خمی بھی تھے۔ احمد بن فضلان کو بھی اس سفارت کے لیے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ بلغار کے حالات اور سفر کے تمام واقعات کی رپورٹ لکھ کر لائیں چنانچہ اس نے ایک مفصل رسالہ لکھا جس سے یا قوت حموی نے مجمع البلدان میں اس سے مدد لی۔

زوال سلطنت | سپین میں مقتدر کو حکومت ملی تھی۔ اس لئے نہایت سادہ لوح۔ عیش پسند اور نازم و مودہ کار تھا۔ علامہ

مسعودی کا بیان ہے کہ

مقتدر سلطنت کے حالات سے بے خبر رہتا تھا۔ امرار و زرام اور
اہل دفتر امور سلطنت انجام دیتے تھے وہ کسی معاملہ میں گروہ
کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ تدبیر اور سیاست کے اوصاف سے
بالکل بے بہرہ تھا۔ عورتیں۔ خدام اور دوسرے لوگ سلطنت
کے معاملات میں بہت زیادہ دخل ہو گئے تھے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ سارے ملک میں بد امنی پھیل گئی تھی۔ حکومت کے
خزانوں میں جس قدر دولت اور ساز و سامان تھا سب صاف
ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے خونریزیاں ہونے لگیں حالات
بالکل بگڑ گئے اور خلافت کے بہت سے رسوم مٹ گئے
غرض کہ سلطنت میں زوال کا آغاز ہو گیا۔

عہد مقتدر باللہ کے علماء | مقتدر کو علم سے لگاؤ زیادہ نہ تھا مگر اس کے
عہد میں علم حدیث کی اور تفسیر کی ترقی بہت
کچھ ہوئی۔ امام نسائی وغیرہ نے مسندیں تیار کیں۔ اس کے علاوہ رجال پر
کئی کتابیں لکھی گئیں اور تاریخ پر بھی زیادہ توجہ ہوئی۔ چنانچہ ابو جعفر بن
جریر اس کے عہد کا بڑا مورخ تھا۔ بغداد میں ۹۹۲ء میں اس نے وفات
پائی۔ اپنی تصنیف ۳۰۴ھ میں مرتب کر کے عہد مقتدر باللہ میں ملک
کے سامنے پیش کی۔ جو قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی۔

علی بن فضلان مقتدری دربار کا بڑا عالم تھا۔ اس کو ۳۰۵ھ میں مقتدر نے بلنجا یہ سفیر بنا کر بھیجا تھا وہاں سے واپس آ کر ایک کتاب احوال الامم الشاہ لکھی اور مقتدر کو پیش کی۔ اس عہد میں ابو لید بلخی نے جعفر افیہ میں خاص طور پر صدور القایم کتاب تصنیف کی۔

محمد بن ابو داؤد ظاہری۔ یوسف بن یعقوب القاضی۔ ابن شریح شیخ شافعیہ، جنید شیخ صوفیہ ابو العثمان زاہد جعفر القربانی۔ امام نسائی صاحب سنن، حسن بن صفوان، حبیبی شیخ المعتزلہ، ابو العلی الموصلی صاحب مسند، ابن سین قاری مصر، ابو بکر رویانی صاحب مسند زجاج نحوی۔ ابن خرمیہ، ابن زکریا طبیب، اخفش الصغیر نہاں الجبال۔ ابو بکر بن داؤد سجستانی۔ ابن سراج نحوی۔ ابو عیونہ صاحب صحیح۔ ابو القاسم لفوی صاحب مسند، ابو عبید بن خویمہ بلیہ قدامہ کا تہ سے علمائے تھے جو علم خدمت میں بلا معاونت حکومت لے ہوئے تھے اور اس کے عہد میں فوت ہوئے

فقہ و محدث | محمد بن سلام بلخی، ابو نصر معاشر ابو حفص کبیر ۳۰۵ھ میں فوت ہوئے۔ محمد بن حزمیہ از مشائخ بلخ صاحب اختیار

فی المذہب ۳۱۵ھ میں انتقال ہوا۔

الحسن بن علی بن عبد الصمد بن یونس بن ہیران۔ ابو سعید البصری معروض بالاذنی لعدا و جاکر حدیث کی سماعت صہیب و بحر بن الحکم وغیرہ سے کی واسطہ میں ۳۱۵ھ میں انتقال کیا۔

فلسفی | ابو عبد اللہ محمد بن جابر البتانی اسلاف اس کے صاحبی تھے۔ مگر علماء
اکرام کی صحبت میں مشرف بہ اسلام ہوا۔ سب سے بڑا سائنس دان تھا اس
نے ذاتی کاوش سے بعض مسائل ہدیت کی تحقیق کی۔ بطلمیوس کے مشاہدات
کے ساتھ اپنے مشاہدات کا مقابلہ کیا تو اس کو آفتاب کے اوج کی حرکت کا
پتہ چلا اور طریق شمس کے میل میں تبدیلی معلوم ہوئی۔ اس نے استقبال اعتدالین
کی صحیح ترتیب دریافت کی اور علم التثلثات میں جو یوب کا استعمال آفاذ کیا
حرکات ثابت پر اس کی کتاب کے لاطینی ترجمے کا مطالعہ کر کے ہولیس نے
چاند کی حرکت میں دہری تغیر محسوس کیا۔ ۱۶۷۷ء میں پیدا ہوا اور ۱۷۱۸ء
میں فوت ہوا۔

مفسرین | امام ابراہیم بن معقل حنفی تفسیر نسفی یادگار ہے۔ ۲۹۵ھ میں
انتقال کیا۔

شیخ ابوالحسن علی بن موسیٰ بن یزاد قمی احکام قرآن تالیف ہے۔ ۳۰۵ھ
میں فوت ہوئے۔

شیخ محمد بن زید واسطی مولف اعجاز القرآن ۳۰۶ھ میں انتقال ہوا۔
امام ابوبکر محمد بن ابراہیم نیشاپوری مولف تفسیر ابن المنذر ۳۱۵ھ میں
وفات پائی۔

شیخ قاسم عبداللہ بن احمد حنفی معزلی معروف کعبی ۳۱۹ھ میں انتقال
ہوا۔ تفسیر کعبی یادگار ہے۔

عبداللہ بن معتمر

نام و نسب | نام عبداللہ اور ابوالعباس کنیت تھی۔ مشہور خلیفہ معتمر کا لڑکا۔ ولادت ۲۷۶ھ میں ہوئی۔

تعلیم و تربیت | معتمر نے عبداللہ کی تعلیم پر میر و ادیب اور ثعلب نخوی کو مقرر کیا۔ چنانچہ عبداللہ نے ان دونوں استادوں کے فیض سے بہت کچھ حاصل کیا۔

ابن ندیم لکھتا ہے

شعر و ادب میں وحید عصر تھا۔ بدوی فصحا اور علمائے نحو کے پاس جا کر ان سے استفادہ کیا۔

ابن خلکان کا بیان ہے

وہ ادیب۔ بلخ اور فطری شاعر تھا

کان ادیباً بلخیاً شاعراً

بیعت خلافت اور معزولی | مکتفی کی نامزدگی کے مطابق ۲۹۵ھ میں اس کے چھوٹے بھائی مقتدر کی بیعت

ہوئی۔ یہ بہت کم سن تھا۔ ارکان دولت نے اختلاف نہیں کیا۔ مگر درود لیا۔ عباس بن حسن نے اپنی خود غرضی کی بنیاد پر ان کے علی الرغم مقتدر کی بیعت

۱۶۸ھ فرست ابن ندیم ص ۱۶۸ ۱۶۸ھ ابن خلکان ص ۱۶۸۔

کی رسم ادا کی گئی مگر یہ بیل منڈھے نہ چڑھی۔ مقتدر کو معذرت
 کرنا چاہا اور عبداللہ بن معتر سے اس منصب کے قبول کرنے کی درخواست
 کی۔ اس نے کہا۔ بغیر کسی فتنہ کے مجھے خلیفہ کرنا چاہئیں تو میں مان
 لوں گا جب یقین دلایا گیا تو وہ راضی ہو گیا۔ ۲۹۶ھ میں عبداللہ کی
 بیعت ہو گئی۔ متصفت بالتذیان غالباً باللسد لقب دیا گیا۔

عبداللہ کی خلافت کو ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے۔ بغیر کسی
 ظاہری سبب کے ایسا واقعہ رونما ہوا کہ لاچار تخت خلافت ہر دست
 بردار ہو کر روپوش ہونا پڑا۔ مقتدر کے آدمیوں نے ڈھونڈھ کر قتل کر دیا
 یہ واقعہ ۲۹۶ھ کا تھا۔

عبداللہ صاحب علم خطیب شعر و ادب کا بڑا سحرانذاق رکھنے والا
 تھا۔ صاحب آفانی نے اس کی شاعری پر تبصرہ کیا ہے۔

اس کے اشعار میں اگرچہ شاہانہ نزاکت اور رندانہ تعزیر

اور نئے شعراء کی لطافت موجود تھی لیکن ان اوصاف

کے باوجود اس کے اشعار میں کثرت سے ایسے اوصاف

بھی تھے جو اعلیٰ درجہ کے شعرا کا اسلوب ہے۔ اور حسن میں

سابقین شعراء بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک شعر نقل ہے۔

وجارنی فی قمیص اللیل مستترانہ لیس تجیل الخطور من خون ومن حد

دہ میرے پاس لائے کے پیر میں چھپ کر آیا۔ اور زقیوں کے خون سے قدم جلدی

۲۵۸ھ ابن خلکان ج ۱ ص ۲۵۸

عبدی ڈال رہا تھا۔

موسیقی | عبداللہ کو اس فن سے خاص دلچسپی تھی۔ افغانی میں ہے
عبداللہ بن معز فن موسیقی سے خوب واقف تھا
اور راگوں کے حقائق اور علل کا بھی اسے پورا علم تھا

علم بدیع | عبداللہ علم بدیع کا موجد اور امام ہے سب سے پہلے محاسن
کا نام کے مسائل کا تقصیر کے اس فن کو مدون اور مرتب
کیا اور نام بھی بدیع رکھا۔

سید صدرالدین شیرازی اپنی کتاب الوار الریح فی الازرع البدیع میں
لکھتے ہیں۔

سب سے پہلے عبداللہ بن معز نے اس فن کی ایجاد کی
اور اس کا نام بدیع رکھا۔

تصانیف | عبداللہ کی گیارہ تصانیف ہیں۔

کتاب الزہر۔ کتاب البدیع۔ مکاتبات الاخوان بالسر
کتاب الجوارح والسعید، کتاب السرقات، کتاب اشعار الملوک، کتاب
الادب، کتاب علی الاخبار، طبقات الشعراء، کتاب الجامع فی الغناء،
کتاب ارجوزہ فی ذم الصبوح۔

۱۳۴۷ھ فہرست ابن ندیم ص ۱۶۸ و ابن خلکان ج ۱۲ ص ۲۵۸

خلیفہ قاہر باللہ

نام و لقب | ابو منصور محمد قاہر بن خلیفہ احمد معتز بن برہ ام ولد قبول نامی کے لطن سے تھا۔ علمی استعداد معمولی تھی۔ مقتدر کی

مخالفات کی رنگ رلیوں میں یہ بھی اوائل عمر سے مبتلا تھا۔

خلافت | مقتدر کے قتل کے بعد مسئلہ خلافت پیش ہوا۔ امیر مولس کی مخالفت تھی۔ شہزادہ ابو العباس بن مقتدر خلیفہ بنایا جائے۔ مگر وہ کہ

سن تھا۔ اس لیے اسحق ثوبختی نے رائے دی کہ ہمیں ایسا شخص چاہیے جو امور نکلی انجام دے سکے۔ مولس کی سمجھ میں آ گیا۔ چنانچہ ۳۲۳ھ میں بوا محمد بن معتز کو قاہر باللہ کے لقب کے ساتھ تخت خلافت پر بٹھایا اور اراکین سلطنت نے بیعت کی۔

وزارت | منصب وزارت پر ابن مقلہ سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد ابو جعفر محمد بن قاسم بن عبداللہ، ابو العباس احمد بن عبید اللہ خصبی یکے بعد دیگرے وزیر ہوئے۔

حجابت | حاجب علی بن بلیق بدرخرشی اور فارس بن زنداق محمد بن یاقوت اور ساسہ موہن بہ رضی رنج یکے بعد دیگرے مقرر ہوئے۔

قضاة | قضاة پر عمر بن محمد بن یوسف بن یعقوب ممتاز ہوا۔

سخت گیری | قاہرہ سر پر آرائے خلافت ہونے کے بعد مقتدر کے ہمیشہ
 کے ساتھ سخت گیری کا برتاؤ کرنے لگا۔ حتیٰ کہ اُن کا مال و
 اسباب ضبطی میں لاکر فروخت کر دیا۔ اور مقتدر کی ماں جو مرض استسقا میں
 مبتلا تھی اور بیٹے کے رنج و غم میں زندگی کے دن گزار رہی تھی اس کی
 سخت لے کر مٹی تھی، اور اس نے کار خیر میں جو وقفہ کئے تھے اُن کو منسوخ
 حکمہ قصاۃ کے سامنے کیا۔ قاہرہ کے جو رفیق مولس، بلیق علی بن بلیق۔ ابو
 علی بن مقاہرہ ایک سے چٹخ گئی۔ یہ تو قاہرہ کی فکر میں لگے اور یہ ان کے قتل
 کے درپے ہوا۔ ان واقعات سے مقتدر کا لڑکا عبدالواحد مدائن چلتا ہوا
 اور عمال سوس اور اہواز کو اُن کی جگہ سے ہٹا کر خود یہاں کا خراج
 وصول کیا۔ امیر ہارون بن غریب نے تین لاکھ نذر کر کے قاہرہ سے مسل کر
 لیا اور اس کو مار الکوفہ، ماسبداں اور مہر جانقذف کا حاکم بنا دیا اور
 شہزادہ عبدالواحد کے مقابلہ کے لیے امیر بلیق بھیجا گیا تو وہ تاب مقابلہ
 نہ لاسکا تو اس نے مولس کی معرفت خلیفہ سے قصور معاف کرا لیا۔ خلیفہ
 اس سے رخصتا مند ہو گئے اور انھوں نے اس کی ضبط شدہ جائداد اور
 اس کی ماں کی دولت اُس کو واپس کر دی۔

خلیفہ اور امراء کی باہمی کشمکش | امیر بن یعقوب میں اور ابن مقلہ میں
 پرانی مخالفت اور خصومت تھی

امیر یعقوب نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا تو ابن مقلہ اور امیر مولس اور
 امیر بلیق نے باہم مشفق ہو کر یہ طے کر لیا کہ قاہرہ کو تختِ خلافت سے اتار

دیا جائے۔ خلیفہ کو ان کے مشورہ کی خبر لگ گئی تو اس نے بلقی اور امیر علی،
 اور مونس کو بلا کر اپنے غلاموں کے ہاتھوں ٹہکا لے لگا دیا۔ ابن مقلہ رویش
 ہو گیا جس سے اس کی جان بچی، وزارت کی جگہ خالی ہوئی تو ابو جعفر محمد
 بن قاسم کو وزیر بنا دیا اور امیر احمد بن مکتفی کو یہ امراء تخت خلافت پر بٹھانا
 چاہتے تھے اس کو گرفتار کر کے دیوار میں چبوا دیا۔ ابو اسحاق کو بختی جس نے
 قاہرہ کو تخت نشین کرایا تھا اس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور قتل کرا
 دیا۔ اس کی ان حرکتوں سے اراکین سلطنت اور امراء دولت میں اس کی
 طرف سے بے حد بددلی پیدا ہو گئی۔ ابن مقلہ نے بحالت روپوشی فوج کے
 افسران سے جوڑ توڑ کر کے ساحیہ اور حجریہ فوج کو ملا لیا اور چہار شنبہ ۵
 جمادی الاول ۳۲۲ھ میں دونوں فوجوں نے قصر کو گھیر لیا۔ قاہرے نوشی
 میں مشغول تھا۔ اسے فوج کی آمد کا علم ہوا تو وہ باہر نکل آیا فوجیوں نے
 گھیر کر گرفتار کر لیا اور آنکھوں میں نیل کی سلانیاں پھردیں اور قید میں آ
 انتقال | چھ سال زندہ رہ کر ۳ سال کی عمر میں ۳۳۸ھ میں قاہرہ
 انتقال کر گیا۔ صرف ایک سال ۷ ماہ حکمران رہا۔

وزیر ابن مقلہ | ابو علی محمد بن علی بن مقلہ، یہ بڑا فاضل اور اپنے عہد
 کا بڑا باکمال خطاط تھا۔ اس کے زمانہ میں اس فن میں
 کوئی اس کا مقابل نہ تھا۔ اس نے خط کوفی میں ترمیم کر کے ایک نیا خط ایجاد
 کیا جس کو خط نسخ کہتے ہیں۔

۱۵ البتہ والاشراف ص ۲۸۳

ابن مقلہ کسی دفتر میں معمولی کلرک تھا۔ پھر ابن فراتس کے دامن سے وابستہ ہو گیا پہلے مقتدر اور پھر قاہرہ کا وزیر رہا۔ راضی کے زمانہ میں اس کو بہت عروج حاصل ہوا۔

زنگ گوراجس پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ قدمیانہ خوش اندام
قاہرہ کا حلیہ آنکھیں خوبصورت، گھنی داڑھی، زبان میں نکست تھی

اوصاف قاہرہ | قاہرہ بڑا بہادر اور دبدبہ و شکوہ کا خلیفہ تھا لیکن مزاج
 میں تلون تھا۔ مسعودی کا بیان ہے کہ

قاہرہ کے تلون اور غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے اس کی سیرت
 کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ جری بہادر اور سخت گیر
 تھا۔ چند دنوں کے اندر اس نے تونس، بلیق اور علی جیسے
 عمائد سلطنت کا خاتمہ کر لیا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی
 ہیبت بھیک گئی۔ اس کی سخت گیری نے خلفاء کے مقابلہ
 میں امراء کی گستاخانہ جسارت ختم کر دی۔ مگر چونکہ اس کے
 کسی کام میں ثبات و استقلال نہ تھا اور وہ لوگوں کو دھمکاتا
 رہتا تھا اس لیے انجام اچھا نہ ہوا۔

علامہ مسعودی کا بیان ہے۔

قاہرہ قتل و خونریزی میں علبابز اور نہایت تند مزاج اس
 کے عہد میں آمدنی کم تھی۔ تاہم مال اندوختہ کرنے میں حریص تھا

۱۔ العینہ والاشراف ص ۲۸۳ ۲۔ مردج الذہب ج ۶ ص ۲۸۷

اس کی توجہ لوگوں کی تادیب و تربیت میں بہت کم صرف ہوتی
 تھی۔ معاملات کے انجام سے لے کر اور نہایت تلوون مزاج
 اور مخبوط الحواس تھا۔ آبا و اجداد کے نفس قدم پر چلنا چاہتا مگر
 سویر تدبیر اور ناقص سیاست کے سبب عاجز رہتا تھا۔

چند اصلاحات | قاہر نے چند روزہ سلطنت میں کچھ مذہبی اصلاحات بھی
 کیں۔ ناخن والی عورتوں اور پیشہ وروں اور شراب
 نوشی کو قانوناً بند کر دیا تھا۔ گولیوں اور پھڑوں کو خارج البلد کر دیا تھا۔ موسیقی
 اور ہجو و لعین کے تمام لوازمات ضائع کرا دیے۔ معینہ کنیزوں کو فروخت کر
 ڈالا مگر خود سے نوشی میں مدہوش رہتا۔

شبستان عیش | ایک طرف تو اہل ملک کے لیے بندشیں تھیں دوسری طرف
 خود اپنے لیے شبستان عیش میں ساقی گری کے لیے قد و
 قامت کی حسین و جمیل لونڈیوں کا پراکھٹا جو زرق برق مردانہ لباسوں
 میں ملبوس رہتی تھیں۔

باغ و محل | قاہر کو باغات سے دلچسپی تھی۔ اس نے بڑا وسیع باغ لگوا یا تھا
 اور اس میں ایک عالی شان محل تعمیر کرایا۔ باغ کی زمینت اول
 محل کی آرائش کے لیے مختلف ملکوں سے درخت اور سامان آرائش منگوائے
 گئے۔ یہاں قاہرہ رنگ ریلیاں منایا کرتا تھا۔

۱۷۲ التبیہ والاثرات ص ۱۸۳ ۱۷۳ تاریخ الخلفاء ص ۳۹۶ ۱۷۴ مروج الذهب

ص ۳۹۶ ۱۷۵ تاریخ الخلفاء ص ۳۹۶ ۱۷۶ مروج الذهب ص ۱۷۲

علماء اقاہر کے عہد میں طحاوی شیخ احنیفہ ابن ورید، ابوالاسم بن جبائی سے
علمائے کرام نے انتقال کیا۔

سلاطین دیالمہ بالویہ

سلاطین دیالمہ کو مورخ بہرام گور کی نسل سے بتاتے ہیں اور بعض لکھتے
ہیں کہ یہ لوگ یزد حرین شہر یار آخر لوک عجم کی نسل سے تھے دیالمہ جمع ہے ویلم
کی۔ ویلم مقام کا نام ہے اُس کو جبیلان بھی کہتے ہیں جس کا شہ نشین شہراودبار
تھا جو بحر خزر کے جنوبی مغربی ساحل پر واقع تھا۔ ایک زمانہ میں ریوان کا صوبہ
بنا۔ پہلے یہاں بت پرست تھے اطروش کی تبلیغ کی وجہ سے بلاد ویلم میں اسلام پھیلا۔
اطروش کے واقعات تحریر ہو چکے ہیں۔

ابوشجاع بوہ ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا جس کے تین بیٹے علی جن
احمد تھے۔ بڑھتے بڑھتے شاہی درجے تک پہنچے۔ اور خلفائے بغداد کی طرف
سے ہما والدولہ، رکن الدولہ اور معز الدولہ کے لقب سے ملقب ہوئے
فارس اور کرمان کی زبردست سلطنت ان کے اور ان کی نسل کے ہاتھ میں
عرصہ تک رہی۔ خلفائے بغداد ان کے عروج کے پہلے کچھ دنوں سے
اراکین ترک کے ہاتھ میں تھے۔ اب ان سے نکل کر ان کے ہاتھ میں آگئے
یہ لوگ خلفائے عباسیہ کا احترام کرنے تھے لیکن محض مصالحت مکی پر نظر

ڈال کر، خلفا بھی ان کی مدد سے کسی طرح بے نیاز نہ تھے خلیفہ مقتدر کے زمانہ
 (۳۳۵ھ) میں اس خاندان کی ابتدا ہوئی۔ محمود غزنوی کے عہد میں ڈال
 شروع ہوا اور پھر سلجوقیوں کے عہد میں ابوالمنصور میراس کا خاتمہ ہو گیا۔
 اس خاندان میں چھ بادشاہ ہوئے جن کی مختصر کیفیت ذیل میں درج
 کی جاتی ہے۔ ورنہ بہت کچھ حالات خلفائے عباسیہ کے حالات میں درج
 کئے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی مستقل پایہ تخت نہ تھا مختلف مقامات پر یہ لوگ
 رہتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں اس خاندان کے دو تین
 اشخاص کی جدا جدا خود مختار حکومتیں قائم رہیں۔

لیکن ایک مستقل سلسلہ انہیں لوگوں کا ہے جو خلفائے بغداد پر حاوی تھے
 اور دوسرے وہ سلاطین ہیں جو بغداد سے الگ اصفہان، کرمان اور فارس
 میں رہے۔ ان دونوں گروہ کا بیان یکجا کیا جاتا ہے۔ ناظرین پڑھتے وقت اس
 کا لحاظ رکھیں تاکہ غلط بحث سے غلط فہمی نہ ہو۔

عما والدولہ (۳۳۵ھ) خلیفہ مقتدر کے گورنر یا قوت کو شکست دے
 کر اس نے چار صدی کی ابتدا میں فارس پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی رکن الدولہ
 کو بھیج کر عراق فتح کیا اور معز الدولہ کو کرمان بھیجا جو کرمان فتح کر کے بغداد پر
 بھی مستولی ہو گیا جیسا کہ ذکر تفصیلی آچکا ہے۔ (شجارب الامم جلد ۶ ص ۱۱۷)
 رکن الدولہ (۳۳۵ھ) متوفی (۳۶۵ھ) اس کی حکومت کا زمانہ
 بہت کم تھا عما والدولہ تو اس کے بیٹے عضد الدولہ کو اپنا ولی عہد کر گیا تھا۔
 لیکن معلوم نہیں کہ کیوں کر یہ تخت نشین ہو گیا۔ ظاہر لڑکے نے باپ سے لڑنا

پس نہ نہیں کیا۔ مرتے دم اس نے کرمان۔ اہواز، فارس، عسند الدولہ کو دیا ہوا
 رہے اور طبرستان کی حکومت اس نے اپنے دوسرے بیٹے فخر الدولہ کو اور
 اصفہان کی حکومت اپنے تیسرے بیٹے مؤید الدولہ کو دے کر ان دونوں کو
 تاکید کی کہ وہ عسند الدولہ کے مطیع رہیں (ابن اثیر جلد ۶ ص ۲۲۱)

معز الدولہ (۳۲۲ھ) معز الدولہ کو جب اس کے بھائی عماد الدولہ
 نے فتح کرمان کے لیے بھیجا تو اس نے کرمان فتح کیا۔ اس کے بعد بغداد کے
 حاکم سے اہواز چھین لیا۔ بغداد پر کبھی تین مرتبہ حملے کرنے کے بعد اس نے
 قبضہ کر لیا۔ خلیفہ کا امیر الامرا تون جب تک زندہ رہا معز الدولہ کو کامیابی
 نہ ہوئی۔ اس کے مرنے پر ابن شیرزاد اس کا قائم مقام تاج مقابلہ نہ لاسکا
 خلیفہ مکتفی کی مجلس میں آکر اس نے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے اور اپنے
 دونوں بھائیوں کے لیے معز الدولہ، رکن الدولہ، عماد الدولہ کے خطاب
 حاصل کیے (تجارب الامم جلد ۶ ص ۸۵)

معز الدولہ (۳۲۲ھ) لیکن بیعت اور خطاب کی عجیب نوعیت تھی
 کہ بظاہر اس کی ضرورت کچھ نہ تھی۔ لیکن اس کے حاصل کرنے کو محمود ایسے
 سلطان نے بھی اپنا فخر سمجھا تو سلاطین دیالہ مقابلہ اس کے کس شمار میں تھے
 بصرہ پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کا قیام بغداد میں بطور سپہ سالار خلیفہ کے تھا

پہلی بار خلیفہ کے بعد ہی سے بڑا شتم کو غیر قبائلیہ میں خلافت کا جانا کسی قدر ناگوار ہوا لیکن
 اس میں شبہ نہیں کہ دونوں خلفا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے حسن انتظام نے عام
 طور پر اس خیال کو کھو دیا۔ حضرت عثمان کے وقت کے جھگڑوں نے مضمون کو کھپتا رہا
 رقیبہ نوبہ صفحہ ۱۶۶

عضد الدولہ بن رکن الدولہ (۳۳۵ھ) متوفی ۳۷۲ھ۔ یہ اپنے چچا کی جگہ فارس اور کرمان کا بادشاہ ہوا۔ اس نے نجف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تربت بنا کر ایک عالیشان عمارت اس پر قائم کی اور اسکو زیارت گاہ قرار دیا

(صفحہ ۷۵، اکا بقیہ نوٹ) کر دیا۔ لیکن نہ اس طور کہ یہ کوئی مذہبی رکن قرار پا جائے امیر معاویہ کے ساتھی شیعان علی کو اور شیعان علی کے ساتھی امیر معاویہ کو علائقہ اور بالالتزام براہ کتے تھے لیکن یہ ایک پولیٹیکل بحث تھی مذہبی بات نہ تھی۔ خلفائے عباسیہ نے شروع شروع ہوا مسیہ کی بہت کچھ توہین اور ان پر ظلم کئے۔ لیکن محض پولیٹیکل خیال سے علویوں سے ان کا برتاؤ اچھا بھی رہا۔ جب جب موقع ہوا۔ ویسا کیا گیا۔ سنیوں اور شیعوں کی جیسی تفریق اب ہے تین صدی تک نہ تھی اسکی ابتداء خاندان دیالمہ سے پڑی چنانچہ اخیر حکمران معز الدولہ نے تمام مساجد بغداد کے دروازوں پر حکم دیا کہ امیر معاویہ کے نام و دیگر صحابہ پر تبرالکھا جائے۔ اس سے شہر میں بڑا شور و غل پیدا ہوا۔ معز الدولہ سے خلیفہ رہتا تھا اور معز الدولہ کو اپنے فعل پر اصرار تھا بہر حال وزیر محمد بن ہمدانی کی حکمت عملی سے سوائے امیر معاویہ کے اور سب عبارت نکال دی گئی۔ مجھلا لکھ دیا گیا کہ معاویہ اور آل رسول پر ظلم کرنے والے قابل بیزاری ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل مصلحت بس عموماً یہی مذہب سلاطین ہے اس میں شک نہیں کہ آل رسول میں ایک توفیق رسول کا اثر نسلاً بعد نسلاً عرصہ تک قائم رہا دوسرے ان کا مظلوم رہنا اور سلطنت کے ہول و لعب سے دور رہنا اور بھی کام دے گیا اپنے اخلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی رہائی کے صفحہ پر

باوجودیکہ فرضی مزار ہے ورنہ حضرت علی بقول ابن تیمیہ قصر امارت کو فہ من دن
 کئے گئے۔ اس نے جوڑ بند سے قیصر روم سے اپنے لیے ہدیہ اور تختہ منگولے
 اور اس طرح اپنے کو عام نظروں میں معزز ثابت کیا۔ یہ بڑا زبردست
 بادشاہ گذرا ہے۔ شہر بغداد کی اس نے بہت کچھ قدر اور منزلت بڑھائی
 بغداد اور مکہ کی راہ میں جتنے کنوئیں اور نہریں خراب ہو گئی تھیں سب کو
 اس نے درست کرایا۔ مکہ، مدینہ، نجف اور کربلا میں اس نے غراب کے لیے
 روپے بھیجے اور شکستہ گرجاؤں اور خانقاہوں کی مرمت بھی کرائی اس
 کا وزیر نصر بن یارون نصرانی تھا۔ چونیس برس تک اس نے سلطنت کی یہ

رچنے صفحہ کا بقیہ نظروں میں اولاد علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی وقعت پیدا کی۔ دینی امور
 میں بس یہی لوگ نمونہ رہ گئے۔ پیغمبر خدا کے بعد مسلمانوں میں جو وقعت حسنین کی تھی اس سے
 کہیں زیادہ وقعت عام مسلمانوں کی نظر میں اولاد حسنین نے دو صدیوں کے بعد پیدا کی
 چنانچہ ابو عباس پر فوق حاصل کرنے کی یہ حکمت سو بھی کہ آئی علی کا اپنے کو شدید اظہار
 کیا۔ کسی کی ذاتی عقیدت سے یہاں بحث کرنا نہیں ہے۔ محض اس قدر ظاہر کیا جاتا،
 کہ خلافت کے جھگڑے کو جزا جان قرار دینا اور اہل تشیعہ کے مذہب کو اہل سنت و جماعت
 سے الگ کر کے دکھانا۔ یعنی مذہب اسلام کو یوں دو مستقل حصوں میں تفریق کرنا اس عبت
 کا بانی معزالدولہ ہوا اور اسی خیال کے مؤید اکثر سلاطین و پالہ تھے ورنہ اس کے پہلے
 یہ باتیں مسائل جزئیہ کی طرح مانی الذہن رہتی تھیں اپنے مخالف خیال والے کو کوئی
 مذہبی طور پر عیب نہیں سمجھتا تھا۔ بعد و پالہ کے فارس کے صفوی خاندان زبانی بڑے فخر سے

اس خاندان کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ اس کے عہد میں بغداد کی حکومت ہارون الرشید کی حکومت کے برابر وسیع ہو گئی۔ اس نے خلیفہ الطالع کی لڑکی سے شادی کی اور اپنی لڑکی اس کے عقد میں دی تاکہ اس سے جو اولاد ہو وہ خلیفہ بن سکے۔ اس نے رفاہ عام کے کام کئے۔ اس نے بغداد میں ایک لاکھ دینار کے وقفے کے ساتھ بیمارستان الدندی تیار کرایا۔ بغداد کا پایہ تخت شیراز تھا۔ لیکن بغداد اور دوسرے شہروں پر بے حد روپیہ صرف کیا۔

مؤید الدولہ بن رکن الدولہ (۳۶۲ھ) اپنے بھائی عضد الدولہ کے وقت میں یہ اصفہان کا حاکم تھا اور عضد الدولہ کا مطیع تھا۔ عضد الدولہ کے مرنے کے پھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ بھی مر گیا۔ اس نے صرف اپنے بھائی فخر الدولہ سے جنگ کی تھی۔ اس لیے کہ وہ عضد الدولہ کو سرتابی کر کے خراسان چلا گیا تھا اور وہاں سے سامانیوں کی مدد سے مؤید الدولہ کے مقابلہ کو آیا تھا جیسا کہ نوح بن سامانی کے حال میں لکھا گیا ہے اس کی حکومت کا زمانہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا لیکن بادشاہت ۳۶۲ھ میں ہوئی۔ کہ یہی عضد الدولہ کی وفات کا زمانہ ہے۔

فخر الدولہ بن رکن الدولہ ۳۶۳ھ متوفی ۳۸۵ھ دونوں

رہتیہ نوٹ) نے بھی اس جزوی مسئلہ کو خوب روشنی دی اور رفتہ رفتہ سنیوں اور شیعہوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا جو مسلمانوں کی تباہی کا سبب بنا۔

بجائیوں کے مرنے پر امرائے دولت نے اس کو خراسان سے جہاں یہ بجائیوں کے خوف سے جا چھپا تھا، بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس کے لیے صمصام الدولہ نے بلینہ بغداد سے خلعت بھجوائی اور اسی طرح ایک مدت کے بعد ملک رومی آسانی سے قابض ہو گیا۔ یہ ذمی علم تھا۔ اس کے عہد میں علمی ترقی بہت ہوئی اس کا وزیر ابن عباد تھا جو علم و فضل میں یگانہ روزگار۔ امیر بخارا نے درودہ اپنی وزارت کے لیے طلب کیا۔ ابن عباد نے نہ آسکنے کے لیے و عذر لکھے اس میں یہ بھی تھا کہ صرف میری کتابوں کے اٹھانے کے لیے پارہ سوا ڈیڑھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر محمود کے ہمراہ سفر میں صرف ادب کی کتابوں کے تیس اونٹ رہتے تھے۔

صمصام الدولہ - علاء الدولہ کے مرنے پر صمصام الدولہ بغداد کا امیر الامرا بنا۔ اس کو اتار کر شرف الدولہ نے اپنے کو امیر الامرا بنا یا ڈیڑھ برس کے بعد اپنی موت مر گیا۔ اس نے رصد گاہ بنوائی۔

بہار الدولہ بن عضد الدولہ (۳۶۸ھ) شرف الدولہ کے مرنے پر یہ امیر بغداد ہوا۔ ۳۷۸ھ میں یہ مرا۔ اور اس کا تابوت شہد امام علیہ السلام میں بھیجا گیا (ذیل تجارب الامم ص ۱۶۷)

مجد الدولہ بن فخر الدولہ (۳۸۸ھ) فخر الدولہ کے بعد اس کا نائب بنا۔ مجد الدولہ تخت پر بیٹھا لیکن انتظام سلطنت اس کی راجد الدولہ کی والدہ کرتی تھی اور اپنی زندگی تک سلطنت و ملی کی رولت اس نے قائم

رکھی سلطان محمود غزنوی نے اس پر چڑھائی کرنی چاہی تھی اس نے کہلا بھیجا کہ یہ
 بیوہ پر فتح یا بی سے محمود کا کیا نام ہوگا اور کہیں شکست ہوئی تو ذلت
 بڑی ہوگی۔ محمود نے پھر اس کی زندگی میں ادھر تو جہنہ کی لیکن اس کے
 مرتے ہی محمود نے اس پر چڑھائی کر کے اور مجد الدولہ کو گرفتار کر کے
 غزنی بھیجا اور خلیفہ قادر باللہ کو لکھا کہ مجد الدولہ کا چلن شرع محمدی
 کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نے ایسا کیا۔

سلطان الدولہ بن بہار الدولہ (۳۷۰ھ) اپنے باپ کے بعد
 یہ فارس اور بغداد میں حکمراں ہوا۔ اس کے ملک کو زیادہ تر محمود غزنوی
 نے کمزور کیا اور کچھ خانہ جنگیوں نے خراب کیا۔

شرف الدولہ بن بہار الدولہ (۳۷۱ھ) میں شرف الدولہ
 کا نام بغداد کے خطبہ میں داخل ہوا۔ اور سلطان الدولہ کا نام متروک
 ہوا۔ شرف الدولہ علمی مذاق کا حکمراں تھا۔ ابراہیم بن ہلال اس کا نایم تھا
 (تجارب الامم جلد ۶ ص ۱۰۱)

ابو کالنجا بن سلطان الدولہ۔ محمود کا اور بغداد پر ترکوں کے حملے
 ویالہ کی باہم لڑائیاں۔ اس پر طرہ یہ کہ تین بادشاہ کالنجا و جمال الدین و قوام الدولہ
 باہم جھگڑتے ہیں مشغول ہوئے ملک میں بد امنی تھی سلطنت ویالہ کے ضعف کے
 ساتھ خلافت کو بھی ضعف تھا پہلے سلاطین ویالہ سے ملک کو فوجی تقویت
 تھی اور خلفائے درباری عزت تھی۔ ترکوں نے پھر زور پکڑا اور بجائے
 ملک غزنی کے سلجوقیوں کا زور شروع ہوا جس کا اثر بغداد تک پہنچا۔

خسرو بن فیروز بن کالجار۔ اس بادشاہ کا لقب ملک رحیم تھا اس کے وقت میں ویالمہ نے چاہا کہ متفقہ طاقت سے وہ اپنے کو سنبھال لیں لیکن سنبھال نہ سکے۔ خلیفہ نے بھی ان کی عزت کم کر دی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ملک رحیم کے پہلے طغرل بیگ کا نام خطبہ میں پڑھا جائے

طغرل بیگ خلیفہ کی اجازت سے حج کو چلا۔ راہ میں وہ خلیفہ سے ملنے کو بھیرا۔ ویالمہ اپنی غلط فہمی سے طغرل بیگ کے سامنے ترکوں سے لڑ پڑے اور مغلوب ہوئے۔ تمام شہر میں لوٹ مار ہوئی۔ خسرو کو طغرل قید کر کے لے گیا۔ لیکن ابو منصور بن ابو کالجار کو ایک موقع مل گیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے فارس کا بادشاہ ہو گیا اور پھر اپنے سپہ سالار فضل بن حسن کے ہاتھ سے جس کی نسل کو مورخ فضلویہ کہتے ہیں ۳۷۸ھ میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ویالمہ کا خاتمہ ہو گیا۔ فضلویہ کو بھی پھوڑے ہی دنوں میں ملک قادر سلجوقی نے بھگا کر اپنا سکھ اور خطبہ جاری کیا

علمی ترقی | خاندان ویالمہ علمی ذوق و شوق میں کسی دوسرے فرماڑو سے کم نہ تھا۔ عضد الدولہ کے وقت میں خزانہ دار فلسفی و مورخ ابو علی ابن مسکویہ متوفی ۵۶۶ھ تھا جس کی کتابیں تہذیب الاخلاق، اور فوز الاصغر، تجارب الامم علمی دنیا میں بلند پایہ سمجھی گئیں۔

عضد الدولہ کے نام علی الفارسی نے اپنی کتاب الایضاح معنون کی

علمی کتاب التاج لابن ہلال و ناسخ التوارمخ۔ آثار الباقیہ و ابن اثیر و ابن خلدون۔ تجارب الامم۔ ابن مسکویہ جلد ۶

متنبی عرب کا مشہور شاعر اس کا مدح خواں تھا۔ اس کی تعریف میں اس نے معرکہ کے قصیدے لکھے ہیں۔ عضد نے پہلے پہل اپنے کو شہنشاہ کہلایا۔ عضد خلیفہ ماموں کی تقلید کرتا تھا۔ علماء کو مال مال کر دیا۔ شعراء کو بڑے انعام دیے۔ مدرسہ بغداد بنایا۔

عضد کا بیٹا شرف الدولہ اپنے باپ کے قدم بقدم چل کر علمی کاموں کو فروغ دیتا رہا۔ مدرسہ بغداد کو باپ سے زیادہ ترقی دی۔ ابن اعظم عبدالرحمن الصوفی الوفا فکی اس کے ندیم تھے۔ اس نے بغداد میں ایک رصد گاہ قائم کی اس کے لڑکے بہار الدولہ نے خلیفہ الطالع کے عہد میں بغداد میں دس ہزار کتابوں کا ایک کتب خانہ قائم کیا۔ المقرئ نے اس کتب خانہ سے بہت استفادہ کر کے علمی دنیا میں شہرت پائی۔ انہیں بوسیداطین ہی کے زمانہ میں اخوان الصفا کی جماعت قائم ہوئی جس نے علمی رسائل مرتب کئے۔ شہر مہر جان میں عظیم الشان شفا خانہ بنوایا۔ ان کے کارناموں پر مستقل تاریخیں ہیں۔

علماء دربار سلطین و پالہ

ابراہیم بن ہلال ابن ابراہیم بن زروان لصافی کنیت ابواسحاق ہے اس کی اصل خزاں

کی ہے ۱۵ رمضان ۳۱۳ھ میں پیدا ہوا اور بغداد میں علمائے عصر و کتاب علم کیا۔ علم ادب میں ماہر اور ضاعت نظر و نظر میں بڑا باخ نظر تھا۔ اس کے ساتھ علوم ریاضی میں دستگاہ کامل تھی۔ بالخصوص علم ہیئت و ہندسہ میں

۱۵ تاریخ عرب موسیو سید یوس ۲۱۲ھ؛ ایضاً

ید طولی حاصل تھا۔ شرف الدولہ بن عضد الدولہ دہلی نے بغداد میں زیر نگین کرانی
 دہ بھٹی بن ستم کو ہی رصد بنانی چاہی۔ اس زمانہ میں ابراہیم دربار شرف
 الدولہ میں پہنچے۔ بادشاہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ قدر و منزلت بھی بڑی ہوئی
 رصد کے سلسلہ میں ان کا مشورہ لیا۔ مگر حاسدوں نے چین لینے نہ دیا کچھ
 عرصہ قید میں رہے۔ ۱۲ شوال ۷۳۸ھ میں انتقال ہوا۔ کتاب التاجی
 آل بویہ یاد گار ہے۔

ابو محمود حامد بن الخضر انجندی کبار فلکین سے تھا۔ اس کا تعلق فخر الدولہ
 دہلی کے دربار سے رہا۔ اس نے ایک آلہ رصد موسوم بہ سدس الفخری ایجاد
 کی اس آلہ کی مدد سے آمیال و عرض البلاد کی رصد کی جاتی تھی۔
 ۸۲ھ میں اس کا انتقال ہوا۔

ابو ہبل و یحییٰ بن رستم اکلوسی، علم ہیئت کا ماہر، متجرب، شرف الدولہ کے
 دربار کارکن تھا۔ اس نے ہی رصد گاہ قائم کی تھی۔ جس کا ذکر پہلے آچکا
 ہے۔

ابو الحسن کوشیار بن کنان ابجلی۔ اس نے ایک نہایت عمدہ رصد خانہ
 تیار کیا تھا۔ ۷۵۷ھ میں اس نے کثیر فلکی مشاہدات کے اس کی اربع البجام
 ولسامع مشہور ہے۔

ابو الفاضل محمد بن محمد النور جانی الصفا فی علمائے ہیئت میں مشہور شخص ہے
 علم مثلث اور ہیئت میں مفید احسانے کئے۔

ابو فلاسفہ اسلام از انتظام التدریجی

کتاب صحیح التذکرۃ والاعمال من الحساب تصنیف سے ہے۔ ۳۸۸ھ
میں انتقال ہوا۔

شریف بن الا علم عبدالرحمن صدوقی کا معاصر تھا۔ فن ہیئت میں اس
کا جہد و دل مشہور ہے۔ عضدالدولہ کو اس کی شاگردی پر منحرف تھا۔ ۳۸۵ھ
میں فوت ہوا۔

ابوالحسن عبدالرحمن الصدوقی الرازی اکابر ماہرین ہیئت کتاب
الکواکب الثابتہ مدخل فی الاحکام۔ رسالہ فی الاضطراب اس کی تصنیف
سے ہیں۔ ۳۸۵ھ میں فوت ہوا۔

وزیر ابوالقاسم اسمعیل بن عباد | فخرالدولہ کا وزیر سلطنت تھا بحفاظت علم و فضل
نظر تھا۔ مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ تصنیف و تالیف میں بھی
اس کو دستگاہ کامل تھی جو رسائل اس نے لکھے تھے وہ بہت مشہور اور مدون
ہیں اس کے کتب خانہ میں اس قدر کتابیں تھیں کہ کسی نے اس قدر جمع نہ کی ہوں گی
کہا جاتا ہے کہ اس کا کتب خانہ چار سو اونٹوں پر بار کیا جاتا تھا ابوالقاسم نے
۳۸۵ھ میں بمقام رے انتقال کیا۔

۱۰ ابن اثیر (بیرونی) ص ۱۰ - ۱۹ ابن خلدون جلد سیزدہم ص ۱۶۸ -

خلیفہ راضی باللہ

نام و نسب | ابو العباس احمد مقتدر بن معتضد بن طلحہ بن متوکل ^{لہ} علوم نامی
 رومی کینز کے شکم سے ۲۹۶ھ میں پیدا ہوا۔
 تعلیم و تربیت | مقتدر نے علمائے عصر سے تعلیم و لوائی۔ علامہ لجوی
 سے احمد نے حدیث کی سماعت کی۔ ادب اور شاعری
 سے دلی لگاؤ تھا۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

راضی عقیل۔ سخی، ادیب، شاعر، فصیح آدمی تھا۔ علماء
 کی خدمت کیا کرتا اور اچھے شعر کہتا۔

خلافت | قاہرہ کی گرفتاری کے بعد احمد بن مقتدر اپنی ماں کے ساتھ مقید
 تھا۔ مراے سلطنت نے اسے آزاد کر کے روز پختنبہ ۶ جمادی الاول
 ۳۲۲ھ میں اس کو بیعت کر لی راضی باللہ کے لقب سے لقب ہوا۔
 حاجب | محمد بن یاقوت رہا۔

وزارت | راضی علمی ذوق کا فرو تھا۔ وزارت کے لیے ابن مقبلہ پر نظر
 پڑی اس کو ہی منصب وزارت پر مقرر کیا۔ عنان وزارت

۲۸۴ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۰۸، ۲۰۹ ۲۱۰ھ تہذیب اشرف ص ۲۸۴

ہاتھ میں لیتے ہی اپنے دشمنوں سے نیک سلوک سے پیش آیا۔ مگر امیر محمد بن
یا قوت اس سے کھٹکتا ہی رہا راضی کے آغاز عہد میں تمام امور وزیر ابن
مقلہ اور مذکورہ الذکر ابن یا قوت کے اختیار میں تھے۔

حنا بلہ | حنا بلہ امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہیں راضی کے عہد میں
انہوں نے معاصی کا چاروں طرف چرچا دیکھا تو اصلاح کرنے کا اہم
باجزم کر لیا۔ افسروں اور عوام کے گھروں میں گھس کر تلاشیاں لیں شراب
کے قرا بے توڑ دیے۔ معینہ عورتوں کو سزائیں دیں مزا میر کو بے کار کر دیا
مگر بے حد غلو کو کام میں لاسے تو ان کے متعلق مخالف علماء نے علول و
تشبیہ کی ہمت رکھ کر حکومت سے ان کو پٹا دیا اس میں بہت سے ظلم
و تشدد کے شکار ہوئے

ابن مقلہ آگے چل کر ابن مقاہ معطل ہو کے رہ گیا تو خلیفہ سے لگائی بجائی
کر کے ابن یا قوت اور اس کے بھائی مظفر کو قید کر دیا۔ مگر مظفر نے ابن
مقلہ سے عہد لے کر آزاد کر دیا۔ مگر اس نے فوج کو سخاہ کے سلسلہ میں
بھڑکا دیا۔ اس نے ابن مقلہ کو گھیر لیا اور معزول کر دیا۔ علی بن عیسیٰ سے
وزارت کے لیے کہا اس نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی سفارش کی وہ وزیر ہو گیا
مگر ملک کی حالت بگڑ چکی تھی۔ مستعفی ہو گیا۔ اس پر اسے ۷ ہزار وصول
کیے اور عیسیٰ سے ایک لاکھ کا جرمانہ وصول کیا۔ منصب وزارت پر ابو
جعفر کرخی سرفراز کیا گیا۔

بغاوت ہارون بن غریب | ہارون بن غریب مقتدر کا ماموں زاد بھائی

تھا وہ قاسم کے عہد میں دینور اور ماسیندان کا حاکم تھا اس نے بغداد آ کر حکومت میں دخل ہونا چاہا۔ راضی نے اس کے ارادے سے مطلع ہو کر اس کو روکا مگر وہ ضد کر گیا اور بغداد روانہ ہو گیا۔ راضی نے حاجب محمد بن یاقوت کو اس کے مقابلہ پر بھیجا۔ ہاروں نے اسے شکست دے دی۔ گھوڑا حاجب کے پیچھے ڈال دیا۔ بد قسمتی ہو گھوڑے نے گھوڑا کھائی یہ نیچے آ رہا۔ اس کے غلام بن نے انعام کے پانچ سے اپنے آقا کا سر کاٹ لیا اور حاجب کو نذر کیا۔

عماد الدولہ کا اقتدار | دولت عباسیہ زوال کے دور میں گذر رہی تھی خود سر اور حوصلہ مند لوگ اپنی حکمرانی قائم کرتے جا رہے تھے۔ مگر یہ رسم البتہ باقی تھی کہ عباسی خلیفہ ان کی حکومت کی تصدیق کر دے۔ عماد الدولہ علی بن بویہ نے شیراز پر قبضہ کرنے کے بعد ابن مقاہ سے مقبوضہ علاقوں کی حکومت کی سند کی درخواست کی اور خلافت بغداد کی اطاعت کے اقرار کے ساتھ ایک رقم سالانہ پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ابن مقاہ نے وقت کے تقاضے سے منظور کر لیا اور راضی باللہ کی جانب سے خلعت اور لوہے کی حکومت بھجوا دی۔ اس سے اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اس کا حریف مروان بن محمد تھا۔ اس کو عماد الدولہ کا اعزاز ناگوار گذا۔ اس کی فوج کشی کر دی۔ عماد الدولہ نے اس کی دلجوئی کے لیے اس کا نام خطبہ میں اور اس کی اطاعت پر صلح کر لی۔

۱۸۶ ابن اثیر جلد ۸ ص ۹۱ ۱۵۱ بی القدا ج ۲ ص ۸۲

مگر مرداوینج کچھ دن بعد اپنے ایک ترک کے ہاتھ سے قتل ہوا تو اس کا
 بیانی و شہکار اس کا جانشین ہوا۔ عماد الدولہ کے لیے یہ موقعہ راس آیا۔ عراق
 اور خوزستان عباسی حکومت کا غاصبہ تھا۔ اس پر امیر یاقوت، عماد الدولہ،
 مرداوینج، بریدی ہر ایک کی نگاہ تھی۔ عماد الدولہ نے یاقوت پر حملہ کر کے مغلوب
 کر لیا اور ان علاقوں پر قبضہ جمایا۔ راضی نے یہ زنگ دیکھ کر فارس۔ عراق
 خوزستان کے علاقہ پر بھی باقاعدہ عماد الدولہ کی سرداری منظور کر لی۔
 عماد الدولہ نے شیراز کو مستقر بنایا۔

واقعات ناصر الدولہ حمدانی | راضی کی جانب سے امیر محمد حسن بن
 عبداللہ بن حمدان المقلب بہ ناصر الدولہ

موصل و دیار ربیعہ کا والی تھا۔ اس نے بھی اور امرائے سلطنت کی طرح
 ہاتھ پیر نکالے۔ اس کے چچا ابو العلاء بن حمدان نے خلیفہ راضی سے خفیہ طور
 سے ناصر کے مقبوضات کا ٹھیکہ لے لیا اور جب یہ موصل پہنچا۔ ناصر کو خبر
 لگ گئی۔ استقبال کے بہانے سے یہاں سے نکل گیا۔ ابو العلاء موصل پہنچا
 اسے معلوم ہوا کہ وہ میرے استقبال کے لیے دوسرے راستہ سے گیا ہے
 یہ اس کے مکان میں پھیرا۔ ناصر الدولہ نے واپس آکر اس کو گرفتار کر کے
 قتل کرادیا۔ راضی کو یہ واقعہ گراں گذرا۔ اس نے ابن مققلہ کو ناصر الدولہ
 کی گوشمالی کے لیے موصل روانہ کیا۔ ناصر نے راہ فرار اختیار کی ابن مققلہ نے
 موصل میں کچھ عرصہ رہ کر وہاں کا انتظام درست کیا

اور چلتے وقت علی بن طباب اور ماگرد و ملی کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ
گیا اور بغداد لوٹ آیا۔ ناصر بن مقلدہ کے بیٹے ہی موصل سے پہنچا۔ ان دنوں
عمال خلیفہ کو نکال باہر کیا اور موصل پر حکمرانی کرنے لگا۔ اور راضی سے
بھی عفو تقصیر کرایا۔

بنو فاطمی | عبید اللہ مہدی نے مغرب میں حکومت قائم کر لی تھی اس کے
انتقال پر اس کا بیٹا ابو القاسم محمد الملقب بہ القاسم بامر اللہ
بادشاہ ہوا۔

ابو عبید اللہ مہدی کے متعلق علامہ سید علی کی تحقیق یہ ہے کہ مہدی کا یہ دعویٰ کہ میں
علوی ہوں بالکل لغو ہے۔ کیونکہ یہ بات یہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مہدی کا دادا مجوسی
تھا چنانچہ قاضی ابوبکر باقلانی کہتے ہیں کہ عبید اللہ الملقب مہدی مجوسی مغرب
میں پہنچا اور علوی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن علمائے نسب میں سے کسی نے اس کے
دعوے کو نہیں مانا اور اصل وہ خبیث باطن تھا شراب و زنا کو جائز کر دیا تھا پس
برس حکمرانی کی لے

مصر میں دولتِ اخشیدیہ کا آغاز

۳۲۲ء میں راضی باللہ نے محمد بن طغج الاخشیدی کو مصر کا گورنر بنایا لیکن ابن طغج صرف گورنری پر قانع نہ ہوا بلکہ اس نے مصر کو مستقل طور سے اپنے قبضہ میں لانا چاہا اور اپنی حکومت بنا لینے کی تدبیریں کرنے لگا۔ راضی میں طاقت نہ تھی لہذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بلکہ اپنی سعی سے مصر مع شام کے اپنے قبضہ و تصرف میں لے آیا۔ راضی نے مجبوری ورجہ قطع تعلق کے بجائے اخشیدی کا لقب اس کو عطا فرمایا۔ اس طرح سے دولتِ اخشیدیہ کی بنا پڑی۔

امیر الامرائی | وزیر ابو جعفر نے بیت المال کو دیکھا کہ خالی پڑا ہے اور محمد بن رایت والی بصرہ اور ابو عبد اللہ بریدی والی اہواز نے

خراج روک دئے اور ابن بویہ نے صوبہ فارس پر قبضہ کر لیا۔ مطالبات کی کثرت اور بے مانگی سے تنگ آکر ابو جعفر روپوش ہو گیا۔ اس کی جگہ پر ابو القاسم بن سلیمان کو بلا یا گیا۔ لیکن وہ بھی نظام حکومت کو نہ سنبھال سکا۔ خلیفہ نے مجبور ہو کر ابن رایت سے خط و کتابت کی اور بعد ازاں میں بلا کر خلافت کے کل صوبوں

کے اخشیدی آل طولون کے مولیٰ میں تھا۔ ۳۲۳ء میں اپنی حکومت قائم کی جو ۳۵۸ء تک رہی اس کی اولاد میں سے ابو القاسم ابو جعفر بن اخشید۔ ابو الحسن علی بن اخشید۔ ابو المسک کا نور۔ مولیٰ اخشید۔ ابو الفوارس احمد بن علی بن اخشید۔ یکے بعد دیگرے ہوئے۔ درجہ معتم میں تفصیلی

حالات درج ہیں، دائرۃ معارف القرآن ج ۸ ص ۱۰۳

کا دفتر خراج سپرد کر کے اس کا لقب امیر الامرا رکھا۔ دفتر وزارت توڑ دیا گیا
 کل اختیارات ابن رائق کے ہاتھ میں آ گئے۔ سارا مالیہ ابن رائق کے قبضہ
 میں تھا۔ جس طرح مرضی ہوتی وہ کام میں لاتا۔ اور خلیفہ کو بقدر گزارہ کے رقم
 دیدیا کرتا۔ مگر خراج کی آمد بند تھی جو کچھ آتا بھی تھا وہ انتظام سلطنت کے لیے
 ناکافی تھا۔ ابوالفتح جعفر بن فرات شام اور مصر کے خراج کا والی تھا ابن
 رائق نے اس کو وزارت پر بلا لیا۔ بغداد آیا تو اس پر خلیفہ کی نوازشات
 بہت تھیں۔ مگر وہ برائے نام خلیفہ کا اور حقیقتاً وزیر ابن رائق کا تھا۔

خلافت اور سیاست میں فرق | اس انقلاب نے خلافت کو سیاست سے
 جدا کر دیا۔ علی طور پر خلیفہ سیاست سے

قطع بی تعلق ہو گیا۔ امیر الامرا کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی۔ حتیٰ کہ خطبہ
 میں بھی امیر الامرا خلیفہ کا شریک بن گیا۔ خلیفہ کی شان صرف دینی رہ گئی
 واسط پر برید کا اقتدار | واسط میں عبداللہ بریدی حکمرانی کر رہا تھا ابن
 رائق خلیفہ کو لے کر واسط روانہ ہوا اس نے

وقت کے تقاضے سے ۳ لاکھ ۶ ہزار دینار سالانہ ۳ ہزار ماہوار کے حساب سے
 بارہ اقساط میں دینے کی استدعا کی خلیفہ نے منظور کر کے بغداد کی مراجعت کی
 مگر بریدی نے چند دینار بھی نہ بھیجے تو ابن رائق نے اس کو وزارت کا لاپرواہ
 دیا۔ اس نے احمد بن علی کو اپنی طرف سے بھیج دیا۔ ابن رائق نے طاہرہ
 ہاتھوں ہاتھ لیا اور بریدی کے بھائی ابو یوسف کو بصرہ کا والی مقرر کر دیا
 تو بریدی نے مع فوج کے اس کو بصرہ پر قبضہ کرنے بھیجا۔ اب ابو ہاز سے

بصرہ تک بریدیوں کی حکمرانی قائم ہو گئی تو انہوں نے خود سری اختیار کی رائق نے بحکم و علی اور بدر خشتی کو فوج کے ساتھ بریدیوں کی سرکوبی کے لئے بھیجا بحکم نے سوس پر قبضہ کیا۔ پھر فستق کی طرف متوجہ ہوا۔ ابو عبد اللہ بریدی مع اپنے بھائی کے ۳ لاکھ درہم اور ساز و سامان لے کر کشتی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے راہ میں کشتی باد مخالف سے الٹ گئی۔ مشکل ان دونوں بھائیوں کی جان بچی۔ یہ ابلہ اور وہاں سے بصرہ پہنچے۔ اعیان اہل بصرہ کو دیکھا میں ڈال کر ابن رائق سے صلح کرنا چاہی۔ مگر ابن رائق نے منظور نہ کی اور بصرہ پر بحکم نے حملہ کر دیا۔ بریدی نے اہل بصرہ کو ساتھ لے کر مقابلہ کیا۔ فوج رائق شکست کھا گئی۔ رائق خود فوج لے کے آیا۔ اور بحکم کو بھی جوا ہوا۔ ہر قابض تھا بلایا۔ لیکن بریدیوں سے ہزیمت اٹھا کر واپس گیا۔ بریدی کی ہمت بڑھ گئی۔ اس نے عماد الدولہ بن بویہ رویالمہ کو عراق کی طرح و لا کر اپنا بنا لیا۔ اس نے بریدی کے جھانے میں آکر اپنے بھائی معز الدولہ کے ہمراہ فوج بھیجی۔ اس نے آتے ہی ہواڑ پر حملہ کیا اور بحکم کو نکال باہر کیا۔ وہ واسطہ آ گیا۔ مگر بریدی کی چالاکی معز الدولہ پر ٹھس گئی تو وہ اس سے منحرف ہو گیا۔

بحکم پھلانہ بیاسوس اور جندلیسا پور پر اس نے قبضہ جمایا۔ ہواڑ پر بریدیوں سے دو دو ہاتھ کئے۔ ان کو شکست دے کر ہواڑ پر بھی قبضہ کیا۔ ابن رائق کی بغداد میں قوت ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھی اس سے کٹ گئے۔ بحکم نے بھی اس سے آنکھیں پھیر لیں اور واسطہ کا خراج بھیجا بند کر دیا اور

خفیہ طور سے ابن مقلہ کے ذریعہ خلیفہ سے امیر الامرائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ خلیفہ نے منظور کر لیا چنانچہ حکم نوشدلی معہ فوج کے بغداد آیا۔ ابن رائق نے مقابلہ کیا مگر شکست کھا گیا۔ ۱۳۔ ذی قعدہ ۳۲۶ھ میں حکم بغداد میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے نوشدلی سے امیر الامرائی کا منصب اس کو عطا کیا۔ ابن رائق نے ایک سال دس ماہ امیر الامرائی کے منصب پر فائز رہنے کے بعد پوٹی اختیار کی۔ ۳۲۷ھ میں ناصر الدولہ بن حمدان نے موصل کا خراج روک دیا حکم خلیفہ کو ساتھ لے کر اس طرف گیا اور اس کو مغلوب کر کے رقم وصول کر لی۔ اور رائق نے بغداد کو خالی پا کر بغداد کی ایک جماعت کو مطیع کر لیا جب امیر حکم اور راضی کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے رفع شر کے لیے اس کو خراسان۔ رہا۔ قنسرین۔ عوام وغیرہ کی گورنری عطا کر دی وہ وہاں چلا گیا۔ راضی اور حکم بغداد لوٹ آئے۔

شام پر رائق کا قبضہ | رائق نے گورنری ہاتھ میں لیتے ہی ۳۲۸ھ میں بدر
نائب انشید کو شکست دے کر شام پر قبضہ کیا اور
آہستہ آہستہ عریشہ تاج اپنا دائرہ حکومت وسیع کر لیا۔ مگر انشید نے چند دنوں
میں یہ زرخیز علاقہ لڑا بھڑ کر واپس لے لیا اور شام پر حملہ آور ہوا۔ مگر ناکام رہ کر
واپس چلا گیا۔ اس معرکہ میں انشید کا بھائی مارا گیا۔ شام پر ابن رائق کا کامل تسلط
ہو گیا۔

دولت عباسیہ کی تقسیم | ابن رائق امیر الامرا بنایا گیا تو اس وقت خلافت

عباسیہ کے قبضہ میں صرف بغداد اور اس کے توابعات کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمام صدیوں کے دوسروں کے قبضہ میں تھے۔ بصرہ پر ابن رائی قابض تھا۔ خوزستان میں ابو علی محمد ابن الیاس کا اقتدار قائم تھا۔ رے اور اصفہان رکن الدولہ ابن بویہ اور دہلیگر بن زیار کے زیر نگیں تھا۔ موصل، دیار بکر، مصر، ربیعہ پر بوجہانی حکمرانی کر رہے تھے۔ مصر اور کچھ علاقہ شام پر ایشید کی فرمانروائی تھی۔ خراسان و بادشاہی کی حکومت پر نصر سامانی براج رہا تھا۔ طبرستان و جرجان ملیوں کے زیر نگیں تھا۔ بحرین و عمان پر ابوطاہر قرمطی حکمرانی کر رہا تھا۔ اندلس اور افریقہ کے علاقے پہلے ہی سے دوسروں کے قبضہ میں چلے گئے تھے بلکہ امیر عبدالرحمن شاہ اندلس نے عباسی خلیفہ کا حشر دیکھ کر اپنا لقب امیر المؤمنین ناصر الدین اختیار کر لیا تھا۔

حوادث نامت قرمطی نے راضی باللہ کے عہد میں بھی فوج کے دوستوں کو فہ اور واسط کے نواح میں روانہ کئے۔ مگر نتیجہ خیر جنگ نہیں ہوئی۔ قرمطی ثانی کے بعد سے برابر احسا، بلاد بحرین میں رہنے لگا اور حکمرانی کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ۳۳۲ھ روز دو شنبہ، رمضان کو اس کا طاہر روح فقہی عنقریب سے پرواز کر گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۳۴ سال کی تھی۔ اس کی پیدائش ۲۹۴ھ میں ہوئی اور جب اس کا باپ ابوسعید جنبانی ۳۳۰ھ میں مارا گیا ہے اس وقت قرمطی کی عمر ۶ سال کی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی فوج ۹ سال تک بیکار پڑی رہی۔

۱۰ تاریخ الخلفاء ص ۲۰۸ تا ایضاً ص ۲۰۹

ابن ذرقان کو اس نے قتل کر دیا جو عقل و علم و ادب میں سب سے زیادہ لائق اور کامل تھا۔ پھر بنو سلیمان اور سرداران لشکر کو قتل کیا۔ جن کی تعداد سات سو تک بیان کی جاتی ہے۔ لشکر میں بڑی عادتیں اور بیخ شخصیتیں زکری کی وجہ سے بڑ گئیں۔ جن کی مثال جب سے ابو سعید اور اس کی اولاد ان ممالک پر مسلط ہوئی۔ اس قوم کے لشکر میں کبھی دیکھی اور نہ سنی گئی تھیں۔ زکری کی حرکات سے اس کے بیخ بھی بیزار ہو گئے اور انہوں نے موقعہ پا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ابو سعید حسن بن بہرام جنابی ان کا سرگرد وہ بن گیا۔ وہ بنو سمار سے آکر ملا۔ ان کو ہمنوا بنا کر قطیف آیا۔ یہاں بنو کلاب کو ہجیال کیا۔ اور کربیا بحرانی بھی اس کا ہم آہنگ ہو گیا۔ مگر ہر دو میں کچھ عرصہ بعد پیٹھ گئی۔ ابو سعید نے زکریا کو مار ڈالا۔ پھر اس نے بحرین وغیرہ پر قبضہ جمایا۔ قطیف میں علی بن سمار رہتا تھا۔ اس کو بھی تہ تیغ کیا اور پورا قبضہ و تسلط قطیف پر ابو سعید نے کر لیا۔ اس کے علاوہ قرامطہ کا دوسرا شہر زرد تھا جہاں خاندان حسن بن عوام آباد تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ زرد سے تھا۔ تیسرا شہر صفوان تھا یہاں بنو حفص آباد تھے یہ خاندان عبدالغیس سے تعلق رکھتا تھا۔

چوتھا شہر طہران اور پانچواں احسا رہا بنو سعد آباد تھے جن کا تعلق قبیلہ تمیم سے تھا۔

چھٹا شہر حوا تھا یہاں خاندان عربی بن شیم زبج آباد تھا۔ عربی کا ذکر علی بن محمد نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ علی بن محمد اپنا انتساب ابو طالب

کی طرف کرتا ہے یہ زنج کار ہننے والا تھا۔ بصرہ میں اس کی تحریک کا آغاز ہوا۔ وہاں جانے سے پہلے جب یہ بحرین کے تیمم کلاب نہیں اور دوسرے قبائل میں اپنی تحریک کی اشاعت کر رہا تھا تو عربوں نے قبائل عبدالقیس بنی عامر بن صعصہ محارب بن خصیف بن قیس بن عیلان وغیرہم کے ساتھ پہلے درپے حملے کر کے بحرین اور اس کے نواح سے اس کو نکال دیا اور اس کے ساتھ بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا۔

ابوسعید کا قتل | اس کی لاش انگیزی سے حکومت بہت پریشان ہو گئی تو اس کی سرکوبی کے لیے بدرعلی بھیجا گیا۔ بدر کے ساتھ صفلی تھے۔ ان میں سے دو شخص ابوسعید قرظی کے خادم بن گئے انہوں نے تمام میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا دورفتنہ ۲۷ برس تک تطیف بحرین رہ کر کے فتح ہو جانے تک رہا۔

راضی کے عہد سے عباسی خلفاء کی بہت سی خصوصیات ختم ہو گئیں۔ دولت عباسیہ انتہائی انحطاط کی طرف جا رہی تھی۔ شورشیں بڑھ رہی تھیں۔ امراء اپنے اقتدار کی خاطر باہمی دستگیریاں تھے۔

راضی کی وفات | راضی مرض استقار میں مبتلا ہوا۔ ربیع الاول ۳۲ھ میں انتقال کر گیا۔ عمر ۳۲ سال کی تھی مدت خلافت

چھ سال دس مہینے۔

اوصاف | راضی باللہ علی اعتبار سے نہایت لائق و فائق تھا۔ تاریخ

ادب اور شاعری میں صاحبِ کمال تھا۔ اس کا دیوان بھی ہے اس کے علاوہ تاریخ میں اس کی معلومات بڑی وسیع تھیں۔ علماً اور اہل کمال کا بڑا قدر دان تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے ارباب کمال جمع تھے ہر ایک کو اپنی فیاضیوں سے نوازتا رہتا تھا۔ راضی نسبت بہت نہ تھا حتیٰ المقدور اپنے اقتدار کو سنبھالنے رکھا۔ اس کے عہد کے امراء خود بھی صاحبِ جوہر اور تہور و شجاعت ہیں یگانہ تھے مگر راضی کی حسنِ قابلیت تھی کہ بے دست و پا ہوتے ہوئے ان کو مرہونِ منت بناتا رہا۔ مگر امراء اپنی خود غرضیوں میں مبتلا تھے ان کی شجاعت و مرواگی باہمی کشمکش میں صرف ہوئی تھی راضی نے عباسی و عباسی و عباسی و عباسی کی روایات اور خصوصیات کو ابتداء میں قائم رکھا۔ اس کا عہد اس بہار کا آخری منظر تھا اس کے آخری عہد سے ہی بہار پر خزاں آگئی۔

فیاضی اور سیریشی میں اپنے اسلاف کے قدم بقدم تھا۔ اس کے ندیم اور عاشقین اس کے انعام و اکرام سے مالا مال تھے۔ خطبہ راضی جمعہ کی نماز خود پڑھاتا تھا اور خطبہ بلیغ پڑھتا تھا ابو الحسن بن ذر قویہ کہتے ہیں کہ اسمعیل خطیبی شبِ عید کو خلیفہ کے پاس گئے۔ راضی نے ان سے پوچھا کہ کل میں عید کی نماز پڑھانے کے بعد کیا دعا مانگوں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ آیت قرآن بطور دعا پڑھنا۔ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ لِعِمَّتِكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَاٰلِدِيْ۔

۱۔ مروج الذهب ج ۸ ص ۳۸۹ طے تاریخ الخلفاء ص ۲۰۹

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ راضی آخری خلیفہ تھا جس نے فوج کی تختا
کے قواعد بنائے۔

راضی کے عہد کے علماء | نسطوریہ، ابن مجاہد مرقی۔ ابن کاس حنفی ابن ابوحاتم
میرزاں۔ ابن عبد اللہ صاحب العقد، احمد طبری

شیخ الشافعیہ، ابن شوذ، ابو بکر انباری۔
محدث و فقہاء | کحول نسفی تمیذ ابی سلمان فقیہ و محدث تھے ۳۱۸ھ میں
وفات پائی۔

احمد بن محمد علامہ الطحاوی۔ فقیہ و محدث مشہور و معروف ہیں سمع حدیث
محمد بن سلامہ دیولس بن عبدالاعلیٰ و بحرین نصر و غیرہ سے کی اس سے روایت
الطبرانی و ابو بکر المرقی نے کی۔ آپ سے ابو بکر محمد بن منصور و امفانی نے فقہ
حاصل کی۔ معانی الآثار۔ شکل الآثار، احکام القرآن، مختصر الطحاوی، شرح
جامع کبیر و صغیر، کتاب الشروط، کتاب السجلات و الوصایا و الفرائض و غیرہ
تصانیف و تالیفات سے ہیں وفات ۳۲۰ھ میں ہوئی۔

محمد بن محمد بن محمود ابو منصور ماثریدی مشائخ کرام سے تھے۔ تصحیح عثمان بدورد
اہل الایمان و البدع میں تصانیف کثیرہ ہیں ۳۳۳ھ میں وصال ہوا۔

فلسفی ابو بشر متی بن یونس منطق و فلسفہ کا عالم تھا۔ راضی باللہ کے عہد میں بغداد میں
علوم فلسفہ کی اشاعت کی درس تدریس مشغول تھا۔ ۳۲۶ھ میں فوت ہوا۔

تاریخ الخلفاء ص ۲۰۹ ۲۱۰ مقدمہ فتاویٰ عالمگیری ص ۵۵ ۵۶ طبقات
الاطباء ص ۲۲۵، القفلی ص ۲۱۲

خليفة متقی باللہ

نام و لقب | ابوالسحاق ابراہیم متقی باللہ بن مقتدر بن معتضد ام ولد سماء غلوب
یا زہرہ کے لطن سے تھا۔

خلافت | راضی کی وفات کے بعد انتخابِ خلافت صرف امیر الامراء کے
حکم کے انتظار میں چند دن معرض التوار میں رہا جب واسط
سے امیر بکرم کاشفی ابو عبد اللہ کو فی یہ حکم لے کر آیا کہ اراکین سلطنت
قاضی و فقہاء روسائے بغداد آل عباس رعایوں اور راضی کا وزیر سلیمان
بن حسن وغیرہ جمع ہو کر خلیفہ منتخب کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے جمع ہو کر ابوالسحاق
بن مقتدر کے ہاتھ پر ۳۲۹ھ میں بیعت کر لی۔ عمر اس وقت ۲۴ سال کی
تھی۔ متقی باللہ کے لقب سے لقب کئے گئے۔

تعلیم و تربیت | شامی خاندان میں تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ اتقا و زہد
اسلاف سے ورثہ میں پایا تھا۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

بہت زیادہ روزے رکھنے والا اور عبادت کرنے

والا تھا۔

بجلم کا قتل ۳۲۹ھ میں خوزستان میں ابو عبد اللہ بریدی نے اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ بجلم نے اس کی سرکوبی کو فوج روانہ کی بریدی مقابل آیا اور شکست کھا گیا۔ بجلم خوزستان روانہ ہوا۔ راہ میں دولت مند قافلہ بڑاؤ کئے تھے۔ نیت بگڑ گئی۔ اس پر ہاتھ صاف کیا۔ مگر ایک کر دی بچہ نے اچانک بجلم کی کمر میں خنجر بھونک دیا۔ جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا دو سال امیر الامرائی کی۔ تمام مال تفریبا ایک کروڑ دینار کا بحق حکومت ضبط ہوا۔

مشقی نے عنان حکومت نئے سرے سے اپنے ہاتھ میں لی۔ کیونکہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ برائے نام نظم و نسق سلطنت عبد اللہ احمد بن علی کوئی کاتب بجلم کے ہاتھ میں تھا اور وہی سیاہ سپید کے مالک بنے ہوئے تھے مگر بجلم کے مرتے ہی اس کی کمان اتر گئی۔ اس کی جگہ کوزنجین و ملی امیر الامراء بنایا گیا۔ مگر امیر رائق کو اس کا عروج ناگوار ہوا۔ حملہ آور ہوا یہ مقابل آیا اور شکست کھا کر روپوش ہو گیا۔ پھر ابن رائق امیر الامراء ہو گیا۔ بریدی نے بغداد پر لشکر کستی بجلم کے مرتے ہی کی تھی اور جبرہ مشقی سے پانچ ہزار دینار بھی فوج کے لیے لیے تھے۔ مگر فوج کو ایک جبہ نہ دیا۔ اس پر فوج بگڑ گئی۔ جان بچا کر واسطہ چلا گیا۔

گبند خضرا ۳۳۰ھ میں گبند خضرا جو منصور نے بنوایا تھا عدد و باران کی زیادتی سے گر پڑا۔ یہ گبند تاج بغداد سمجھا جاتا تھا۔ اسی گز

اُدنچا تھا اس کے نیچے ایک ایوان میں گز مربع کا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک سوار کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جس طرف سے کوئی دشمن آنے والا ہوتا تھا۔ اس طرف اس کا منہ پھر جایا کرتا تھا۔

بریدی کا خروج

۳۳۳ھ میں ابوالحسن علی بن محمد بریدی نے بیشتر قوتوں کو یکجا کر کے بغداد پر حملہ کیا۔ خلیفہ اور رائق دونوں اس کے مقابل آئے۔ مگر شکست اٹھا کر موصل ہر دو چل دیئے۔ بریدی نے بغداد میں داخل ہو کر جو ب لوٹ چائی۔ پر رونق شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ خلیفہ مکریت پہنچا۔ اپنے بیٹے المنصور کو اور رائق کو استداد کے لیے موصل بھیجا۔ وہاں سیف الدولہ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن حمدان والی تھا وہ تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ جب یہ دونوں واپس ہوئے رائق کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد ابن حمدان کو خلیفہ نے ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور اس کے بجائی کو منصب امیر الامرائی پر فائز کیا۔ اور سیف الدولہ کا خطاب دیا اور اس کو موصل کا تاج و تخت سپرد کیا۔ پھر ان کو بغداد لایا۔ بریدی کو خیر لگی وہ روپوش ہو گیا اور واسط چلا گیا اور وہاں سے فوج لے کر بغداد پر پھر حملہ کرنے چلا۔ اہل بغداد میں سخت انتشار پیدا ہو گیا۔ معززین شہر بھاگنے لگے۔ خلیفہ متقی اور ناصر الدولہ ساتھ مقابلہ کے لیے نکلے اور سیف الدولہ نے بڑھ کر بریدی کو مدبرین پر آگھیرا اور اس قادیانی کی کہ واسط لوٹ گیا۔ مگر سیف الدولہ نے وہاں بھی پہنچ کر خیر لگی آخراش

۱۰ تاریخ الخلفاء ص ۲۱۰

بصرہ جا کر روم لیا۔ سینٹ الدولہ کامرانی سے واپس آیا۔
 ۱۳۳۳ء میں اہل روم نے ارزن پر ہر طرف سے حملہ کیے اور باشندوں
 رومی حملہ کو خاک و خون میں ملایا۔ وہاں کے گرجا میں ایک رومال تھا جس
 کی نسبت عیسائیوں کا گمان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا روتے
 مبارک اُس سے پوچھا تھا۔ اور آپ کی شبیہ مبارک اس میں منقش ہو گئی تھی عیسائیوں
 نے اس رومال کو منگوایا۔ مگر شرط یہ تھی کہ تمام قیدی رہا کر دیئے جائیں چنانچہ
 مسلمان قیدی آزاد کئے گئے اور رومال عیسائیوں کو دیدیا گیا۔

۱۳۳۲ء میں اُس کے غارت گروں نے بحری
 آذربائیجان پر روسی حملہ راستہ سے اطراف آذربائیجان پر حملہ کر کے
 برڈو پر قبضہ کر لیا۔ مگر آذربائیجائیوں نے اُن کو مار پیٹ کر مکالم باہر کیا۔
 توڑن کا اقتدار سینٹ الدولہ اور برید میں پھر چل گئی۔ بھائی کی معاونت
 کے لیے ناصر الدولہ ۱۳ ماہ امیر الامرائی کر کے موصل
 گیا۔ بغداد پر امیر توڑن واسط سے آگودا۔ متقی نے باجبر و اکراہ اس کی آؤ
 بگت کی اور خلعت امیر الامرائی عطا کیا۔ توڑن خفیف الحركات تھا متقی
 سے چٹخ گئی۔ توڑن نے ابو جعفر بن شیرزاد کو واسط سے بغداد بلا بھیجا
 اس نے آکر بغداد کو اپنے تحت و تصرف میں کر لیا۔ متقی نے یہ رنگ دیکھ
 کر موصل ابن حمدون کو لکھا۔ وہ کثیر لشکر سے بغداد پہنچا۔ ابو جعفر و پوتش
 ہوا۔ متقی اپنے اہل و عیال کو لے کر تکریت تشریف لے گئے اور ناصر الدولہ
 غزوں اور کردوں کا ایک عظیم لشکر لے کر توڑوں سے مقام فکبر پر قوت آزما

ہو سئے ناصر الدولہ ابن حمدان کو منہ کی کھانا پڑی اور متقی کو تکریت سے لے کر
 موصل بھاگ گئے۔ امیر توزوں نے پھر راہ میں اس کو آگیرا۔ خلیفہ اور ابن حمدان
 نے مقابلہ کیا۔ مگر پھر انہیں شکست ہوئی۔ خلیفہ نے اب کوئی چارہ نہ دیکھا تو
 انشید والی مصر کو اپنی مدد کے لیے بلا بھیجا۔ اس حرکت سے ناصر الدولہ کو ان سے غنا
 پیدا ہو گیا تو خلیفہ نے خفیہ طور پر اس سے صلح کا نامہ و پیام جاری کر دیا۔ اس نے
 مان لیا اور ۳۶ لاکھ درہم لے کر عہد و پیمانہ و حلف ہو گیا۔ اور انشید خلیفہ
 کی مدد کے لیے آیا۔ رقبہ میں ملاقات ہوئی۔ انشید نے متقی سے عرض کیا
 امیر المومنین میں آپ کا غلام اور غلام کا بیٹا ہوں ترکوں
 کی شرارت اور عناد آپ کو معلوم ہو چکے۔ بہتر ہو آپ
 میرے ساتھ مصر چلے چلیے اور اس پر حکومت کیجئے۔ اور
 امن سے بیٹھ جائے۔

لیکن متقی کو بغداد پہنچنے کی پڑی ہوئی تھی انشید کبیدہ خاطر ہو کر
 مصر لوٹ آیا۔

۴ ر محرم ۳۳۳ھ کو متقی رقبہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوا تو زوں
 اس کے استقبال کے لیے آیا۔ انبار اور نوہیت کے درمیان ملنا ہوا تو زوں
 نے بڑے احترام سے خلیفہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک خیمہ میں اتار دیا۔
 متقی آرام و اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا کہ علی بن مقلدہ معہ ساتھیوں کے
 آیا اور متقی کی آنکھیں نکلو الیں اور اس کو بغداد بھیج دیا۔ امیر توزوں بھی

بغداد پہنچا اور عبدالقدیر مکتفی کی مشکلی بالمد کے لقب سے بیعت کر لی۔ یہ واقعہ
۲۰ محرم ۳۳۳ھ کا ہے۔ پھر مکتفی کو جزیرہ میں قید کر دیا۔

مکتفی نے بحالت قید ۳۵ھ میں بمرور ۶۰ سال وفات پائی کل
وفات مدت خلافت چار سال ہے۔

مکتفی میں جہاں بانی کا کوئی وصف نہ تھا۔ اس کے دور خلافت
میں جنگ و جدال اور فتنہ و فساد ہوا کیے غرضکہ نظام حکومت
درہم برہم ہو گیا۔

البتہ مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے مکتفی میں خوبیاں بہت تھیں خلیفہ
کا بیان ہے کہ

۱۵ اپنے پیشرو و خلفاء کے بہت سے افعال و اعمال سے محرز
رہا۔ ہمیشہ کبھی نہیں لی۔ ہر وقت قرآن شریف تلاوت کرتا
رہتا اور کہا کرتا تھا کہ میرا اس سے بڑھ کر کوئی رفیق و
ندیم نہیں۔ اپنی کنیزوں کو منہ نہیں لگایا۔

مکتفی کے عہد کے علماء و فقہاء | ابو یعقوب النہر خوری۔ خلیفہ جنید بغدادی
قاضی ابو عبد اللہ السکالی۔ ابو بکر الفرغانی صدیقی
حافظ ابو العباس بن عقدہ ابن ولاد النخوی۔ احمد بن عصمہ صفار البلمنی متوفی
۳۳۶ھ

۱۵ تاریخ الخلفاء ص ۲۱۱ داہن اشیرج ص ۱۳۶ لک النخوی ص ۲۵۶ لک تاریخ
خلیفہ ص ۶ ص ۵۲ لک تاریخ الخلفاء ص ۲۱۱ لک تاریخ الخلفاء ص ۲۱۱

محدث و فقہا | محمد بن محمد بن احمد بن عبد اللہ المعروف بجاکم الشہد فقیہ متبحر،
 حافظ الحدیث۔ ابو عبد اللہ جاکم صاحب مشرک آپ سے
 تلمذ رکھتے تھے۔ کتاب منقحی و کافی و مختصر جاکم آپ سے معروف ہیں۔ ۳۳۳ھ
 میں انتقال کیا۔

احمد بن بہل ابو حامد سمرقندی۔ شاگرد محمد بن الفضل سمرقندی ۳۳۳ھ
 میں فوت ہوئے۔ مختصر کرخی و شرح جامع صغیر و کبیر یادگار سے ہیں۔
 مفسر | شیخ ابو بکر محمد بن عزیز السجستانی علوم قرآن میں متبحر کا درجہ تھا۔ الفرید
 تفسیر القرآن نکھی ۳۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

خلیفہ مستکفی باللہ

نام و لقب | ابوالقاسم عبداللہ مستکفی بن مکتفی بن مقتضام ولد موسومہ ابلح
الناس کے لعن سے ۲۹۲ھ میں پیدا ہوا۔

خلافت | بعد خلع خلافت مشقی ۳۳۳ھ میں توڑوں نے ابوالقاسم عبداللہ
کو مستکفی باللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنایا۔ عمر ۴۴ سال کی تھی اس
مشورہ میں ایک عورت تہرمانہ شریک تھی۔ مستکفی نے اس کو اپنے خزانہ کا
سکرٹیری بنا لیا اور اس کا نام علم رکھا۔

وزیر | ابوالفرج محمد بن علی سامری کو وزارت کے عہدہ پر سرفراز کیا۔
توڑوں ہی خود منصب امیر الامرائی پر برقرار رہا اس کو
امیر الامرا | خلیفہ نے خلعت اور تاج پہنایا۔

سیف الدولہ کا اقتدار | ۳۳۳ھ میں سیف الدولہ نے اپنی
حکمرانی کے دائرہ کو وسیع کرنے کے لیے

حلب پر حملہ کیا اور اس کو قبضہ میں لے آیا۔ اس کے بعد حمص پر بھی متصرف
ہو گیا۔ ان دونوں ناکوں کے انتظام سے فراغت پا کر دمشق کا محاصرہ
کیا۔ لیکن انشیدی دالی مصرنے اس کو قسریں میں مقابلہ کیا۔ سیف الدولہ کو

جزیرہ کا رخ کرنا پڑا۔ اخیسید کا میا پی حاصل کر کے دمشق واپس آ گیا
رومی اس اثنا میں رومیوں نے شورش مچائی اور اسلامی سرحد میں داخل
 ہو کر حلب تک پہنچ گئے۔ لیکن سیف الدولہ کی بہادر فوج نے
 رومیوں کو شکست فاس دی۔

ابوالحسن بریدی کا قتل عبداللہ بریدی کے انتقال ۳۳۳ھ کے بعد اس کا
 بجائی ابوالحسن بن جانشین ہوا تھا۔ فوج نے اس
 سے باغی ہو کر اس کے برادر زادہ ابوالقاسم کو اپنا امیر بنا لیا۔ ابوالحسن امیر
 قرامطہ سے مدد لے کر برسرِ اقتدار ہونا چاہا۔ مگر ناکام رہا۔ بغداد آ کر توڑوں کو رقم
 دے کر بصرہ کی حکومت لینا چاہی۔ ابوالقاسم نے زیادہ رقم پیش کی ابوالحسن
 ناکام ہوا۔ آخر میں ابن شیرزاد نے توڑوں سے کہہ کر ابوالحسن کو گرفتار کر لیا
 قرامطہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر قتل کیا گیا۔

وفات امیر توڑوں دو سال چار ماہ انیس دن توڑوں امیر الامرائی کر
 کے ۳۳۴ھ میں فوت ہوا۔ اس کا رفیق کاریک
 بن شیرزاد مقام ہیت میں مقیم تھا جب توڑوں کے مرنے کی خبر لگی وہ فوج لیکر
 بغداد پر چڑھ دوڑا۔ یہاں کی فوج نے اس کا خیر مقدم کیا اور متفقہ اس کو منصب
 امارت کے لیے پسند کیا۔ خلیفہ نے بھی بجزوری اس انتخاب کو قائم رکھا۔
معز الدولہ احمد بن بوبہ معز الدولہ کی امیر الامرار بننے کی دیرینہ تمنا
 مگر امیر توڑوں کی شجاعانہ سرگرمی سے

مقابل آتے ڈرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد فوج لے کر بغداد پر آدھمکا۔ مستکفی اور شیرزاد کو معلوم ہوا۔ پہلے روپوش ہونا چاہا، خلیفہ مستکفی نے موقعہ کی نزاکت کا لحاظ کر کے معزالدولہ کو خیر مقدم کیا اور ہاتھوں ہاتھ لیا اور دربار میں معزالدولہ کا لقب عطا کیا اور عہدہ امیر الامرائی پر تقرر فرمایا۔ اور مزید دلجوئی کے لیے اس کے بھائی علی کو عاوندولہ اور حسن کو رکن الدولہ کے خطابات سے سرفراز فرمایا۔

۳۳۳ھ میں سکون پر بھی ان کے نام کندہ کرائے۔ اس کے بعد بنی بویہ کا اقتدار بڑھتا گیا۔ اس نے کچھ عرصہ بعد نظام حکومت پر پورا قبضہ جمایا۔ اب دولت عباسیہ گویا بنی بویہ کی گروٹھ چیم و ابرو کی محتاج بن گئی۔ کچھ دن بعد شیراز ظاہر ہوا۔ اس کو معزالدولہ نے حاکم خراج کر دیا۔

معزالدولہ نے مستکفی کے حقوق و اختیارات سلب کر کے اس کے خلیفہ کا وظیفہ گزارے کے لیے پانچ ہزار ماہانہ اور تھوڑی سی جائیر مقرر کر دی۔ صرف خطبہ میں خلیفہ کا نام لیا جاتا یا بعض احکام و فرامین رسمًا اس کے نام سے جاری ہوتے تھے اور تختِ خلافت پر خلیفہ کے پہلو میں معزالدولہ بیٹھا کرتا تھا۔

بنی بویہ شیعہ تھے۔ ان کو بنی عباس سے کوئی ہمدردی نہ تھی اور نہ سیاسی حالت ان کے دلوں میں خلفاء کا احترام تھا۔ ترک مستبد تھے مگر خلفاء کا احترام کرتے تھے و یا لمہ کی تولیت خلافت سے خلفاء بنی عباس کا رہا سہا اقتدار ختم ہو گیا۔ خلیفہ کے ساتھ کوئی طاقت نہ تھی جس کے بھروسہ پر وہ اقتدار کو بجا کرنا ترک و یا لمہ سے گھٹ گئے تھے۔ آخر مستکفی اپنے دن کاٹ رہا تھا۔ ایک

سال چند ماہ خلافت کے منصب پر بیٹھے گذرے تھے۔

مستکفی کی معزولی | معز الدولہ کو یہ وہم سوار ہوا کہ مستکفی مجھ کو قتل کرا دے گا

اور قہرمانہ علم خلیفہ کی ہمزاز ہے چنانچہ اس نے اپنے دو نقیبوں کو بھیج کر قہرمانہ کی زبان کھولی اور دارالخلافت کا کل سامان لوٹ لیا اور مستکفی کو تخت سے اتار کر معزولہ الدولہ کے دربار میں لے جا کر اس کو معزولی کا حکم سنایا اور ۳۳۳ھ میں اس کو قید کر دیا۔ اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں بحالت قید مستکفی نے ۳۳۳ھ میں وفات پائی۔ ۲۲ سال زندہ رہا۔ کل مدت خلافت ایک سال چار ماہ ہے۔

علماء | اقدامہ، اس کے اسلاف نصرانی تھے۔ مگر علمائے اسلام کی صحبت سے

مشرق باسلام ہوا۔ اور علوم و فنون میں بڑا دور کھل گیا ۹۲۸ھ عہد مستکفی میں مالگزارمی کا محاسب مقرر ہوا۔ اس نے کتاب اخراج لکھی جس میں خلافت بنی عباسیہ کے صوبجات کی تقسیم کی۔ سالانہ آمدنی اور نظام رسل و رسائل پر بحث کی ہے۔ ۶۹۵ھ میں فوت ہوا۔

ابوالوفاء البوزجانی الحاسب خلیفہ مستکفی اور مطبع کے عہد کا ماہر بیت

تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف بن مطر (متوفی ۳۳۳ھ) جس نے اقلیدس اور عسطلی کا ترجمہ کیا تھا۔ اس میں کچھ نقائص تھے تو ابوالوفاء نے اس کی تصحیح کی اور زینج الواضح اور کتاب الہندسہ تصنیف کی۔ اس کا بڑا کارنامہ مثلثات کی تحقیقات ہے۔ حاس۔ حاس التمام۔ قاطع۔ قاطع التمام کو

لے ابن اثیر ج ۸ ص ۲۰۶ طے تاریخ الخلفاء ص ۲۵۶ لے ابن اثیر ج ۸ ص ۲۰۶

کو زیادہ رواج دیا اور اس کے لیے ضابطے دریافت کیے۔ ریاضی میں اس کا پایہ
 مسلم ہے۔ ۹۴۰ء میں پیدا ہوا۔ اور ۹۹۸ء میں عہد قاور میں انتقال ہوا۔
 ابو بکر احمد بن محمد معروف جصاص رازی بگناہ روزگار سے تھے احکام
 القرآن آپ کی تالیف ہے۔ ۳۰۰ھ میں انتقال ہوا۔
 شیخ ابو محمد عبداللہ بن عطیہ وطن دمشق تھا۔ ان کی تفسیر ابن عطیہ قدیم کے
 نام سے مشہور ہے۔ ۳۸۳ھ میں انتقال کیا۔
 علامہ خطابی علوم قرآن کا ماہر تھا۔ اس نے اعجاز القرآن معرکہ کی
 کتاب لکھی۔ ۳۸۸ھ میں فوت ہوا۔
 ابوالحسن علی بن عسی بن عبداللہ الرمانی اخیذی اور وراق سے
 مشہور تھے لیکن زیادہ تر رمانی ہی کہے جاتے تھے۔ مختلف علوم میں دستگاہ
 رکھتے تھے بہت متکلم تھے ۲۰۹ھ میں ولادت ہوئی اور ۳۸۳ھ میں وفات

ابو داؤد کی مشہور شرح معالم السنن انہیں کی تالیف ہے

خلیفہ مطیع اللہ

نام و لقب | ابو القاسم فضل مطیع اللہ بن مقتدر بن معتمد باللہ عباسی
ام ولد مشعلہ صقلی کے لطن سے ۳۳۳ھ میں پیدا ہوا۔

خلافت | مستکفی کی معزولی کے بعد ۲۲ رجمادی الآخر ۳۳۳ھ میں ابو القاسم
فضل کو مطیع اللہ کا لقب دیکر نام نہاد تختِ خلافت پر بٹھایا۔ مستکفی

نے بھی بجز بیعت کی اور معزولی کا اقرار کیا۔ معز الدولہ کہ کسی علوی کو خلیفہ بنا کر
چاہتا تھا۔ اس کے ندیم شیعوں نے مخالفت کی کہ بنی فاطمہ کو خلیفہ بنا کر خود
اپنے اقتدار کا خاتمہ اپنے ہاتھوں کرنا ہے یہ بنی عباس آپ کے قابو میں ہیں
گے چاہے قتل کر دو۔ مگر بنو فاطمہ کو خلیفہ بنا کر عقیدت کے اعتبار سے ان کا
کچھ نہیں کر سکے۔

وفات اشید | ۳۳۴ھ میں اشید نے دمشق میں وفات پائی۔ اس کا
چھوٹا بیٹا بوزور اس کی جگہ پر فائز ہوا۔ مگر صغریٰ کی
وجہ سے تمام کاروبار کو حبشی غلام کا فوز نے سنبھال لیا۔ سیف الدولہ نے
اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ مگر کافر نے قوت سردانگی
سے سیف الدولہ سے دمشق کو واپس لے لیا۔

لے تاریخ الخلفاء ص ۲۷۶ لے تجارب الامم ج ۶ ص ۸ لے ابن اثیر ج ۸ ص ۱۷۹

مطیع کی خلافت کو پانچ سال ہوئے تھے کہ ذوالحجہ ۳۳۹ھ میں
حجر اسود | قرامطہ نے حجر اسود واپس کر دیا جو بیت الحرام میں اپنی جگہ نصب
کر دیا گیا۔

خلیفہ کے اقتدار کا خاتمہ | خلافت عباسیہ اگرچہ معزالدولہ کے اقتدار سے پہلے
اپنی ساکھ کھو چکی تھی۔ مگر معزالدولہ نے رسی سے آبرو

کا خاتمہ کر دیا۔ معزالدولہ غالی شیعہ تھا اور مجوسی النسل اس نے خلیفہ کو اس
قدر بیکار بنا دیا کہ خلیفہ کے پاس اس کے مال و اسباب کی نگرانی کے لیے ایک
مشی کے سوا کوئی بھی خادم نہ رہا تھا۔ معزالدولہ نے عراق کے علاقے اپنی فوج
کے امراء میں تقسیم کر دیے۔ ان لوگوں نے مالیانہ کی وصولی کے سلسلہ میں بے حد
ظلم کا شکاروں پر توڑے کہ وہ گھر بار چھوڑ گئے۔ ادھر فوج میں عموماً دیالمہ تھو
ان سے اور ترکوں سے چل گئی اور لوٹ مار ہونے لگی۔ تجارتی قافلوں کا آنا جانا
بند ہو گیا۔ بغداد میں غلہ تک اس قدر گراں ہو گیا کہ باشندے مروار خور ہو گئے۔

ترویج شیعیت | معزالدولہ نے اپنی شیعیت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ عید غدیر
منائی گئی۔ محرم میں عورتیں بالوں کو لکھول کر نوج کرانی نکلتیں
اس سے بھی بڑھ کر تبر ابازی تھی۔ اس کی تفصیل دولت دیالمہ میں لکھی جا چکی ہے
غرض کہ شیعہ سینوں میں ٹھن گئی اور چاروں طرف سے معزالدولہ پر یورس ہو گئی
نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں سخت ابتری پھیل گئی۔

موسل کے رئیس ناصرالدولہ نے اس فتنہ کا خاتمہ کرنا چاہا اور ملک کو

معزالدولہ کے ظلم سے نکالنا چاہا۔ بڑی بڑی امیر بصرہ بحرین کا قریبی جو معزالدولہ کا دشمن تھا۔ اس سے جا کر بحر میں ملا قریبی امیر عمان کے ساتھ بصرہ پر حملہ آور ہوئے۔ معزالدولہ سے سخت جنگ ہوئی۔ یہ آپس میں دست بہ گرمیاں تھے واسطہ اور بصرہ کے درمیان مقام بطیمہ میں عمران بن شاہین حوصلہ مند امیر تھا اس نے موقعہ موافق جان کر خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ معزالدولہ کی فوجیں اس کے مقابل ہوئیں تو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخر میں معزالدولہ ابن شاہین کے سامنے عاجز ہو گیا۔

ابن شاہین نے ۳۲۹ھ میں اپنی حکومت قائم کی جو ۳۴۸ھ تک قائم رہی۔

الغرض معزالدولہ کا سارا عہد بغداد میں ظلم و ستم کا عہد تھا۔

۳۳۸ھ میں اس کا بھائی عماد الدولہ اصفہر میں مر گیا اس کے

اولاد نہ تھے۔ اپنے بھتیجے فنا خسرو سپہرکن الدولہ کو جانشین کر گیا جو فارس کا

بادشاہ ہوا اور اس کا لقب عضد الدولہ تھا معزالدولہ ۱۲ ربیع الاول ۳۵۶ھ

میں مر گیا۔ اس کا بیٹا تختیار (عزالدولہ) جانشین ہوا۔ یہ شرابی رکبانی اور

متغہ کے شوق میں دن رات لگا رہتا تھا۔ اس کے وزیر ابوالفضل عباس بن حسین

۳۶۹ھ میں ابن شاہین (۳۶۹ھ) حسن بن عمران (۳۶۲ھ)

ابوالفرج بن عمران (۳۶۳ھ) ابوالمنالی بن حسن (۳۶۳ھ) منظر وزیر

(۳۶۶ھ) مہذب الدولہ ابوالحسن (۳۶۵ھ) ابن مہذب الدولہ (۳۶۵ھ) عبداللہ

ابن سنی (۳۶۵ھ) ابن اشیر علیہ ص ۱۹۲

اور محمد بن عباس تھے جو اس کے نازیبا طریقہ عمل سے برگشتہ ہو گئے۔ اس سنہ میں ناصر الدولہ حمدانی والی موصل کو اس کی اولاد نے قتل کر دیا۔ اس کا بیٹا ابو تغلب رئیس ہوا۔ بختیار نے ۱۲ لاکھ درہم سالانہ خراج اس پر لگا دیا۔

۳۵۶ھ میں کافور نے انتقال کیا چنانچہ مغزالدین **مصر میں فاطمی خلافت** فاطمی تاک میں تھا۔ اس نے اپنے سپہ سالار

جو ہر عقلی کو فوج دے کر مصر بھیجا۔ اس نے ۳۶۱ھ میں فاطمی خلافت کا جھنڈا مصر پر لہرایا۔ تفصیلی حالات بنو فاطمہ کے جلد ہفتم میں تحریر ہوں گے۔

رکن الدولہ اور شمگیر دست بہ گریباں ہوئے۔ آخرش ۳۵۴ھ میں **شمگیر فوت ہوا۔ تو اس کا بیٹا "بے ستون" تخت نشین ہوا۔ اس سے بھی رکن الدولہ جنگ کرتا رہا۔**

سرحد پر قیصر روم نے حملہ کر دیا۔ خلیفہ کو معطل بنا دیا گیا تھا **رومیوں کے حملہ** رومیوں کو جواب کون دیتا۔ معز الدولہ یا عز الدولہ کو

عیش عشرت اور ظلم و ستم سے اور ترویج سیئات سے فرصت کہاں بھتی کہ اس طرف توجہ کرتے۔ سیف الدولہ حمدانی میں اسلامی جرأت بھتی وہ رومیوں کے

مقابل آیا۔ مگر ہر موقع پر رومی بڑھتے گئے اور ہزار ہا مسلمان قتل ہوئے مسجدیں مسمار کی گئیں۔ ہزار ہا بچے قید کر لیے گئے۔ سروج۔ مینا فارقین دیار ربیعہ تباہ کئے

پھر بحری راتوں سے طرسوس پر رومیوں نے حملہ کر کے آگ لگا دی ۱۸ سو مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ ۳۷۸ھ میں رہا کلوٹ لیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے

چلتے ہوئے۔

۳۴۹ء میں سیف الدولہ انتقام لینے کے لیے اُن کے ملک میں بڑھتا چلا گیا۔ رومیوں نے پیچھے سے آ کر گھیر لیا۔ کل فوج اسلامی ہلاک ہوئی۔ صرف تین سو نفوس سیف الدولہ کے ساتھ بچ رہے۔

۳۵۰ء میں انطاکیہ کے مطوعین کی ایک جماعت روم کی طرف بڑھی لیکن رومیوں نے اُن کو گھیر کر ایک حصہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا دوسرے حصہ کو پکڑ لے گئے۔

۳۵۱ء میں مستق (نیکوفورس) سپہ سالار قیصر اراؤس **مستق کے مظالم** عین ذریعہ کی طرف حملہ آور ہوا۔ اس نے وہ قلعہ فتح کر لیے۔ لاکھوں مسلمان بے خانماں ہو گئے۔ اس کے بعد وہ حلب کی طرف متوجہ ہوا۔ والی حلب سیف الدولہ مقابلہ پر آیا۔ مگر اُس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سیف الدولہ کے اقربا اس جنگ میں کام آئے۔ مستق نے سیف الدولہ کا مال و متاع لوٹ لیا اور اس کے محل کو منہدم کر دیا۔ دو روز شہر میں لوٹ رہی۔ بقیہ مال کو نذر آتش کر دیا۔ اس کے علاوہ مستق ظالم بارہ ہزار مسلمان بچوں کو پکڑ کر لے گیا۔ یہ سب مصائب مسلمانوں پر ہو رہے تھے معز الدولہ عز الدولہ کے کان پر جوں تاک نہ رہی۔ ۳۵۳ء میں مستق نے مصیبت کا محاصرہ کیا۔ مسلمان رضا کار سیف الدولہ کی کمان میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اُن کی مدد کے لیے پانچ ہزار خراسانی آگئے۔ مگر رومی چلتے بنے اور طرسوس کو جا لیا۔ تین ماہ محاصرہ کیا۔ اُن میں وبا پھیلی، ہزار ہا رومی مر گئے۔ مستق یہ رنگ دیکھ کر پیچھے ہٹا۔

قیصر نے ۳۵۴ء میں مصیبت کو فتح کر لیا۔ صد ہا مسلمان تہ تیغ کر ڈالے گئے۔ دو لاکھ مسلمانوں کو قید کر کے لے گیا۔ پھر طرسوس کا گھیرا ڈال دیا۔ شہر کے لوگ امان کے طالب ہوئے۔ شہر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ حکم دیا۔ جو شخص جس قدر مال اٹھا سکے۔ لے کر یہاں سے نکل جائے چنانچہ ہزار ہا مسلمان انطاکیہ چلے گئے۔ جامع مسجد کو منہدم کر دیا اور اس میں گھوڑے باندھے گئے اور مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنا لیا۔ مگر امراء سے حمیت اسلامی رخصت ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی مدد کرتے۔ صرف سیف الدولہ تھا جو رومیوں کے مقابل آجتا تھا اس زمانہ میں سیف الدولہ نے انتقال کیا۔ مسلمانوں کا رہا سہا

سیف الدولہ سہارا سیف الدین کی موت سے جا مارا ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد قیرو پورے قبضہ حلب پر کر لیا۔

۳۵۸ء میں قیصر شام میں آیا۔ طرابلس کو جلا کر خاک کر دیا۔ قلعہ حماتہ قیصر عوفہ کو نسخر کیا۔ پھر حمص میں پہنچ کر آگ لگا دی اور جس قدر ساحلی آبادیاں تھیں۔ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان بچے پکڑ لے گیا۔ بوڑھے نکال دیئے گئے۔ جوان تہ تیغ کئے گئے۔ ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ رومی نصرانیوں نے اس موقع پر اٹھانہ رکھا۔ ان دست درازوں سے عالم اسلامی میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ امام ابو بکر محمد بن اسمعیل بن قفال مروزی شافعی سرکین، ۲ ہزار مجاہدین کو لے کر قیصر کے مقابلے کو نکلے۔ راستہ بلا وجہ میں سے گزرتا تھا۔ رکن الدولہ شعی و ملی نے ازراہ عداوت ان کو جبراً روک دیا۔ قیصر کو پتہ لگا تو اس نے ۳۵۹ء میں انطاکیہ پر قبضہ کر لیا

باشندوں کو قتل کیا۔ بیس ہزار لڑکے لڑائیوں کو اسیر کر لیا۔ اس کے بعد حلب کی طرف رومی آئے۔ سیف الدولہ کا غلام قرعویہ حاکم تھا۔ اس کے ساتھ ابوالمعالی شریف ابن سیف الدولہ جنگ میں مشغول تھا وہ رومیوں کی بیخاری سے بیابان کی طرف چلتا ہوا۔ قرعویہ نے کچھ رقم دے کر رومیوں سے صلح کر لی۔

رومی کامیاب ہو کر رہ گئے۔ اس کو دوبارہ لوٹا۔ پھر جزیرہ میں نصیبین کی طرف آئے اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ اور دیار کبر کو بھی لگے ہاتھوں تباہ کر ڈالا۔ یہاں کے باشندے بغداد میں فریاد لے کر پہنچے۔ مسجد جامع میں رومیوں کے مظالم بیان کیے۔ نختیار شکار کھیلنے گیا تھا۔ اعیان سلطنت شکار گاہ گئے۔ نختیار سے کہا سنا۔ اس نے امداد کا وعدہ کیا۔ امیر سلطنتین حاجب کو بغداد بھیجا کہ جہاد کا اعلان کرے۔ ابو تغلب والی موصل کو تحریر کیا کہ تم رسد اور اسلحہ کا انتظام کرو چنانچہ اس نے خوشدلی سے سامان فراہم کیا۔ شکار سے نختیار بغداد لوٹا۔ خلیفہ مطیع سے مالی مدد مانگی۔ اس نے کہا کہ جو شخص مالک سے خراج وصول کرتا ہے اس کے اوپر جنگ اور اس کے اخراجات کا بار ہے۔ میں انتظام نہیں کر سکتا۔

نختیار نے خلیفہ کو دیکھا۔ اس نے مجھ پر درجہ حرم کے کپڑے زیورات یہاں تک کہ مکانات تک فروخت کر کے چار لاکھ درہم نختیار کو رومیوں سے مقابلہ کی تیاری کے لیے دیے۔ مگر نختیار نے جنگ کا ارادہ ترک کر کے

وہ رقم اپنی عیش و عشرت میں اڑا دی۔ یہ بھی سلاطین دیالمہ کی اسلامی خدمت دارانہ اخلاذ میں یہ واقعات پیش آئے۔ رومی قدم بڑھا رہے تھے۔ ۳۶۳ھ میں دمشق شہر آمد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیثمہ اللہ بن ناصر الدولہ حمدانی اور اس کے بھائی ابوالغلبہ مسلمانوں کی پشت پناہی کی خاطر جان کو سمیٹلی پر رکھ کر دمشق پر دو طرف سے آپڑے رومیوں سے دو دو ہاتھ کئے، ہزاروں کا کھیت رہا۔ رومی بٹ کر بھاگے دمشق گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد سے رومی ٹنڈے پڑ گئے۔

۳۵۵ھ | قرامطہ میں قرامطی دمشق پر قابض ہوئے اور حج کے جانے کے لیے مصر، شام کے راستے روک دیے۔ ان کا ارادہ مصر پر قبضہ کرنے کا تھا۔ لیکن بنو عبید ربیعہ فاطمہ (المفرج پہلے پہنچ گئے اور مصر پر قابض ہو گئے اور قاہرہ میں دارالامارہ بنا دیا گیا۔ بنو عباس کا نام مصر میں خطبوں میں سے نکال دیا گیا۔ ان شیعوں کی سلطنت اقلیم مغرب و مصر و عراق میں قائم ہو گئی۔

۳۶۲ھ | تختیار اور خلیفہ میں تختیار اور خلیفہ میں کشیدگی پیدا ہو گئی جو ام میں تختیار سے نفرت تھی۔ کسی نے عزالدولہ تختیار کے غلام کو مار ڈالا۔ وزیر ابوالفضل شیرازی نے غلام کے بدلے شہر میں آگ لگا دی مگر وہ خود بھی اس آگ میں جل مرا۔

۱۵ تجارب الامم جلد ۶ ص ۳۰۱ لکھ ابن اثیر سے محض کیا ہے لکھ تاریخ
انگلغار ص ۲۴۸ لکھ تاریخ انگلغار ص ۲۴۹

تقریر قاضی ۱۳۶۳ء میں مطیع نے ابوالحسن محمد بن ام شیبانی ہاشمی کو قاضی بنایا۔ وہ قضاۃ کو قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اس پر رضامند ہوئے کہ وہ معاوضہ نہیں لیں گے کسی کی سفارش نہیں منیں گے البتہ عمار قضاۃ کا صرفہ حکومت کے ذمہ ہے۔

خلع خلافت ۱۳۶۳ء میں مطیع پر فاج گرا۔ اس کی زبان بند ہو گئی۔ عزالدولہ نے حاجب امیر سلطین کے ہاتھ کھلا بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو معزول سمجھ کر اپنے بیٹے محمد اکرم الطالع اللہ کو کاردار سلطنت سونپ دے چنانچہ مطیع نے اکیسا ہی کیا اور بروز چہار شنبہ ۲۲ ذی قعدہ ۱۳۶۳ء مطابق ۷ اراگست ۱۹۶۴ء کو الطالع اللہ خلیفہ ہوا۔ مطیع نے انیس سال اور دو ماہ خلافت کی۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ
 ”مطیع اور اس کا بیٹا بنی بویہ کے ہاتھ میں گھٹ پٹی رہے اور یہ حالت ضعف خلافت مستحقین کے لئے تک باقی رہی گو اس نے حالت خلافت کو کچھ ٹھوڑا سا سنبھال لیا تھا۔“
 علامہ مسعودی التبیہ والاشراف میں لکھا ہے کہ
 ”خلیفہ کے لیے اب صرف دعا اور مراسلت میں امیر المؤمنین کا لقب رہ گیا ہے اور وہ اپنی جان کی سلامتی پر خوش اور خلیفہ کے لقب پر قانع ہے۔“

سیاسی حالات | مطیع کا عہد طویل تھا۔ مگر سیاسی انقلاب اور شورشیں ملک میں بپا رہیں۔ ویالہ کا اقتدار بڑھا۔ دولت عباسیہ صرف نام کی رہ گئی۔ خلیفہ معز الدولہ کا دست نگر تھا۔ اس کو انتظام حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ عراق اور ایران میں امراء کی خانہ جنگیاں تھیں سیاسی حالت کا تو یہ نقشہ تھا۔ معاشی کیفیت نہایت ابتر تھی۔ ہزار ہا بھوک کا شکار ہو گئے امن و امان منفقو و تھا۔ بنی بویہ کے دور میں بغداد تباہی کی راہ لگا گیا ایسا قحط پڑا کہ گلی۔ کوچہ فاقہ زدوں کی لاشوں سے آٹ گئے۔ جانداروں کی موتوں کے بدلے میں کہیں۔ مگر بختیار عیش و عشرت کرتا رہا۔

وفات | مطیع اپنے بیٹے کو لے کر واسط چلا گیا اور حرم ۳۶۴ھ میں وہیں انتقال کر گیا۔ ۳۷۵ھ

فن جغرافیہ | خلیفہ مطیع کے زمانہ میں فن جغرافیہ کی خاص ترقی ہوئی۔ ابو حنیفہ ابن رستائے الاطلاق الفیہ (۶۹۰۳) اور ابن الفقیہ الہمدانی نے کتاب البلدان لکھی۔ مگر ابن حوقل نے ان سے زیادہ سیاحت کی۔ اسپن تک سفر کیا اور جغرافیہ کی قدیم کتابوں پر اور نقشوں پر نظر ثانی بھی کی۔ ایک مجموعہ یادگار چھوڑ گیا۔ ۹۴۳ء میں ابن حوقل فوت ہوا۔

علمی ترقی | مطیع کے عہد میں دارالخلافہ شورش کا مرکز بنا رہا۔ البتہ دنیائے اسلام میں بڑے بڑے علماء اس کے عہد میں پیدا ہوئے اور انہوں نے علمی خدمات انجام دیں۔ اس کے عہد کے مشاہیر علمائے کبار تھے۔

۱۔ تاریخ خلفاء ص ۶۷۶ ۲۔ ایضاً صفحہ ۲۸

حزقی شیخ الحنابلہ۔ ابوبکر شبلی صوفی۔ ابن القاضی امام الشافعیہ۔ ابوجار
 الاسوانی۔ ابوبکر صولی۔ مشیم بن کلیب الشاشی۔ ابوالطیب الصعلوکی۔ ابوجعفر
 النخاس النخومی۔ ابوالسحاق المرزومی امام شافعیہ۔ ابوالقاسم الزجاجی النخومی
 کرخی شیخ الحنفیہ۔ دیوزمی صاحب المجاہدہ۔ ابوبکر الضبعی۔ قاضی ابوالقاسم
 ابن اعداد صاحب الفروع۔ ابوعلی بن ابوسریہ شافعیہ۔ ابوعمر زاہد
 ابن درستویہ۔ ابوعلی الطبری۔ فاکھی صاحب تاریخ مکہ۔ ابن حبان صاحب
 الضیح۔ ابن شعبان امام مالکیہ۔ ابوعلی القالی۔ عبدالمدین محمد بن یعقوب فقیہ
 متوفی ۳۴۷ھ، احمد بن محمد بن عبدالرحمن۔ ابوعمر الطبری متوفی ۳۳۳ھ
 مورخ | ابوالحسن علی المسعودی۔ آخری عبد خلفائے بنی عباس کا مورخ
 ہے مسعودی پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کو اپنی کے قدیم طریقہ سنہ واری
 اور واقعہ نگاری کو چھوڑ کر تنقیدی و سلسلہ واری طریقہ کو رواج دیا جس
 کے بعد عام مورخین نے اختیار کیا۔ المسعودی نے تیس جلدوں میں تاریخ
 لکھی جس کا خلاصہ مروج الذهب و معاون ابوجاہر ہریرہ دوسری تصنیف
 التبیہ والاشراف ہے۔

فقہا و محدثین | اسحاق بن محمد بن اسمعیل سمرقندی متوفی ۳۴۲ھ علی بن
 محمد تنوخی متوفی ۳۴۲ھ۔ احمد بن محمد بن حامد طواوسی
 فقیہ متوفی ۳۴۲ھ۔ ابراہیم بن اکسین ابوالسحاق العزومی۔ محدث و فقیہ
 متوفی ۳۴۲ھ

ابوالفرج علی بن حسین اصفہانی ادیب کامل تھا۔ بغداد میں قیام تھا اس نے کتاب الافغانی عام ضرب المثل میں تاریخی فوائد کا مجموعہ مرتب کیا۔ ایک موزونوں پر مشتمل یہ تالیف ہے یہ نظیں ابراہیم موصلی۔ اسمعیل بن جامی اقلیح بن عورہ نے خلیفہ ہارون رشید کے لیے لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نظیں ہیں۔ ابوالفرج کا انتقال ۳۵۶ھ میں ہوا۔

معلم ثانی | معلم ثانی ابونصر بن طرخان بن اوزیع فارابی ماورالنہر میں پیدا ہوا۔ سیف الدولہ کے دربار کارکن تھا۔ فارابی کے موسیقی کے کمالات شہرہ آفاق ہیں۔ سیف الدولہ کے سارے دربار کو اگر ایک راگ سے ہنادیتا تھا تو دوسرے راگ سے رلاتا تھا اور کبھی غنووگی میں لا کر عرصہ تک حالت خواب میں رکھتا تھا۔ رسالہ فصوص الحکم۔ رسالہ فی آراء اول المدینۃ الفاضلہ اور الیاتیہ المدینۃ، آخر الذکر دو کتابوں میں فارابی افلاطون کی ریسیک کے زیر اثر بہترین شہر کے نظم و نسق کو مذہبی حکومت کے تحت جسم انسانی کے مشابہ قائم کرنا چاہا ہے اس فرضی شہر کا مقصد اولین شہریوں کی خوشحالی بتانی گئی ہے اور اقتدار اعلیٰ اخلاقی و ذہنی حیثیت کا مقصد ہے اس کے علاوہ فلسفہ میں کثیر التعداد کتابوں کا مصنف ہے۔ ہم نے فلاسفہ اسلام میں مفصل حالات لکھے ہیں ۳۳۹ھ بمبراسی سال وفات پائی۔

۱۵ ابن خلکان ج ۲ ص ۷۹، اخبار الحکماء قفلی ص ۱۸۲، التنبیہ

والاشراف ص ۱۲۲

دولت حمدانیہ | حمدانی خاندان ابتداً شمالی عراق میں حکمران رہا۔ ان کا دارالحکومت موصل تھا۔ ۹۲۹ء سے ۹۹۱ء تک حمدانی سلطنت

رہی یہ لوگ حمدان بن حمد بن قبیلہ تغلب کی اولاد تھے۔ خاندان کا بانی سیف الدولہ تھا۔ ۹۲۳ء سے ۹۶۶ء میں نے ایشید کے نائب سے حلب اور حمص چھین لیا۔ سیف الدولہ کے بعد عبدالقادر اس کے بعد سعید الدولہ حکمران ہوئے۔ سعید الدولہ رومیوں کے بائیں تئیں حملوں کا میاں بی کے ساتھ دکنارہ یا آخری فورس سے شکست کھا کر ۹۶۶ء میں حلب کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد قبرص کایشہ، انطاکیہ بھی بائزریم کے ہاتھ آ گئے۔ انطاکیہ ۹۶۹ء سے ۱۰۸۴ء تک بائزریم کے قبضہ میں رہا۔ بنو فاطمی عبیدی کی طرف سے بھی سعید الدولہ پر دباؤ پڑا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے ۱۰۰۳ء میں ان کی اطاعت قبول کر لی۔ حمدانی بھی شیعہ مساک رکھتے تھے۔

تذکرہ سیف الدولہ | سیف الدولہ ابی الحسن علی بن عبدالقادر حمدانی جلیل القدر امراسے تھا پہلے موصل کا گورنر رہا

پھر خود مختار ہو گیا۔ تمام عمر اس نے رومیوں سے جہاد کرنے میں گزار دی جس کے حالات مطبع کے بیان میں کہے گئے یہ تیغ و قلم ہر دو کا مالک تھا اور اس قدر علم دوست تھا کہ بقول امام تغلبی کے اس کے دربار میں جس قدر شعراء اور اہل کمال جمع ہوئے۔ خلفائے عباسیہ کے سوا کبھی کسی کے دربار میں نہیں جمع ہوئے۔ ابو العباس المعز بن احمد بن حکیم ابو نصر فارابی اس کے دربار کے رکن تھے۔ فارابی نے قانون دیا جا (سیف الدولہ کو نذر کیا۔

سیف الدولہ کو فن ادب سے دلی لگاؤ تھا اس نے ایک کتب خانہ قائم کیا تھا جس میں صرف فن ادب کی کتابیں جمع کھیں چنانچہ فن ادب کا ذخیرہ جس قدر اس کتب خانہ میں مہیا ہوا اور کہیں نہیں ہوا۔

محمد بن ہاشم اور اس کا بھائی دونوں فن شاعری میں ممتاز تھے۔ اس کتب خانہ کے مہتمم اور افسر تھے۔ حلب سیف الدولہ کا دار الحکومت تھا۔

ابو الطیب المتنبی عرب کا قادر الکلام شاعر سیف الدولہ کا ندیم تھا۔ اس نے اس کی مدح میں متعدد پر زور قصیدے نظم کیے ہیں جو نازک خیالی۔ چستی و بندش فصاحت و بلاغت اور محاسن کلام کے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس کا مفاصلہ تمام حسب بن اوس طائی دیوان حماسہ کا جامع تھا۔

ابوالعلا المعری ۹۶۳ء میں پیدا ہوا۔ شعرا کا فیلسوف اور فیلسوفوں کا شاعر تھا۔ سیف الدولہ بڑی قدر کرتا تھا۔

المعری کی غذا اخوان الصفا اور ہندی خیالات کے ذریعہ اثر صرف نباتات تھی۔ اللزومیات اور لزوم مالایزم اور رسالہ الغفران اس کی تصانیف سے ہیں آخر الذکر تصنیف کا جو قنوطیت پر مبنی ہے ڈانسے کی کتاب دیوایں کو میڈی کی تالیف پر گہرا اثر پڑا ہے۔ ۱۰۵۶ء میں انتقال ہوا۔

ابو الطاہر محمد بن بقیۃ وزیر | ابو الطاہر محمد بن بقیۃ المقاب نصیر الدولہ عزالدولہ
مختیار بن معز الدولہ واپس نامی نائب سلطنت خلیفہ

مطبع للند عباسی کا وزیر تھا۔

۱۰ مقالات شبلی جلد ۶ ص ۱۶۲ تا تاریخ عرب مریو ص ۲۵۱

ابوالطاهر معز الدولہ کے مطبخ کا داروغہ تھا۔ بختیار کا منظور نظر ہو گیا رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے وزارت پر سر فرما دیا۔ مگر اس کے جود و سخاوت کرم و عطیے تمام عیوب پر پردہ پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ بیس روز میں اس نے بیس ہزار خلعت لوگوں میں تقسیم کئے۔

ابوالحسن کا بیان ہے کہ ایک شب کے جلسہ میں میں بھی موجود تھا۔ ابن بقیۃ نے دو سو دفعہ پوشاک بدلی۔ پہلی پوشاک بدل کر انعام میں دیدیتا۔ ایک منہ لگی مغنیہ لے گیا۔ حضور ان پوشاکوں میں شاید بھڑیں ہوں گی جو بدن پر کچھ لمحہ لباس رہنے نہیں پاتا۔ ابن بقیۃ یہ عنکر منس پڑا۔ اس کی امارت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اُس کے یہاں کا صرف موم بتی کا خرچ دو ہزار اشرفی ماہوار کا تھا۔ سخاوت میں بے عدیل تھا۔ مگر چغل خور تھا۔ عز الدولہ کو عضد الدولہ سے بھڑا دیا۔ عز الدولہ بھائی سے شکست کھا گیا۔ تو اس کو ابن بقیۃ سے نفرت ہو گئی اور اُس نے اُس کو گرفتار کر کے عضد الدولہ شاہ اہواز کے پاس بھیج دیا وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھا۔ اس نے اسے پہلے تمام شہر میں تشہیر کرایا اور پھر مست ہاتھی کے پاؤں میں ڈال کر کچلوا دیا اور پھر بیرون دروازہ شہر پھانسی پر لٹکوا دیا۔ یہ واقعہ ۳۶۷ھ کا ہے۔ ابوالحسن محمد انباری اس کے دربار کا شاعر تھا۔ اس نے اپنے آقا کی لاش پھانسی پر لٹکی دیکھی۔ مدح کے پیرایہ میں سر تیبہ لکھا جس کے دو شعر تحریر ہیں۔

حق انت احدی المعجزات

علو فی الحیوۃ و فی المات

لہ زندگی میں بھی تو بلند تھا اور مرنے کے بعد بھی بلند رہا حق تو یہ ہے کہ تو بھی گویا ایک معجزہ ہے

و فودئذاک ایام الصلوات
 و کلہم قیام للصلوۃ
 بحفاظ و حراس ثقات
 ۵

کان الناس حولک حسین قالوا
 کانک قائم فیہم خطیباً
 لعظمتک فی النفوس تربت ترعی

۱۔ لوگ جو تیرے گرداگرد کھڑے ہیں۔ ایسے معلوم دیتے ہیں کہ تجھ سے انعامات
 و عطیات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
 ۲۔ تو درمیان میں اٹا دہ ہے اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اس سے ایسا نظر
 آتا ہے کہ تو خطیب ہے اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں۔
 ۳۔ چونکہ آپ کی عظمت دلوں میں جمی ہوئی ہے۔ اس لئے آپ سوئے ہیں اور معتبر
 چوکیدار و دربان پہرہ دے رہے ہیں۔

خليفة طالع لله

نام و لقب ابو افضل عبد الكريم طالع لله بن الفضل مطع بن جعفر مقتدر بالله
اس کی پیدائش ۳۱۳ھ میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام "ہزار" تھا جو ام ولد کہتی۔ خطیب کا بیان ہے۔ امہ ام ولد اسمہا عتبہ

خلافت ۴۳ سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا (۳۶۳ھ) میں اراکین سلطنت نے بیعت کی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر سبکتگین کو نیابت کا خلعت عطا فرمایا اور نصر الدولہ کا خطاب اور پرچم مرحمت کیا۔

سبکتگین اور عز الدولہ سبکتگین کے اعزاز سے عز الدولہ گزرا بیٹھا سبکتگین کا عز الدولہ پر غلبہ تھا وہ مقابل تو نہ آیا مگر اس نے اپنے چچا زاد بھائی عضد الدولہ کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔

بغداد پر حملہ عضد الدولہ ۳۶۳ھ میں بغداد پر حملہ آور ہوا۔ اس آٹنا میں سبکتگین نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ترکوں نے امیر افغانگین کو اس

کا جانشین اور تاج و تخت کا وارث قرار دیا۔ امیر افغانگین نے عضد الدولہ سے دود دہا تھکیے، ہر دو طرف کے بہادروں نے اپنے اپنے جوہر مروا گئی دکھائے مگر افغانگین کو خوریز جنگ کے بعد شکست اٹھانا پڑی معہ اپنے ترک فوج کے

دائرہ المعارف الیسانی ج ۱۱ ص ۱۸۹ ۱۸۰ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۸۲ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۹

تکریرت کی طرف ہٹ گیا۔ لغیا و پر عز الدولہ قافلہ ہوا اور اس نے عز الدولہ تختیا
کو گرفتار کر لیا۔ تختیار کا لڑکا عضد الدولہ سے بگڑ بیٹھا۔ اس نے عمران بن شاہین
کو ساتھ لے کر عضد الدولہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور بغداد پر حملہ بول دیا عضد الدولہ
کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور وہ اپنے مستقر چلا گیا۔ پھر سے تختیار منصب امارت
پر فائز ہوا۔ مگر ابھی زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا۔ ۳۶۷ھ میں عضد الدولہ کی فتح
و نصرت کا بغداد میں دوبارہ ڈنکا بجایا۔ خلیفہ نے عضد الدولہ کو نائب سلطنت
بنایا۔ مگر اس نے طالع کا نام خطبوں سے نکلوا دیا۔ چند ماہ بعد اس میں یہی رنگ
رہا۔ اس کے عہد میں رقص کا چرچا بڑھ گیا۔ نماز تراویح بند کر دی گئی عضد الدولہ
کی ڈیوڑھی پر فجر، مغرب، عشا کے وقت لوبت بجا کرتی تھی تختیار نے راہ فرار
بغداد سے اختیار کی۔ اس کا محبوب غلام عضد الدولہ نے پکڑ لیا۔ غلام کے لیے
عز الدولہ بے چین رہتا تھا۔ دو کنیزیں ایک لاکھ میں خرید کر کے غلام کے بدلے
میں عضد الدولہ کو دیں جب غلام تختیار کے پاس پہنچا۔ تختیار ایک درجہ
خبیث باطن تھا۔ عضد الدولہ اس سے بڑھا ہوا نکالا۔ آخر میں تختیار عضد الدولہ
کے قبضہ میں آ گیا۔ اس نے اسے موت کے ٹھکانے لگا دیا۔

اس کے بعد عضد الدولہ بنی حمدان کی سرکوبی کے لیے موصل پر حملہ
آدر ہوا۔ ابو تغلب تاب مقابلہ نہ لاسکا۔ شام چلتا ہوا۔ وہیں وہ قتل ہو گیا
اس کے بیٹوں ابراہیم و حسین نے ۳۸۷ھ میں داد شجاعت دے کر موصل
پھر واپس لے لیا۔

۲۸۳ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۸۳ ۲۸۴ھ ابن اثیر ج ۸ ص ۲۱۲ ۲۸۵ھ تاریخ الخلفاء ص ۲۸۴

بعد اومیں عضد الدولہ کا دور دورہ تھا۔ خلیفہ نے اس کو سات خلعتیں عطا کیں۔ جو اہرات سے جڑا ہوا تاج عضد الدولہ کو پہنایا۔ طوق و کنگن پہنایا اور ایک ہدایت نامہ اس کے حق میں خلیفہ نے لکھا۔ جب یہ رنگ عضد الدولہ نے دیکھا تو اب خلیفہ پر زور ڈالا کہ میرے لیے اسی طرح سے تفویض قائم المقامی کی رسم ادا کی جائے۔ جس طرح خود مختار گورنروں کے لیے خانائے سابق کا دستور تھا۔ غرض کہ اس نے خلافت کی روایات کے خلاف تفویض کی تحریر کو لوگوں کے سامنے سنانے کے لیے خلیفہ کو آمادہ کر لیا۔ ورنہ خلیفہ کا قاعدہ تھا کہ اپنے خود مختار گورنروں کے لیے ایک تحریر لکھتا تھا اور بغیر دکھائے ہوئے سر بہر کر دیتا تھا۔ اور اس سے کہتا تھا۔ یہ تفویض ہے جو کچھ اس میں ہے اس پر ہمتیں عمل کرنا ہو گا۔ مگر عضد الدولہ نے جبر یہ اس کے خلاف عمل کرایا۔

خلیفہ کی زبوں حالی | عضد الدولہ نے خلیفہ کو اس حیثیت کا بنا دیا تھا کہ جب کبھی عضد الدولہ سفر سے آتا تو استقبال کے لیے خلیفہ کا باہر آنا ضروری تھا۔ ظاہرہ طور پر عام مجالس میں عضد الدولہ خلیفہ سے نہایت عزت و احترام سے پیش آیا کرتا تھا۔ عضد الدولہ ۳۶۲ھ میں مر گیا اس کا لڑکا مصمام الدولہ اس کا جانشین ہوا جس کو شمس الملک کا خطاب عطا کیا۔ مقورے عرصہ بعد اس کے بجائی شرف الدولہ نے اس پر جڑھائی کر دی اور اس کو گرفتار کر کے اندھا کر دیا۔ خلیفہ نے شرف کو نائب سلطنت

۱۰ ابن اثیر ج ۸ ص ۲۶۴ ملکہ تاریخ الخلفاء ص ۲۸۴

بنالیا۔ شرف الدولہ ۳۸۹ھ میں فوت ہوا۔ اس کا بھائی ابو نصر جانشین ہوا۔
 دربار خلافت سے بہار الدولہ اور ضیاء المملکتہ خطاب عطا ہوئے اور اعیان
 حکومت کے سامنے سات خلعتیں مرحمت ہوئیں۔ سیاہ عمامہ، طوق و کنگن
 عنایت ہوئے۔ دربار میں حاجبوں کی تلوار کے سایہ میں خلیفہ کے حضور لایا
 گیا۔ بہار الدولہ نے زمین بوسی کی اور کرسی پر بیٹھا۔ اور تقویٰ لہن کی تحریر خلیفہ
 سے پڑھوائی۔

بہار الدولہ نے عنان حکومت بغداد ہاتھ میں لیتے ہی شرف الدولہ
 بہار الدولہ کے لڑکے ابو علی کو دھوکے سے ہلا کر قتل کر دیا اور پھر مصم
 الدولہ سے بھر پڑا۔ ۳۸۹ھ میں فارس کے میدان میں دو دو ہاتھ ہوئے مگر
 صلح پر فیصلہ ہوا۔ عراق و خورستان بہار الدولہ کے قبضے میں رہے فارس
 اور ارجان صمصام الدولہ کے قبضہ و تصرف میں آئے۔

موصل کی حمدانی حکومت کا خاتمہ عضد الدولہ نے کر دیا تھا۔ مگر ناصر الدولہ
 حمدانی کے لڑکے ابو طاہر ابراہیم۔ ابو عبد اللہ حسین شرف الدولہ کے پاس
 بغداد میں رہتے تھے۔ تینوں بہار الدولہ سے اجازت لے کر موصل گئے اہل
 موصل اپنے آقا زادوں کے ہم نوا ہو گئے۔ خواشا زادہ والی موصل نے راہ فرار
 اختیار کی اور بغداد پہنچا۔ یہ تینوں بھائی موصل پر پھر قابض ہو گئے باز کردی
 والی دیار بکر نے موصل لینا چاہا۔ مگر وہ جنگ میں گھوڑے سے گر کر مر گیا اس
 کے بھائی ابو علی حسن بن مردان نے اس کے مقبوضات پر قبضہ کیا۔ اس وقت

سے دیار بکر میں مروانی حکومت قائم ہوئی۔

امراء دولت مروانیہ | ابو علی حسن بن مروان (۳۸۰ھ - ۳۸۶ھ)
عہد والدولہ ابو نصر احمد بن مروان (۳۸۴ھ)

نصر الدولہ ابو نصر احمد بن مروان (۳۸۳ھ)۔ نظام الدولہ نصر بن احمد
(۳۸۲ھ) منصور بن نصر (۳۸۹ھ) ابو علی کے بعد نصر الدولہ اس خاندان
میں جلیل القدر حکمراں تھا۔ علماء کا مربی و سرپرست۔ امام عبدالعزیز گزونی
اس کے دربار علمی کے رکن اعلیٰ تھے یہ وہ مہستی تھے جنہوں نے دیار بکر میں
شافعی مذہب کی اشاعت کی۔ نصر الدولہ کے عہد میں دیار بکر کی پست
قومیں تعلیم کی طرف رجوع ہوئیں اور ان کی تمدنی حالت درست ہوئی۔
۳۸۹ھ میں یہ دولت بھی سنی بویہ کے ملک کے ساتھ سلاجقہ کے قبضہ میں
چلی گئی۔

بغداد کی مرمت | طالع کے عہد میں مسلسل خوزریوں اور عہد معرکہ راپوں
نے بغداد کو ویران کر دیا تھا۔ تختیار کی نیابت میں
اور خراب حالت ہو گئی تھی۔ عضد الدولہ نے ۳۶۹ھ میں فصیل بغداد
کی مرمت کرائی۔ مسجد اور بازاروں کو درست کرایا۔ طالع کے مشورے
سے آئمہ، علماء، فقراء میں مال و زر تقسیم کیا۔ نہروں کو جاری کرایا۔
شفا خانہ | ۳۷۹ھ میں شفا خانہ عضدی کھولا گیا۔

عضد الدولہ کی نظر خلافت پر | عضد الدولہ کا شوق سیادت اس رتبہ بلند
ہونے کے بعد بھی تشنہ تھا اس کی تمنا

یہ بھی کہ خلافت بھی اس کے خاندان میں منتقل ہو جائے چنانچہ اس نے اپنی
 لڑائی کا طالع کے ساتھ صرف اس امید پر عقد کر دیا کہ اگر اس سے کوئی
 بیٹا پیدا ہوگا وہ خلافت کا وارث ہوگا۔ مگر یہ امید بر نہ آئی۔

ذکر آل حمدان | آل حمدان نے باز کے قتل کے بعد دیار کبر پر فوج کشی کی
 ابو علی نے گرفتار کر لیا۔ مگر والی مصر کی سفارش سے

ابو عبداللہ چھوٹے اور مصر چلے گئے۔ اس کو والی مصر نے حاکم حلب بنا دیا
 ابو طاهر نصیبین گیا تو وہاں کے والی محمد بن مسیب عقیلی نے اس کو گرفتار
 کر کے قتل کر دیا اور موصل پر حکمرانی کرنے لگا۔ پھر اس کی اولاد میں عقیلی
 حکومت ایک عرصہ تک رہی جس کا ذکر قادر کے حالات میں تحریر ہے۔

دولت غزنویہ

طالع کے عہد میں افغانستان کی غزنوی حکومت قائم ہوئی یہ حکومت
 ماورالنہر کی سامانی حکومت سے پیدا ہوئی۔ یہاں کافرمانروا امیر نوح بن
 منصور سامانی تھا۔ اس کی حکومت کی بنیاد کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے پہلو
 میں ایک جدید قوت شہاب الدین بخرخاں کی پیدا ہو گئی وہ سامانیوں کے
 مقابل طاقت ور تھی۔ ادھر سکتگین کے اقبال کا اشارہ طلوع ہو رہا تھا۔
 رفتہ رفتہ وسط ایشیا سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئی اس حکومت کا
 بانی امیر سکتگین ماورالنہر کی سامانی حکومت کے خراسانی صوبہ دار
 امیر الپتگین کا غلام تھا۔ مگر تھا سامانیوں کی نسل سے اس کے بزرگ ایک عرصہ

ایک حکمرانی کر چکے تھے۔ زمانہ کے ہاتھوں سبکتگین کو غلامی کا منہ دیکھنا پڑا۔
 سبکتگین کو شجاعت اور دور بینی ورثہ میں ملی تھی۔ اس کے لشکر سے
 آثار ترقی ظاہر ہوتے تھے۔ ترقی کرتے ہوئے فوج غزنی کا سپہ سالار
 ہو گیا۔ ۳۸۳ھ میں بغرا خاں مذکور نے آل سامان کے نائب ابو الحسن
 بنجور کو جو خراسان کا امیر تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ملا لیا اور بخارا پر حملہ کر دیا۔ نوح
 بن سامان مغلوب ہو کر آمد چلا گیا۔ بغرا خاں حسن اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ تو
 نوح نے پھر اپنے گئے ملک پر قبضہ کر لیا۔ بغرا خاں اس مرض میں جاں
 بحق ہوا۔ اس کا بیٹا ایک خاں اس کا جانشین ہوا۔ اس نے ۳۸۶ھ میں
 امیر نوح کے مرنے کے بعد اپنے سپہ سالار فائق کو بخارے پر قبضہ کے
 لیے بھیجا۔ فائق نے بخارا فتح کر لیا۔ منصور بن نوح نے صلح کر لی کہ ملک
 ایک خاں کا رہے اور حکومت فائق کی ہو۔ مگر فائق اور سامانی سپہ سالار
 بکتوزون نے ناہمی میں کر کے منصور کو قتل کر دیا اور اس کے بیٹے عبد الملک
 کو تخت نشین کیا۔ ۳۸۹ھ میں خود ایک خاں بخارا گیا۔ اس نے بکتوزون
 کو گرفتار کر لیا۔ عبد الملک بھاگ گیا۔ مگر وہ گرفتار ہو کر آفگنہ میں قید کر دیا گیا
 وہیں وہ ہوا۔ اس کے بعد سے سامانی دولت کا چراغ گل ہو گیا۔ جس کی
 تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ سامانی حکومت حلوان سے حدود چین
 تک تھی۔

امیر سبکتگین | آل سامان کی طرف سے غزنی میں اسحاق بن اہتگین امیر
 تھا۔ سبکتگین اس کا غلام تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے

اسحاق کی فوج نے اسحاق کے مرنے کے بعد سبکتگین کو اپنا سردار بنا لیا وہ ہر سپاہی سے برا درانہ سلوک کرتا تھا۔ سبکتگین نے ہندوستان کی سرحد پر مختلف جنگیں کیں۔ راجہ جے پال سے مقابلہ رہا۔ اس کے تفصیلی حالات تاریخ ملت جلد نہم میں تحریر کئے جائیں گے۔

غرضکہ ۳۳۷ھ میں خراسان میں فائق اور ابو علی سمجور نے بغاوت کی۔ اس وقت امیر نوح سامانی نے سبکتگین کو ان کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے فخر الدولہ بنی بویہ اور امیر حرجان سے مدد مانگی اس نے لشکر روانہ کیا۔ امیر سبکتگین نے لواچی جرأت پران سب کو شکست دی جس سے کچھ عرصہ کے لیے خراسان آل سامان کے پاس رہ گیا۔ امیر نوح نے سبکتگین کو ناصر الدولہ کا خطاب دیا اور اس کے بیٹے محمود کو جس نے اس جنگ میں کارنامے نمایاں کئے تھے سیف الدولہ کا خطاب عطا کر کے خراسان کا والی مقرر کیا۔ اس نے نیشاپور میں قیام کیا اور سبکتگین غزنی کی طرف واپس آ گیا۔ ابو علی سمجور نے موقعہ پا کر پھر پورس کی محمود تاج مقابلہ نہ لاسکا۔ غزنی روانہ ہونے کو تھا۔ سبکتگین نے خبر پا کر طوس کے متصل ابو علی کو جالیا اور اس کی مزاج پرسی ایسی کی کہ پھر سر اٹھانے کی اس میں طاقت نہ رہی۔ ۳۸۷ھ میں امیر سبکتگین کا انتقال ہوا۔ یہ نہایت عادل، دیندار مجاہد۔ پابند عہد تھا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا اسمعیل امیر ہوا۔ امیر محمود سے چھوٹا تھا۔ امیر محمود نے اس کو لکھا کہ امارت میرا حق ہے تم اپنے درجہ پر رہو۔ مگر وہ راضی نہ ہوا تو امیر محمود نے نیشاپور سے غزنی پر فوج کشی کر دی

اسمعیل گرفتار ہو گیا۔ محمود نے اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کیا۔ محمود نے سامانی سرداروں کو زیر کر کے مستقل سلطان بن گیا۔

عباسی خلیفہ قادر باستر نے اس کو پین الدولہ کا خطاب عطا فرمایا ولایت کا خلعت بھیجا۔ اطراف ممالک کے بادشاہوں نے سلطان محمود کی قوت کو دیکھ کر دربار میں اطاعت نامے ارسال کیے ہندوستان میں متعدد فتوحات حاصل کیں اور بڑے حصہ پر قبضہ کیا نیز رے اور جبال وغیرہ بھی اس کی حکومت میں آگئے۔ جرجان اور طبرستان کے بلوک نے بھی اطاعت قبول کی۔ بقیہ حالات آگے آتے ہیں۔

دولت زاریہ | اس دولت کا حال پہلے کچھ آچکا ہے جرجان میں داد و تیج بن زیار نے سلطنت قائم کی تھی۔

امر لے دولت زاریہ | مرداد و تیج بن زیار (۳۱۶ - ۳۲۳ھ) و تیج شنگیر (۳۵۷ھ)۔ ظہیر الدولہ بے ستون پسر و تیج شنگیر

(۳۶۶ھ) شمس المعالی قابوس پسر و تیج شنگیر (۳۷۰ھ) شمس المعالی کے ہاتھ میں جرجان اور طبرستان کی آزاد حکومت تھی۔ ۳۶۶ھ میں تخت نشین ہوا۔ ۳۷۱ھ میں ویلیوں نے اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ شمس المعالی نے سامانیوں کے یہاں پناہ لی۔ ۳۸۸ھ میں دوبارہ حکومت حاصل کی۔ ۴۰۴ھ میں بلوے میں قتل ہوا۔

شمس المعالی علم دوست حکمران تھا۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا اس کے دربار علمی میں اس وقت پہنچا۔ جب وہ انتقال کر چکا تھا شمس المعالی

نے ابیرونی کو طلب کیا اور اپنے پاس ایک عرصہ تک رکھا۔ ابیرونی کی عمر ۲۷ سال کی تھی۔ اس نے تجرید الشفاعات اور کتاب آثار الباقیہ لکھ کر شمس المعالی کی خدمت میں ۳۹۱ھ میں پیش کی۔

شمس المعالی کے قتل کے بعد فلک المعالی منوچہر سپر بے ستون تخت نشین ہوا۔ ۴۲۲ھ تک حکمراں رہا۔ اس کے بعد ابو مشر و آل بن قابوس ہوا اسکے وارث شاہان غزنویہ ہوئے۔

طالع کی گرفتاری بہار الدولہ ولیمی حکمرانوں میں منحوس تھا۔ اس کے عہد میں خزانہ خالی تھا۔ فوج کو تنخواہ وقت پر نہ ملتی تھی۔ چنانچہ ۳۸۱ھ میں فوج میں روپے کے لیے شورش پیدا ہو گئی۔ امیر ابواکسن بن معلم فتنہ پرداز نے بہار الدین سے کہا کہ طالع کے خزانے میں کافی دولت ہے اگر طالع کو گرفتار کر لیا جائے تو اس کی دولت ہاتھ آجائے گی۔ بہار الدولہ نے تجدید عہد کے بہانہ طالع سے بازیابی کی اجادت چاہی اس نے دیدی۔ بہار الدولہ چند ولیموں کو ساتھ لیکر پہنچا۔ پہلے زمین بوس ہوا اور کرسی پر بیٹھا۔ ولیمی بھی دست بوسی کے بہانے سے آگے بڑھے۔ اور طالع کو تخت سے کھینچ کر ظالموں نے نیچے اتار لیا اور گرفتار کر لیا بہا الدولہ نے محلات کا سامان لوٹ لیا۔ طالع کو بہار الدولہ کے محل میں لا کر خلافت سے معزول کر کے قاہرہ بادشاہ کے محل میں نظر بند کر دیا۔ مگر قاہرہ نے دوران نظر بندی میں طالع کی عزت و حرمت کا پورا سحناظر رکھا اور حتی الوسع آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔

انتقال | ہمیں طالع کا شبِ عید الفطر ۳۹۳ھ میں انتقال ہو گیا۔ وصافہ میں دفن ہوا۔ اس کی مدتِ خلافت سترہ سال آٹھ مہینے اور عمر ۴۴ سال تھی۔ نماز جنازہ قادریہ بالشرع پڑھائی۔ شریف رصنی نے مرثیہ اس کے لیے لکھا۔

اوصاف | طالع شجاع تھا۔ خلیق و متواضع، حتی المقدور انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ دماغی قوت اور اوصاف جہا نبانی سے محروم تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں عضد الدولہ کے اقتدار کو بڑھایا۔ مگر اس کے ساتھ قومی بڑا تھا۔ اس کی بہادری کا واقعہ الفخری میں یہ ہے۔

اس کے قصرِ لبان میں ایک پہاڑی بنیڈھامست ہو گیا کوئی شخص اس کے پاس جانے کی ہمت نہ کرتا تھا طالع خود اس کو قابو میں لانے کے لیے گیا۔ بندھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ طالع نے بڑھ کر اس کے دونوں سینگ پکڑ لیے اور بڑھئی کو بلا کر آرمی سے سینگ کٹوا دئے جب تک سینگ نہ کٹ گئے خود طالع پکڑے رہا۔ طالع کی جسمانی طاقت بہت تھی۔ مگر دماغی حالت کمزور تھی جس کا نتیجہ اس کی معزولی کی صورت میں رونما ہوا۔

خطبہ | طالع کی کمزوری اور ضعف سلطنت کا نتیجہ تھا کہ حرمین میں خانقاہ عبا سیہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ فاطمیہ مصر معز الدولہ کے نام کا خطبہ

۱۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۸۵ ط ۵ تاریخ بغداد جلد ۱ ص ۷۹، لکھ الفخری ص ۲۵۹

پڑھا جانے لگا۔

طالع کے وقت میں حسب ذیل علماء نے انتقال کیا۔

ابن السنی الحافظ۔ ابن عدی۔ قفال کبیر۔ حسن السمرانی نحوی قاضی بغداد
متوفی ۳۶۸ھ۔ ابوسہیل الصعاقی۔ احمد بن علی بن حسین ابوبکر اسمراسی
اکنفی محدث متوفی ۳۳۵ھ صاحب احکام القرآن۔ ابن خالویہ۔ ازہری
امام اللغۃ۔ ابوابراہیم فارابی صاحب دیوان الادب۔ رفاث شاعر۔ ابوزید
المروزی الشافعی دارالکلی۔ ابوبکر الاہری شیخ المالکیہ نصر بن محمد بن احمد
ابواللیث السمرقندی محدث امام اکنفیہ۔ ابوعلی فارسی النحوی۔ ابن الحلاب
المالکی۔ علی بن الطحاوی محدث متوفی ۳۵۱ھ۔ احمد بن محمد نیشاپوری محدث
قاضی بحرین متوفی ۳۵۱ھ ابن ابی یعقوب الذہبی الوراق علمائے اسلام
سے تھا۔ فہرست العلوم مشہور و معروف اس کی تصنیف سے ہے ۳۸۵ھ
۶۹۹ھ میں یہ جلیل القدر عالم فوت ہوا۔

ابوبکر احمد بن محمد بن موسیٰ بن رجاہ الاربخنی فقیہ و محدث متوفی ۳۶۹ھ
میں انتقال کیا۔

ابی بکر محمد بن حسن معروف نقاش موصلی معتزلی شفا الصمدی کے مصنف
ہیں ۳۵۱ھ میں فوت ہوئے۔

۱۷ تاریخ الخلفاء ص ۲۸۲ ۱۸ معجم البلدان ج ۱ ص ۱۷۶

خليفة قاور بالله

نام و لقب | ابو العباس احمد قاور بالله بن اسحاق بن مقدر بالله اس
کی والدہ ومنہ نامی تھی۔ سلسلہ میں اس کے لطن سے
پیدا ہوا۔

تعلیم و تربیت | اشاہی گھرانے کا فروہ ہوتے ہوئے آباد اجداد سے
ورثہ میں علم و فضل عطا ہوا تھا۔ وہ بڑا فقیہ تھا یہاں تک
اس کو تفقہ میں علامہ ابی بشر الہروسی الشافعی پر ترجیح دیجاتی تھی۔
خلافت | طالع کی گرفتاری کے بعد ۳۸۱ھ میں با تفاق آراء قاور
بالله ابو العباس احمد بن اسحق بن مقدر کے ہاتھ پر اراکین سلطنت
نے بیعت کی۔

وقائع | طالع کی زندگی میں قاور نے اس کو ایک مرتبہ خلافت سے
معزول کرانے کی کوشش کی تھی اس وجہ سے طالع نے اس
کی گرفتاری کا حکم و یادہ بغداد سے بطیخہ میں مہذب الدولہ ابو الحسن کے
پاس چلا گیا۔ اس نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ طالع
کی معزولی کے بعد امرائے بغداد نے قاور کو خلافت کے لیے نامزد کیا

لقد تاریخ الخلفاء ص ۲۸۶ طے طبقات الشافعیہ ج ۳ ص ۱

بہار الدولہ نے اپنی خواہش کو قاور کے لینے کے لیے بھیجا۔ مہذب الدولہ نے
شاہانہ ساز و سامان کے ساتھ قاور کو بغداد روانہ کیا اور بہت بڑی رقم بھی
ساتھ کر دی۔ ۱۲۱۱ھ رمضان ۱۸۳۸ء کو بغداد میں قاور رونق افروز ہوا۔
بہار الدولہ اور تمام امرائے سلطنت استقبال کے لیے نکلے نہایت بزرگ
احتشام کے ساتھ دربار میں لائے اور اس وقت خلافت کی بیعت ہوئی

نائب سلطنت | بہار الدولہ کو نائب السلطنت بنے ہوئے تھے
نام کے لیے قاور خلیفہ تھے امور مملکت میں ان کا

کوئی دخل نہ تھا۔ مگر قاور ذمی علم اور ذمی لیاقت تھا اس نے علماء کو
اپنے دربار میں جگہ دی اور رعایا کا خبر گیریاں رہتا تھا۔ بہار الدولہ سے
کہہ سکر رعایا کی فلاح و بہبود کے کام کرتا۔ اس لئے رعایا میں بہت ہر عزیز
ہو گیا۔ امراء اور حکام پر بھی اس کا اثر ہونے لگا۔

مورخین کہتے ہیں کہ قاور نے اپنے جن تدبیر و سیاست والی سے خلافت
میں ایک تازہ روح پھونک دی اور حکام و عمال نے بھی اس کی اطاعت
کی۔ آہستہ آہستہ بہار الدولہ سے قاور اختیار لینے لگا۔

صلح رومیوں سے | رومیوں نے ارمینیہ کے علاقہ پر حملہ کر دیا۔ بلاذرخلاط
بلاذکرو، دارعبیش کا حاضرہ کر لیا امیر ابو علی حسن بن

مردان نے جو نو مردان میں حاکم تھا۔ ان کے پریشان کن حملوں سے محفوظ رہنے

لہ دیا۔ کبر پر بار کرد کا قبضہ تھا اسکے بھائی ابو علی حسن نے ۳۸۸ھ میں دولت سرانہ قائم
کی ابو علی نہایت فرزانہ مدبرا اور کریم الصبح تھا سیف الدولہ کی بیٹی ست النامی سکون سو باہمی۔

کے لیے ان سے دس سالی کے لیے معاہدت کر لی۔

نئی حکومتوں کا قیام | حکومت بنی عباس کی کمزوری سے آئے دن نئی
حکمرانیاں قائم ہو رہی تھیں چنانچہ بنی کی دولت
زیادہ پر آل زیادہ کے ایک حبشی غلام موید بنجاح نے ۵۵۴ھ میں قبضہ کر کے
اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا

بنی حمدان | موصل میں بنی حمدان حکمراں تھے۔ ان میں حکومت کرنے کی
صلاحیت نہ رہی تو ان کے کھنڈروں پر دولت عقیلی کی تعمیر
ہوئی یہ بنی بویہ کے ماتحت تھے۔

۵۵۴ھ دولت ۵۵۴ھ تک اس کی نسل میں رہی۔ امراء کے نام یہ ہیں
موید بنجاح (۴۱۴-۴۵۴ھ) سعید احوال بن نجاح (۴۸۲ھ) جیاش
بن نجاح (۴۹۸ھ) فاتک بن جیاش (۵۰۳ھ) منصور بن فاتک (۵۱۶ھ)
۵۵۴ھ میں یہ دولت ختم ہو گئی اور دولت ہمدانیہ کے قبضہ میں گئی۔
دولت عقیلی - حسام الدولہ مقلد بن مسیب (۳۸۶-۳۹۱ھ)
معتد الدولہ قرواش بن مقلد (۳۴۲-۳۵۷ھ)

قرواش نے خلیفہ عباسی کا خطبہ ترک کر کے فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا قواد
نے قاضی ابوبکر باقلانی شیخ اشعریہ کو بہار الدولہ کے پاس بھیجا اس نے موصل
پر فوج سرکوبی قرواش کے لیے روانہ کی۔ قرواش نے خوف کھا کر پھر عباسی
خطبہ جاری کر دیا۔

دولت مرواسیہ | حلب کے علاقے پر خلفائے فاطمین کے پے ورپے حملے ہوئے آخر میں ان کا یہاں اقتدار ہو گیا۔ ان کا

خطبہ بھی یہاں جاری ہوا۔ اس علاقہ کے امرائے عرب حسان امیر بنی طر صاحب بن مروان امیر بنی کلاب اور مسان بن زلیان۔ شجاع اور بہا اور اس کے ساتھ اسلامی وردانی کے دل میں تھا۔ خلفائے بنی فاطمین کی غلط روش اور ان کی ترویج بدعات سے متاثر ہو کر ان کے مقابل آئے فوج سے دو دو ہاتھ کئے۔ ان کو حلب تکہ شام سے بھی بے دخل کر دیا۔ حلب سے عاتہ تک صاحب نے قبضہ کیا۔ رملہ سے مصر کے حد و تک حسان کے تصرف میں آیا۔ دمشق پر مسان حکمران ہوا

۳۲۳ھ میں فاطمی خلیفہ النظار نے اوسلین بربری کے ہمراہ ایک فوج ان امرا سے مقابلہ کے لیے بھیجی۔ صاحب اس جنگ میں کام آیا لیکن اس کے بیٹے نصر نے مصریوں کی پوری طاقت کا مقابلہ کیا اور ان کو مار ڈکایا پھر بلا شرکت غیر نے نصر حلب پر حکمرانی کرنے لگا اس کی اولادیں ۳۸۲ھ تک حکمرانی رہی۔

(۳) زعم الدولہ ابو کامل برکت بن متقہ (۳۳۴ ۳۴۷ھ) علم الدولہ ابو المعالی قرداش بن بدران بن متقہ (۳۴۵ ۳۵۳ھ) شرف الدولہ ابو المکارم مسلم بن قرداش (۳۶۸ ۳۷۷ھ) ابراہیم بن قرداش (۳۷۶ ۳۸۶ھ) علی بن مسلم بن قرداش (۳۸۹ ۳۹۷ھ) امرائے حلب :- صاحب بن مروان (۳۷۱ ۳۸۰ھ) شبل الدولہ ابو کامل نصر (۳۷۹ ۳۸۷ھ) معز الدولہ ابو علوان طہل بن صاحب (۳۸۹ ۳۹۷ھ) باقی برصغیر (۳۸۷ ۳۹۷ھ)

عراق کے حکمران قاور کے عہد میں دیالمہ میں سے یہ چار تھے۔
 (۱) ہارون الرشید ابو نصر بن عبدالملک الدولہ۔ اس کی حکمرانی عراق فارس
 اور اذربائیجان پر تھی۔ اس نے ۱۳۰ھ میں انتقال کیا۔
 (۲) سلطان الدولہ ابو شجاع بن ہارون الدین باب کا خلیفہ ہوا
 (۳) شرف الدولہ ابو علی بن ہارون الدولہ اس نے ۱۳۱ھ میں
 سلطان الدولہ سے سلطنت چھین لی اور اس نے فارس اور کرمان جا
 کر اپنی حکومت بنی قائم کی۔ ۱۳۱ھ میں شیراز میں مراد اس کا بیٹا کا تاج
 اس کا خلیفہ ہوا۔ شرف الدولہ نے ۱۳۱ھ میں انتقال کیا۔
 ۴۔ جلال الدولہ ابو طاهر بن ہارون الدولہ، شرف الدولہ کے بعد خطبہ
 اس کا نام پڑھا گیا۔ یہ کبصرہ میں مقیم تھا۔ اس کو بلا یا گیا مگر وہ نہیں آیا۔ تو
 اس کے نام کے بجائے ابو کا تاج والی فارس کا نام خطبہ میں لیا گیا وہ
 اپنے چچا ابو الفوارس حکمران کرمان کے ساتھ جنات میں مصروف تھا۔ اس
 وجہ سے بغداد آنے میں تعویق عمل میں آئی۔ یہاں بوجہ باوشاہ نہ ہونے
 کے ترکوں نے شورش برپا کر دی۔ امرائے بغداد نے جلال الدولہ کو
 لکھا اس نے ۱۳۱ھ میں آکر حکومت کو سنبھالا۔

صفحہ ۳۴۳ کا بقیہ) ابو ذؤبہ عطیہ بن عمار (۳۵۵ھ) رشید الدولہ دوبارہ (۳۶۸ھ)
 جلال الدولہ نصر بن رشید الدولہ (۳۶۸ھ) ابو الفضل خلیفہ بن رشید الدولہ (۳۸۲ھ)
 اس سے بنی عقیل نے حکومت چھین لی۔

۳۸۱ھ میں علویوں نے مکہ میں حکمرانی کی لہذا صلی چنانچہ ابو القیوچ ابن
علوی بن جعفر علوی نے اہل مکہ سے بیعت لی اور الراشد باللہ انیالقب
 رکھا عبید بن مصیر کا اقتدار مکہ سے اٹھ گیا۔ خطبہ ابو القیوچ کا پڑھا جانے
 لگا۔ خلافت میں مقابلہ کا دم نہ تھا۔ مگر اقتدار حکمرانی ابن سہبیل نہ سکا کنار
 کشتی اختیار کی۔ پھر خطبہ عبید بن رفاطین مصر کا جاری ہو گیا۔

۳۸۲ھ میں کرخ میں وزیر ابو نصر ساہور اردشیر نے عظیم
کتب خانہ ایشان کتب خانہ کی عمارت تعمیر کی، اس کا نام دارالعلم
 رکھا اس میں جمیع علوم و فنون کی کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا اور ابن کے انتظام
 کے لیے علماء کی مجلس بنائی اور وقف کیا۔

۳۹۲ھ میں بہا الدولہ نے شریف احمد حسین بن
قاضی القضاة موسیٰ الموسوی کو قاضی القضاة کے عہدہ پر سرفراز
 کیا۔ مگر قادر باللہ نے منظور نہیں کیا۔

۳۹۵ھ میں مصر کے خلیفہ حاکم نے بہت سے علماء کو قتل کرا دیا اور
 سامعہ کے دروازوں پر تبرا لکھوایا اور یہ حکم دیا کہ جہاں میرا نام لیا جائے
 تعظیم کی جائے۔

۳۹۸ھ میں بغداد میں شیعہ سنی فساد ہو گیا۔ شیخ ابو حامد الغزالی قتل
 ہوتے ہوتے پھگے۔ شیعہ یا حاکم یا منصور کے لڑے لگانے لگے۔
 القادر باللہ نے اس فتنہ کو بقوت ختم کیا شیعہ کثیر العدد قتل کئے گئے

۲۸۶ تاریخ الخلفاء ۲۸۷ تاریخ الخلفاء ۲۸۸ تاریخ الخلفاء

وفات ۳۲۲ھ میں قادریہ بالند اکتالیس سال تین ماہ سلطنت کر کے
شب دو شنبہ ۱۱ ذی الحجہ ۳۲۲ھ کو جان بحق تسلیم ہوا

اوصاف قادریہ بالند عقیل و دانا خلیفہ تھا۔ بقول علامہ ابن خلدون
ولیم اور ترک کے دلوں پر اس کے رعب کا سکہ بیٹھا

ہوا تھا۔

علامہ سیوطی کا بیان ہے۔

قادریہ صاحب دیانت و سیاست تھا۔ ہمدان نے کبھی قضا
نہیں کی۔ خیرات بہت کرتا تھا۔ جن طریقت میں یکتا تھا ایک
کتاب فضائل صحابہ اور تکفیر معتزکہ اور تالیسین نطق قرآن
لکھی۔ یہ کتاب جامع مسجد مدنی میں ہر جمعہ کے دن اصحاب
حدیث کے حلقہ میں پڑھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی لکھتے ہیں:-

علم کے ساتھ وہ باعمل بھی تھا۔ اس کی سعادت و مندرسی
تجد گزاری، نیکیاں اور عبادت و خیرات کی کثرت
اس قدر مشہور تھیں جس سے ہر شخص واقف تھا۔
خطیب دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

قادریہ بالند حکومت کی مباحثیت رکھتا تھا۔ حسن سیرت اور حسن
اطوار میں ممتاز تھا۔ رب سے بڑی بات یہ تھی کہ ندھی عقائد

ملہ تاریخ، خلفاء ص ۲۶۶ ملہ تاریخ ابن خلدون جلد سیزدہم ص ۲۰۰ ملہ تاریخ الخلفاء

نبات اچھے سے۔

اخلاق ابن اثیر کا بیان ہے کہ وہ عظیم الطبع، کریم النفس تھا بھائی اور
انیکسوں کو محبوب رکھتا تھا۔ نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا
تھا۔

سخاوت سخاوت میں قادر بہت بڑھا ہوا تھا حتیٰ کہ اپنے افطار میں تک
کے مین حصہ کرتا۔ دو حصہ باع رصافہ اور بغداد کے
ساکین کو بھیجتا تھا۔

علمی ترقی قادر باللہ کے عہد میں علمی ترقی سے پایاں تھی، باوجود کہ خلافت
بنی عباس کا دائرہ محدود تھا مگر جس قدر اس کے عہد کے
امرات علماء کی قدر دانی کرتے۔ دولت سے نوازتے جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ قادر کے عہد میں کثرت سے فکر و اسلامی میں علماء اور فضلا پیدا ہوئے تاریخ
ان خلفاء سے ان کی فہرست صرف نقل کئے دیتے ہیں۔

ابو احمد عسکری، الادیب، ربانی نحوی۔ ابو الحسن ماہر سبکی شیخ الشافعیہ
ابو عبد اللہ المرزبان، دار قلمی الحافظ، ابن شاہین، ابو بکر اودنی الشافعی
یوسف ابن السیرانی، ابن رواق مصری، ابن ابی زید مالکی۔ ابوطالب
محمد صاحب قوت القلوب، ابن بظہر البغدالی، ابن تمیمون الواعظی خطابی،
خانم اللثومی، ادومی ابو بکر، زاہر السرخسی شافعی۔ ابن علی بن المقرئ سیانی
من زکریا النہروانی

۱۔ خلیفہ، ج ۳ ص ۳، ۲۔ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۳، ابن اثیر ج ۱ ص ۱۶۴

تذکرہ علم | قاضی ابو ظاہر زید بن عبدالوہاب بن محمد الازدستانی الادیب الشافعی

نیشاپور میں آکر رہے۔ ذی قعدہ ۴۱۵ھ کو وفات ہوئی۔ معجم
البدان ج ۱ ص ۴۴۱

قاضی ابوالحسن عبد الجبار بن احمد بن خلیل الاسد اباذمی ذریعہ میں
پابند مذہب شافعی تھے۔ اصول میں معتزلہ کے تخیال تھے۔ تصانیف کثیرہ
یا دگار سے ہیں۔ رہنے کے قاضی رہے۔ پھر بغداد آئے۔ کچھ عرصہ بعد خراسان
جا کر رہے وہیں ۴۱۵ھ کے بعد وفات پائی۔ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۱۰

دولت غزنویہ | امیر سلجوقین سے ۳۶۶ھ میں غزنوی حکومت کی بنیاد
پڑی۔ امیر غزنوی شخصیت اس خاندان میں سلطان محمود کی تھی

دنیا سے اسلام کا مجاہد اعظم تھا۔

سلطان محمود غزنوی | سلطان نے سامانیہ حکومت کے خاتمہ کے بعد
ان کے مقبوضات پر قبضہ کیا۔ ماورالنہر پر

ایک نیاں کا قبضہ تھا۔ محمود سے صلح ہو گئی۔ دریائے جیحون دو ٹولوں
کی سرحد قرار پایا۔ ۳۹۶ھ میں محمود ہندوستان کی ہم میں مصروف تھا اور انہر

امیر سلجوقین۔ امیر اکمل سلطان محمود۔ امیر محمد بن محمود، محمود بن
محمود، علی بن محمود، عبدالرشید بن محمود، فرخزاد بن محمود، ابراہیم بن محمود
محمود بن ابراہیم۔ ارسلان شاہ بن محمود۔ بہرام شاہ بن محمود شاہ، خسرو
شاہ بن بہرام شاہ، ملک شاہ بن خسرو، ۴۵۹ھ میں شہاب الدین غوری کے
ہاتھوں اس حکومت کا خاتمہ ہوا۔

کے ترکمانوں نے حملہ کر کے نیشاپور اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ محمود خیر شکر سند سے واپس آیا۔ ترکمانوں نے پنج کر نکالنا چاہا۔ حاکم غزنوی اور سلطان عادل نے ناکہ بندی کر کے ہوار کے گھاٹ سب کو اتار دیا۔ بقیہ ایک خان کے پاس گئے وہ چالیس ہزار فوج سے محمود کے مقابل آیا اور شکست کھائی پھر محمود نے غور کے علاقہ پر قبضہ کیا۔ ۳۸۴ھ میں گرجستان فتح کیا۔ ۳۸۵ھ میں اہل خوارزم نے اپنے فرما رزوا ابو العباس ماموں جو محمود کا حقیقی بہنوئی تھا قتل کر دیا۔ محمود انتقاماً خوارزم پر حملہ آور ہوا۔ سپہ سالار الپتگین بخاری کو گرفتار کر لیا اور خوارزم پر قابض ہو کر اپنے صاحب التوتامش کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد رے پر قابض ہوا۔ محمدالدولہ گرفتار ہوا۔ ولہی خاندان کی بے اندازہ دولت محمود کے ہاتھ گئی۔ قریب و جوار کے جس قدر حکمران تھے وہ یکے بعد دیگرے اس کے مطیع ہو گئے۔ یوسف قدر خان فرما رزوا کے ختم جو ترکستان کے حکمرانوں میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ کاشغر سے محمود سے ملنے سمرقند آیا۔ ہر دو میں تعلقات دوستانہ قائم ہوئے۔

ہندوستان | سلطان محمود نے ہندوستان پر سولہ یا سترہ حملہ کئے
 راجہ انند پال والی پنجاب اور فوج کا لجنہ مہترا
 مالوہ، اجمیر، گوالیار، گجرات کی متحدہ افواج کو شکست دی غرض کہ
 پنجاب پر اپنے غلام ایاز کو حاکم بنایا۔ سندھ و نیشاپور سے لے کر پنجاب تک
 زیر نگیں کر لیا۔

علمی ترقی سلطان محمود جہانگیر و کشور کشا تھا اس نے علم و تمدن کی بھی گراں قدر

خدمات انجام دیں۔ جامع کمالات فرما کر وہ اس کے لیے مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھی گئیں۔ وہ علماء کا قدر والی اور ان کے اعزاز و اکرام مرعی رکھتا وہ عدل پر در اور رعایا کے ساتھ شفیق تھا۔

محمود و بڑا صاحب علم تھا۔ ممتاز فقہ فصاحت و بلاغت میں بیکارہ فقہ حدیث خطبات میں اس کی تصانیف ہیں، کتاب التقریر کثرت مسائل میں امتیازی درجہ رکھتی ہے۔

اس کے دربار کے علماء میں ابیرونی، ابوالحسن خوار، ابوالنضر سے لوگ

محمود و شاعر تھا۔ اس نے شاعری کا ایک حکمہ قائم کر رکھا تھا۔ عنصری کو نامک الشعراء کا خطاب دیکر شعبہ شاعری کا افسر مقرر کیا۔ چار سو شعراء اس سے

منسلک تھے ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری، ابوالحسن علی بن قلع حسینی

حسن بن اسحق فردوسی، ابوالنضر علی بن احمد اسد طوسی وغیرہ مشہور درباری

شعراء تھے۔ محمد السدستی کا بیان ہے کہ محمود علماء اور شعراء کا قدردان تھا

انہر چار لاکھ دینار سالانہ صرف کرتا تھا۔ علوم و فنون کے باب میں بڑا فیاض تھا

اس نے غزنی میں ایک عظیم الشان دارالعلم بنایا اسکے مشعل عجات خانہ تھا ایک

لاکھ سالانہ محض علماء کے وظائف مقرر کیے۔ یہ نامور مجاہد ریح الثانی اسٹاک

میں بجز ۶ سال فوت ہوا۔ مدت حکومت تیس سال ہے۔

سید ابن اثیر ج ۹ ص ۲۲۹ تاریخ گزیدہ ج ۱ ص ۱۵۹

خلیفہ قائم بامر اللہ

نام و لقب ابو جعفر عبداللہ بن قاور بالشد بدرا الدھی کے لطن سے
تھا جو ارمنی کثیر یعنی یہ قائم کے متعلق ابن کثیر کا بیان ہے

وہ خوبصورت، عابد، زاہد عالم، خدایہ پیر و سر رکھنے والا
صدقہ وینے والا، نصاب، ادیب، خوشخط، عادل احسان
کرنے والا تھا۔

خلافت قاور کی وصیت کے مطابق ذی الحجہ ۳۲۲ھ میں اس کے
بچے پر اراکین سلطنت نے بیعت کی۔ تخت نشینی کے وقت
۳۳ سال کی عمر تھی۔

وقائع نظام حکومت حلال الدولہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ غیر منظم حکمران
تھا فوج کو تخواہ نہ ملتا وہ اس سے باغی ہو گیا۔ یہ فتنہ
ختم ہوا۔ حلال الدولہ نے راہ فرار اختیار کی۔ عسیرا جا کر مقیم ہوا فوجی
ترکوں نے اس کے برادر زادہ مصمام الدولہ ابو کا بخاری سلطان الدولہ
کو بلا بھیجا وہ متوجہ نہ ہوا تو حلال الدولہ کو ترک افسران منالائے
مگر اس کا رعب و توبہ نہ رخصت ہو چکا تھا

جلال الدولہ نے باوجود اپنی کمزوری کے ۳۳۲ھ میں خلافت عباس
 سے ملک الملوک کے خطاب کی خواہش کی۔ خلیفہ نے انکار کیا اور کہا
 اسلام میں اس قسم کا خطاب ممنوع ہے۔ مگر جلال الدولہ مصر ہوا۔ اس وجہ
 سے علمائے بغداد سے فتویٰ طلب کیا۔ قاضی ابوطیب طبری ابو عبد اللہ
 صیرنی۔ ابوالقاسم کہی وغیرہ نے سلطان جلال الدولہ کے دباؤ سے
 حجاز کا فتویٰ دیا۔ یہ مجبوراً خلیفہ نے یہ خطاب عطا کیا۔ لیکن قاضی
 القضاہ ابوالحسن مازری نے جو جلال الدولہ کے نیک تھے اور وہ ان کی
 بہت تعظیم کیا کرتا تھا۔ میں فتویٰ کی مخالفت کی اور علمائے بحث کی اور سلطان
 دربار کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے۔ ایک دن جلال الدولہ نے طلب کیا۔ آپ
 تشریف لے گئے۔ تو وہ بولا میرے دل میں آپ کی قدر پہلے سے زیادہ
 بڑھ گئی۔ آپ حق گو عالم ہیں اور تمام اہل علم سے فائق ہیں۔ اس لئے کمال
 علی کے ساتھ تمہاری حق گوئی اور حق پرستی اور غیرت دینی کا نقش میرے
 قلب پر ثبت ہو گیا۔ انھوں نے الطاف شاہانہ کا شکر ادا کیا۔ جلال الدولہ نے
 ان کا رتبہ اور بڑھایا۔

شہنشاہ جلال الدولہ آخر میں جلال الدولہ نے بغداد کی حکومت

سنبھالی۔ شہنشاہ کا خطاب اپنے لیے مقرر

کیا۔ مگر خلافت اور سلطنت پر ضعف طاری ہو چکا تھا۔ اردگرد کے
 امراء نے غارتگری شروع کر دی۔ جلال الدولہ سے انتظام سنبھل نہ

یہ ابن خلدون جلد سیزدہم

۲۳۵ء میں انتقال کر گیا ۲ سال امامہ اس نے انتظام سلطنت کیا۔ اس کے مرنے کے بعد بوکا لیجار بن سلطان الدولہ بن بسار الدولہ کا جانشین ہوا۔ خلیفہ نے بھی الدولہ خطاب دیا۔ اس سے بھی سلطنت کا انتظام سنبھل نہ سکا۔ اس زمانہ میں ترکوں کی ایک جماعت نے دور سلجوقیہ کی بنیاد ڈالی ان میں پہلا بادشاہ طغرل باب تھا۔

۲۳۴ء میں ہرام کر حی عامل کرمان نے بغاوت کر دی۔ **شاہ عبدالرحیم** اس کی سرکوبی کے لیے بوکا لیجار نے لشکر کشی کی مگر اس اثنا میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا عبدالرحیم جانشین ہوا اس نے عراق، بصرہ، خوزستان، برقنہ جمایا۔

۲۳۳ء میں **اسلام بیاسیری** باؤ الدولہ کا ایک مملوک تھا جس کا نام بیاسیری تھا اس نے اپنی لیاقت اور حسن تدبیر سے بڑی ترقی کی یہاں تک کہ امیر العسکر ہو گیا۔ اور آخر میں انبار کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ فرق باطلہ سے تھا۔ خلیفہ کے خلاف سازشیں کیں۔

دیلمہ کا خاتمہ و سلاجقہ کا عروج

طغرل باب نے ۲۳۲ء میں اصلہان برقنہ کیا پھر آذربائیجان فتح کیا۔ ۲۳۶ء میں بغداد خلیفہ کی طلبی پر آیا پہلے **طغرل کی بغداد میں آمد** ۲۳۶ء میں بغداد خلیفہ کی طلبی پر آیا پہلے

اس نے عبدالرحیم دہلی کو گرفتار کیا اور خود شہنشاہ بن گیا۔ عبدالرحیم بجا لیت
 قید شدہ میں سرگیا بغداد میں بنی بوہنے نے ۱۱ سال فرما زوانی کی
 تفضیلات دولت دیا کہ میں بحریر میں خلیفہ نے ۱۱۴۵ء میں طغرل
 بک کے سر پر تاج رکھا اور عمامہ باندھا اور سات خلعت دئے ملک المشرق
 و المغرب خطاب دیا۔ طغرل بک نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے
 لٹکایا۔

حادثہ بسا سیری | بسا سیری نے دعوت و تبلیغ بنو فاطمہ سے ایک کثیر جماعت

ہموا بنالی۔ حتیٰ کہ طغرل کے بھائی ابراہیم حاتم جبل
 و حمدان پر بھی اس کا اثر پڑا۔ طغرل کو خبر لگی وہ اس کی سرکوبی کو گیا۔ بسا
 سیری کو بڑا موقعہ ہاتھ آیا۔ اس نے ۱۱۴۵ء میں قائم کے نام کو خطبہ سے
 نکال کر بغداد کی تمام مساجد میں مقرر فاطمی کا خطبہ پڑھا یا اور اس کی
 مخالفت کا اعلان کر دیا۔ طغرل اپنے بھائی کی گوشمالی کر چکا تو بغداد
 پھر آیا۔ خلیفہ بسا سیری کی حرکات ناشائستہ سے قریش بن بدران کے یہاں
 دو پوسٹ تھے بسا سیری طغرل کی فوج کے حملہ کی تاب مقابلہ نہ لاسکا آخرت
 اس میں معرکہ میں بسا سیری قتل و ۱۱۴۵ء ہوا۔ اس طرح یہ فتنہ ختم ہوا۔
 بغداد آئے ہوئے طغرل نے امام اہل سنت ابو بکر احمد بن محمد کو جو ابن
 فورک کے نام سے مشہور تھے امیر قریش بن بدران کے پاس بھیجا کہ خلافت
 آپ کو ہمراہ لے کر بغداد آئیں۔ چنانچہ ۱۱۴۵ء میں سلطان طغرل اور
 خلیفہ دونوں بغداد میں داخل ہوئے۔ طغرل نے بعزت و احترام تخت

خلافت پر شکن کیا۔ علیؑ سے پہلے پر ہی سونے لگا۔ دن بھر روز سے رہتا۔ رات کو اکثر نازیں پڑھا کرتا۔ جس جس نے اس کو اذیت دی تھی ان کو معاف کر دیا۔
 ۳۴۴ھ میں سلطان ابراہیم بن مسعود بن سلطان محمود بادشاہ غزنی اور سلطان جعفری بک بن بلجوق و طغرل بک (والی خراسان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ فیصلہ صلح پر ہوا۔ اس کے بعد جعفر مر گیا۔

۳۴۵ھ میں طغرل بک سے
واقعات طغرل بک اور سلطان

تیسری بار بغداد آیا۔ بغداد پر ڈیڑھ لاکھ ٹیکس لگا کر جبل کی طرف چلا گیا۔ لیکن منزل مقصود تک پہنچنے سے پیشتر قانہ عمر کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ رمضان ۳۴۵ھ میں فوت ہوا۔ اس کا وارث الپ ارسلان سلطان ہوا۔ قائم نے خلوت سلطنت عطا کیا۔ سلطان الپ ارسلان نے نصارا کے ملک فتح کیے۔ نظام الملک ملوسی اس کا وزیر تھا۔ ۳۴۹ھ میں نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں قائم کیا۔

۳۶۳ھ میں اہل روم اور مسلمانوں سے جنگ عظیم ہوئی الپ ارسلان اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے تھا۔ شاہ روم و مالوس گرفتار ہوا۔ مگر بعد کو پچاس سال کی صلح پر رہا کر دیا گیا۔ ۳۶۵ھ میں الپ ارسلان قتل ہوا۔ اس کا بیٹا ملک شاہ بلقب جلال الدولہ سلطان بنا۔ سلجوقی کے تفسیلی حالات دولت سلجوقی میں تحریر کئے ہیں۔
قائم کی وفات ۱۳ شعبان ۳۸۴ھ میں قائم نے قصد کھلوانی کیا۔

اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے پوتے عبداللہ بن محمد کو ولی عہد و جانشین کیا۔ قائم باللہ نے یہ انتقال خلافت کی نشانی کے طور پر

ادھان قائم اور صفات جہانگیری میں اپنے بات کا صحیح جانشین تھا اس نے اپنے سے زیادہ خلافت کے وقار کو قائم رکھنے کی

سعی کی۔ ابن طقطقی مورخ لکھتا ہے

فانصل اور صالح خلیفہ تھا۔ اس نے عباسی خلافت کے وقار و قوت میں اتنا اضافہ کیا۔ علمی حیثیت سے ممتاز تھا اور بظاہر سے زیادہ دیکھیں گے۔

قائم کے عہد کے علماء عبداللہ بن حسین نامی فقیہ ثقہ جید شاگرد قاضی ابوالہشیم اور بھہد سلطان محمد سکتگین

قاضی بخارا رہے۔ ۳۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن جعفر بن محمد فقیہ محدث خطیب نے بیان کیا کہ میں نے کچھ علم ان سے سیکھا ہے۔ فقہ میں محمد بن جریر طبری کے ذمہ پر تھے۔ ۳۲۹ھ میں انتقال ہوا۔

ابوالقائم عبداللہ بن حسین عکبری محدث نحوی ادیب ابن کی

اعراب القرآن ۳۱۶ھ میں فوت ہوئے۔

یہی بن علی بن عبداللہ بخاری زاید و لسی، فقیہ زاید شاگرد و جنس شکروری و محمد بن ابراہیم مبدالی زوضہ العلماء آپ کی تصنیف ہے

Marfat.com

محمد بن موسیٰ خوارزمی ابو بکر جامع مسند الامام فقہ و محدث قاری نے
 ابن الاثیر کی مختصر غریب الحدیث سے نقل کیا کہ پانچویں صدی کے اول میں جو
 لوگ مجددین امت میں شمار ہیں۔ ان میں آپ بھی ہیں۔
 حسین بن خضر بن محمد بن یوسف لسانی۔ کنیت ابو علی، فقہ، محدث ابو بکر
 بن الفضل سوزانی، فقہ حاصل کی حدیث کی سماعت عبداللہ بن عبدالرحمن لڑی
 بغدادی سے۔ آپ سے جم غفیر نے فقہ اور حدیث حاصل کی۔ شعبان ۲۲۴ھ
 کو انتقال ہوا۔

خلافت عباسیہ کی سیاسی حالت | سلاطین و پالہ کے اقتدار کے زمانہ
 میں خلافت عباسیہ کا نظم و نسق خلفاء
 کے ہاتھ میں نہ تھا۔ بلکہ وہ صرف مذہبی اجارہ دار بن کے رہ گئے تھے صرف خطبہ
 میں ان کا نام لیا جاتا اور سکتے ان کے نام کا جاری رہتا۔ یا وہ امرایا حیدر
 فرمانرواؤں کو خطاب اور خلعت عطا کیا کرتے۔ آل بویہ طاہرہ طور پر محفلوں
 اور اجتماعات میں خلیفہ کا ادب و احترام کرتے۔ ورنہ خلیفہ کی یہ قدر و منزلت
 رہ گئی تھی کہ وہ ان سلاطین کا استقبال کرتا۔ ان کے سفراء کی تعظیم کرتا
 غرض کہ ان کے عہد میں عباسی خلیفہ کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بلکہ ان کی
 سیاسی حیثیت کا فائدہ ہو گیا تھا۔ مگر سلجوقی اقتدار سے قائم لئے نئے سرے
 سے خلافت کے وقار کو قائم کرنے کی سعی کی۔
 وزیر خلیفہ | فخر الدولہ بن جہیز خلیفہ کا وزیر اعظم تھا۔ ۳۶۶ھ میں خلافت

۳۶۶ھ تاریخ خلفاء ص ۲۹۱ طہ ابن اثیر ج ۸ ص ۲۷۴

آب نے معزول کر دیا۔ اس کے بجائے ابو العلیٰ والید وزیر ابوالشجاع کو عہدہ وزارت پر مامور کیا۔ مگر وہ جلد مر گیا۔ پھر فخرالدولہ کو دوبارہ علم دان وزارت سپرد کیا۔

۴۶۲ء میں محمد بن ابی ہاشم والی مکہ نے خلیفہ قائم، اور

مکہ میں خطبہ سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ حرم میں پڑھا خلیفہ عبیدی مصری کا خطبہ موقوف ہوا۔ خلیفہ کے دربار میں شیخ ابواسحاق شیرازی۔ علامہ ابو نصر شریک ہوا کرتے۔

سلجوقی فرمانروا اور خلافت ساسانی پوری سے بہتر طغرل سلجوقی نے خلافت

۴۴۹ء میں طغرل باک موصل پر قبضہ کرنے اور دبیس بن فرید اور قریش بن بدران کی شورشوں کو دبا کر بغداد آیا تو خلیفہ قائم بامر اللہ کے ساتھ جو طریقہ عمل اختیار کیا وہ خلیفہ کے شایان شان تھا۔ جب یہاں سوادیں جانے لگا تو بہت سے ہدایا خلیفہ کی خدمت میں بھیجے تھے جس میں پچاس ہزار دینار، پچاس ہزار ترک غلام اور بہت سے گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ شامل تھے۔ خلافت ساسانی نے سلجوقیوں کی اس روش سے بہت اثر لیا اور

شیخ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی فیروز آبادی عقبہ بہ جمال الدین علم زید و درع و تقویٰ میں بڑھے ہوئے تھے۔ مذہب فی المذہب بلع وغیرہ تصانیف سے ہیں۔ ۴۶۲ء میں انتقال ہوا۔ ابن خلکان جلد ۱ ص ۴۴ ابو نصر عبدالسلام بن محمد بن عبداللہ واحد معروف بہ ابن صباع نسیہ کتاب شامل کے مصنف ۴۶۶ء میں وفات پائی۔ ۴۶۷ء ابن خلکان ج ۱ ص ۴۴

اپنی کھوئی ہوئی عظمت پھر بحال کرنے میں قائم سرگرم سعی کرتا رہا۔

سلاطین سلاجقہ

بنیو شاہ ترکستان کے دربار میں ایک شخص سلجوق نامی تھا جو بنیو سے خفا ہو کر مسلمانوں کی سرحد و پار سمقند میں چلا آیا تھا۔ لڑا حتیٰ جنڈر میں یہ آ کر پھیرا۔ یہاں کے مسلمانوں کے اخلاق اور تمدن و معاشرت کے اثر نے اس کی طبیعت کو مجبور کیا حتیٰ کہ وہ اپنا مذہب اپنی چوڑ کر خالی ماورالنہر کے استخراج سے مسلمان ہو گیا۔ جنڈر اس زمانہ میں بنیو شاہ ترکستان کا باج گزار تھا۔ ترک سالانہ خراج لینے آئے تو سلجوق مزاحم ہوا۔ اس نے کہا۔ کفار مسلمانوں سے خراج لیں۔ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ جنڈر کے مسلمان سلجوق کی مدد سے غالب آئے اور یہی سلجوق کی شہرت کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد جب ابراہیم سامانی نے سلجوق کی مدد سے الملک خاں پر فتح پائی تو سلجوق کا نام اور بلند ہوا۔ سلجوق کا بیٹا میکائیل ایک لڑائی میں مارا گیا اور اس کے دو بیٹے طغرل بیگ اور چغری بیگ اپنے دادا سلجوق کے نکل عافیت میں بردریش پاتے رہے۔ سلجوق کے دونوں بیٹے میکائیل اور دادوا اپنے باپ کے طرز پر تھے اور دونوں پوتے طغرل بیگ اور چغری بیگ تو بڑے ہی زبردست تھے۔ سلجوقیوں سے حاکم ماورالنہر علی تگین

معروف ایک خاں اور ترکستان کے سلاطین دہنے لگے۔ ایک خاں نے
تمام سلاطین کو دواخ کو جمع کر کے سلجوقیوں کا استیلا کرنا چاہا اس پر
چغریباگ خراسان سے ہوتا ہوا آیا۔ ارمینہ کی طرف دواخ سلطنت روم
میں عیسائیوں سے مذہبی جنگ کرنے چلا گیا۔ یہ زمانہ سلطان محمود سلجوقیوں کا
تھا۔ سلجوقیوں کو والی طوس نے اپنے ملک سے گزرنے دیا۔ اس پر وہ
سلطان محمود کے عتاب کا مستوجب ہوا۔

چغریباگ نے وہاں کئی قلع فتح کئے۔ اور بہت سامان غنیمت لے
کر آیا۔ پھر یہ دونوں بھائی ایک جاہو کر اپنی قوت متفقہ کا زور فتح میں لگانے
لگے۔ خان کا شعرا اور سلطان محمود نے باہم مل کر ایک خان کو جب سمرقند کے
بھگایا تھا۔ اس وقت سلجوقیوں کا زور گھٹ گیا تھا۔ لیکن محمود کے مرنے پر
مسعود کے زمانہ میں مرو اور ہرات پر چغریباگ قابض ہو گیا اور خراسان میں
بہ مقام نیشاپور طغرل بیگ نے اپنا تخت حکومت رکھا۔ اس کے بعد مسعود
نے چڑھائی کی اور دونوں بھائیوں نے مل کر مسعود کا تخت مقابلہ کیا اس
لڑائی میں اتنی خونریزی ہوئی کہ ہزاروں برس سے نہیں ہوئی تھی مسعود
کو ہزیمت ہوئی اور سلجوقیوں کی سلطنت خراسان میں قائم ہوئی۔

طغرل بیگ | خوارزم شاہ سے اس کے سپہ سالار نے سرتابی کی لختی اس لیے
طغرل بیگ کو خوارزم شاہ کی مدد کے لیے خوارزم جانا
پڑا اور وہاں سے منصور واپس آیا۔ پھر غزوہ روم کے لیے روانہ ہوا، اور
وہاں سے بھی کامیاب واپس آیا۔ اس زمانہ میں طغرل بیگ دو مرتبہ بغداد
سے ابن شدون جسد نہم۔

گیہ ایک مرتبہ تو ملک رحیم و لمبی کا اہتیسال کیا۔ اور دوسری مرتبہ قائم بائسہ
 غنیفہ بغداد کو بسا سیری کے پنجے سے چھڑا کر پھر تخت پر بٹھایا اور مستنفر علوی
 کا نام خطیبہ سے نکال کر پھر قائم بائسہ کا نام خطیبہ میں داخل کیا۔ اس سال
 اہواز اور بصرہ میں طغرل کا نام خطیبہ میں پڑھایا گیا۔ تیسری مرتبہ ۶۲۵ھ
 میں طغرل بیگ پھر بغداد گیا اور قائم بائسہ کی لڑکی سے عقد کیا۔ لیکن زفاف
 کی نوبت نہیں آئی تھی کہ طغرل بیگ نے دنیا سے رحلت کی اور چفر بیگ
 اس سے پہلے مر چکا تھا۔

چفر بیگ، طغرل باک | یہ دونوں بادشاہ ساتھ حکمراں تھے۔ باہم بہت
 رزم تھا۔ ایک دل ہو کر سب کام کرتے تھے

صرف کہنے کو چفر بیگ کا اخیر میں دارانگلو مت مرو، اور طغرل بیگ کا
 نیشاپور تھا۔ ورنہ مرتے دم تک ایک دل رہے

السلطان بن چفر باک | یہ بڑا نیک نام اور نیک نیت بادشاہ تھا
 ڈاڑھی اس کی بہت بڑھی تھی اور لڑپنی

بہت اونچی رکھتا تھا۔ عبادان سے سوا حل بھر تک اور زنجوں سے دجلہ
 تک اس کے قبضہ میں تھا۔ کسی سلاطین اس کے باج گزار تھے خان ترکستان
 کی لڑکی سے اس نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی کی اور سلطان ابن مسعود
 کی لڑکی سے اپنے دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کا بیاہ کیا۔

قیصر روم | اس کے وقت میں قیصر روم نے تیس لاکھ فوج لے کر اور بہت

عیسائی سلاطین کو ساتھ لے کر بلا واسلام پر چڑھائی کی اور نیت یہ کی کہ بولڈ
کو ویران کر دے اور تمام مسجدیں کھڑا دے۔ الپ ارسلان نے بڑے
استقلال سے مقابلہ کیا۔ عیسائی سپاہیوں سے اور قیصر روم گرفتار ہوا۔
لیکن پھر قیصر کو رہائی دے دی اور قیصر نے اپنی بیٹی الپ ارسلان کے
بیٹے ارسلان شاہ کے عقد میں دی۔

ارسلان شاہ کے لیے خاقان چین کی دختر بھی لی گئی اور خاقان چین
بھی مصلحان کے زمرہ میں داخل ہوا۔ اس کے وقت میں نیشاپور تک بغداد
نہ گیا۔ تمام سلاطین اس کے دربار میں آتے تھے اور آستانہ شامی پر
جبہ سالی کرتے تھے۔ موت اس کی عجیب طور پر ہوئی۔ اتفاق سے ایک
قلعہ دار اسپر ہو کر آیا اور گفتگو میں مشتعل ہو کر اس کی طرف لپکا لوگوں نے
روکنا چاہا۔ لیکن اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ کوئی غیر اسے بجائے
اس نے لوگوں کو باز رکھ کر خود کمان سیدھی کی۔ شیر خالی گیا اور قلعہ دار
نے پہنکر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں علما بہت رہتے
تھے خود نظام الملک طوسی اس کا وزیر ایک زبردست عالم اور بڑا مدبر
شخص تھا۔ سلجوقین نے جو زور پکڑا۔ اس میں شمشیر ترکی کے ساتھ حکمت
نظام الملکی ایک قابل کاٹھن تھے۔

جلال الدین ملک شاہ بن الپ ارسلان | نظام الملک طوسی کی سہ سے
جلال الدین تخت پر بیٹھا نظام
الملک اس کے باپ کے وقت سے وزیر تھا۔ اب تو بالکل ہی سیاہ سپیکا

ملک ہو گیا۔ نظام الملک بڑا مشہور شخص ہوا ہے عباسیوں کے زمانہ میں براۓ کہ کا خاندان تھا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے لیے سلجوقیوں کے وقت میں نظام الملک کا خاندان عروج پر تھا۔ بغداد اور نصربہ میں مدرسہ نظامیہ اسی کا بنوایا ہوا ہے اس کی یونیورسٹی کی کتابوں کا پڑھنا اس زمانہ تک طریقہ نظامیہ کا درس کہلاتا ہے طوس مردم خیز جگہ ہے یہاں نظام الملک غزالی۔ فردوسی تین بڑے مشہور شخص گذرے ہیں۔

کسی کا شعر ہے

ہر وہیر و شاعر و مفتی کہ او طوسی بود

چوں نظام الملک و غزالی و فردوسی بود

ملک شاہ کی گرفتاری | پادشاہ ایک مرتبہ شکار کو نکلا۔ راہ میں رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہوا۔ حالت گرفتاری میں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میری عزت نہ کرنا ورنہ دشمن مجھے معزز سمجھ کر ڈاہل کریں گے۔ یہاں نظام الملک نے مصاحبت کا ڈھنگ ڈالا اور مشرانے لٹے کرنے کو خود گیا۔ قیصر روم نے ان قیدیوں کا ذکر کیا تو نظام الملک نے بڑی بے پرواہی سے سنا۔ بلکہ ملک شاہ جب نظام الملک کے سامنے لایا گیا تو اس نے کچھ التفات نہ کیا۔ نظام الملک لوٹا تو قیصر روم نے ملک شاہ کو مع اور قیدیوں کے اس کے ساتھ کر دیا۔ کیونکہ مصاحبت ہو جانے پر اسیران سلطنت کی رہائی لازمی تھی۔ جب ملک شاہ رومیوں

سے تاریخ اسلام ص ۲۸۹

کی حد نظر سے باہر ہوا تو نظام الملک نے بادشاہ کی رکاب کو بوسہ دیا۔

قیصر روم کی گرفتاری | اس کے بعد ملک شاہ نے رومیوں پر چڑھائی کی

اور کسی حکمت سے قیصر روم گرفتار کر کے ملک شاہ

کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قیصر روم نے ملک شاہ سے کہا کہ اگر تم بادشاہ ہو تو

مجھے چھوڑ دو۔ تاجر ہو تو بیچ ڈالو اور قصاب ہو تو ذبح کر ڈالو۔ ملک شاہ

نے نہایت عورت سے قیصر روم کو رخصت کیا اور کہا کہ میری عرض صرف

یہ تھی کہ میں تم پر ثابت کروں کہ مری سابق گرفتاری ایک امر اتفاقی تھی

میری قوم کسی طرح کمزور نہیں ہے ملک شام بھی اس بادشاہ کے قبضہ

میں آ گیا تھا۔ شرکار کا اس کو بہت شوق تھا جب بادشاہ بغداد گیا تو خلیفہ

مقتدی باللہ نے اس کی بڑی تواضع کی۔ اس نے خلیفہ کا ہاتھ چومنا چاہا

لیکن خلیفہ نے (غالباً براہ تواضع) گوارا نہ کیا۔ تب ملک شاہ نے بادشاہ

کی انگلی ٹھکی اور اسی کے بوسہ پر اکتفا کیا۔ مقتدی نے اپنی بیٹی ملک شاہ

کے عقد میں دی اور تمام بلاد اسلام کی زمام امارت ملک شاہ کے سپرد کی

جلال الدین خلیفہ ہی کا عطیہ خطاب ہے۔ آخر میں بادشاہ ناخوش ہو گیا

تھا۔ ناخوشی کے نتائج پورے طور پر ظاہر نہیں ہوئے تھے کہ ایک فدائی نے

نظام الملک کو قتل کیا اور ملک شاہ نے بھی ہمسینہ کے اندر ہی اپنی موت

سے وفات پائی۔

مدرسہ نظامیہ | مدرسہ نظامیہ کے دو مدرس بڑے مشہور ہیں امام ابو اسحاق

شیرازی اور امام غزالی۔ نظام الملک نے یہ چاہا کہ

اپنے طرز زندگی پر علمائے وقت کی رائیں لکھوا کر اپنے ساتھ قبر میں بطور نیک نامی کے لیتا جائے۔ تمام علماء نے آنکھ بند کر کے نظام الملک کی خوبیوں کا قصیدہ شہر میں لکھ دیا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ نظام الملک طوسی ایسا ہی شخص تھا نوحول اور پھر حدود و مشرع کا لحاظ آسان امر نہیں ہوتا۔ لیکن جب ابواسحاق کی باری آئی تو انہوں نے لکھا خیر الظلمۃ حسن کیتبہ ابواسحق " یعنی ظالموں میں حسن اچھا ہے۔ راقم ابواسحاق " نظام الملک کا نام حسن تھا۔ نظام الملک یہ تحریر دیکھ کر بہت روپا اور بولا کہ ابواسحق سے زیادہ کوئی دوسرا سچا نہیں ہے۔

برکیارق بن ملک شاہ۔ (۸۴۷ھ) نظام الملک کے بیٹے مؤید الملک و فخر الملک اس کے وزیر تھے۔ تیرہ برس سلطنت کر کے یہ مرا اس کے وقت میں تخت اور حکومت کے لیے سلجوقیوں میں باہمی نزاع رہا کچھ حالات مقتدی اور مستظہر بالتذ کے تذکرہ میں ہیں۔

محمد بن ملک شاہ (۸۹۲ھ) تیرہ برس سلطنت کر کے یہ مرا۔ سلطان السلاطین سخر بن ملک شاہ (۸۵۹ھ) یہ بادشاہ بڑا نیک نام خداترس اور بیدار مغز تھا۔ اس کے وقت میں بہت سی لڑائیاں اور بہت سے غزوات ہوئے۔ بہرام شاہ غزنی اس کا باج گزار ہوا۔ کوا خان ترکی کے مقابلہ میں سلطان سخر مغلوب ہو گیا تھا۔ اس سے ذرا رنگ پھیکا ہو چلا تھا لیکن اس کے بعد بہرام غزنی کو جب علاء الدین جہاں سوز غور نے آدبا یا اور سلطان سخر نے پہنچا علاء الدین کو گرفتار کر لیا تب پھر اس کا طنطنہ کامرانی اصل حالت پر آ گیا۔ نواحی بلخ میں ایک مرتبہ

ترکمان غزنی کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ اور چار برس تک گرفتار رہا۔ پھر حکمت
عملی سے نکل کر اپنے ملک میں آیا۔ یہ پہلے ہی آسکتا تھا لیکن معہ بیوی کے
گرفتار تھا۔ بیوی کے ساتھ بھاگ نکلتا آسان نہ تھا اور بیوی کو چھوڑ کر
بھاگنا گوارا نہ تھا۔ جب بی بی مری تو یہ کسی حکمت سے نکل بھاگا اس اثناء
میں غزوں نے تمام ملک ویران کر دیا تھا۔ اس کے وقت میں حاکم خوارزم
نے بغاوت کر کے ایک جدا سلطنت قائم کی۔ حکمراں آگے چل کر خوارزم
شاہیوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس بغاوت نے سلطان سخر کو بہت
زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ ۵۵۲ھ میں سلطان سخر نے ۷۳ سال کی عمر میں
وفات پائی۔

محمود خاں جو اہر زاوہ ۵۵۲ھ، بغرا خاں کی نسل میں تھا سلطان
سخر کے بعد ہی تخت نیشاپور پر بیٹھا۔ اس کے وقت میں خوارزم شاہیوں اور
غوریوں کا دور ہوا۔ محمود کو اندھا کر کے کچھ ملک خوارزم شاہیوں نے لے
لیا اور کچھ غوریوں نے لے لیا اس طرح سلجوقی سلطنت خراسان میں خاتمہ ہو گیا۔
اب کچھ سلجوقیوں کا حال لکھا جاتا ہے جو عراق اور عرب میں حکمراں
تھے۔

محمد بن محمد بن ملک شاہ ۵۰۹ھ، اپنے باپ ملک شاہ کے
مرنے پر یہ عراق پر حکمراں ہوا، اور سلطان سخر نے کچھ زیادہ اس کی
فکر نہیں کی۔ مسترشد باللہ خلیفہ بغداد سے یہ رنجیدہ ہو گیا تھا اور
اس نے بغداد کا محاصرہ بھی کیا تھا۔ لیکن پھر مصالحت ہو گئی۔

طغرل بن محمد بن ملک شاہ (۵۲۵ھ) بجائی کے مرنے پر سلطان
 سخر کے اشارے سے یہ عراق کی ریاست پر قابض ہوا۔
 مسعود بن سلطان ملک شاہ (۵۲۹ھ) اس کے وقت میں
 چند سلجوقیوں نے خلیفہ مسترشد کو ملک گیری کے لیے ابھارا۔ مسعود سے
 لڑائی ہوئی۔ خلیفہ گرفتار ہوا۔ اور ایک فدائی نے اس کا کام تمام کیا
 اس کے بعد راشد اپنے باپ کے خون بہا کے لئے نکلا اور اصفہان تک
 پہنچے پہنچے مارا گیا۔ پھر مسترشد کے دوسرے بیٹے مقتدی باللہ کو مسعود نے
 تختِ خلافت پر بٹھایا۔

ملک شاہ بن محمود بن محمد بن سلطان ملک شاہ (۵۲۷ھ) تین
 ہینہ تک یہ بادشاہ رہا۔ اس کے مزاج میں عیاشی تھی۔ لوگوں نے اُسے
 قید کر کے اس کے بجائی محمد کو تخت پر بٹھایا۔

محمد بن محمود (۵۲۷ھ) سلیمان شاہ سے جو اس کے بعد تخت پر
 بیٹھا۔ برابر لڑتا رہا۔ آل سلجوق کے ضعف کا زمانہ تھا۔ اس لیے خلفائے
 بغداد نے بھی کچھ قوت بکڑ لی تھی سات برس تک سلطنت کر کے مرا۔

سلیمان بن ملک شاہ (۵۵۵ھ) ارسلان کے ساتھ اس کا
 نام بھی خطبہ میں داخل کیا گیا۔ آٹھ ہینہ تک اس کی سلطنت رہی۔
 ارسلان بن طغرل (۵۵۵ھ) الموت کے فدائیوں سے یہ لڑتا
 رہا اور غالب رہا۔ اس کے وقت میں خوارزم شاہیوں کا زور شروع ہوا۔
 طغرل بن ارسلان (۵۵۵ھ) خلیفہ مستفی باللہ کے وقت

میں یہ تخت نشین ہوا۔ رکن الدین قسیم امیر المؤمنین کا لقب تھا۔ اس کے وزیر قزل ارسلان نے اس سے سرتابی کی اور عرصہ تک رہا تاہم اور میان میں طغرل کے قید ہو جانے سے یہی بادشاہ بن گیا تھا۔ خلیفہ ناصر دین اللہ بھی طغرل سے ناخوش تھا۔ تکش سلطان شاہ خوارزم کے مقابلہ میں یہ مارا گیا اور اس کا سر لٹکا دیا گیا۔ اور اس کے مرنے پر عراق میں سلجوقیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

سلطان سخر کے ایک بھائی کی نسل میں سلطان شاہ، توران شاہ، ابران شاہ، ارسلان شاہ، محمد شاہ بن ارسلان شاہ، طغرل شاہ، ارسلان شاہ طغرل شاہ، بہرام شاہ، توران شاہ، محمد شاہ بن بہرام شاہ۔ یہ دس خود مختار بادشاہ کرمان میں یکے بعد دیگرے خوارزم شاہیوں کے عروج و زوال حکمران رہے اور یہاں اس کا پایہ تخت تھا۔ اس کے بعد تمام سلجوقیوں کی طرح یہ لوگ بھی مٹ گئے۔

سلیمان بن قلمش بن اسرائیل بن سلجوقی کو الپ ارسلان نے روم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کی نسل سے ایک جہاں شاہت قائم ہو گئی جس میں چودہ بادشاہ اس کے بعد تخت پر بیٹھے اور قوسیہ یا قونیسہ دار الحکومت قرار پایا۔ سلیمان بن قلمش۔ داؤد بن سلیمان، فلج ارسلان بن سلیمان، مسعود بن سلیمان، مسعود بن غیاث الدین کبیر، و بن فلج ارسلان۔ رکن الدین سلیمان بن فلج ارسلان بن سلیمان، عزیز الدین کیکاؤس بن غیاث الدین، علاء الدین کبیر، غیاث الدین، غیاث الدین کبیر، و بن علاء الدین، رکن الدین سلیمان بن غیاث الدین

کھسرو، کھسرو بن رکن الدین مسعود بن کیکاؤس۔ کیفباد بن فرامرز۔
 اس خاندان کے بادشاہ رومیوں سے لڑتے رہے خوارزم شاہیوں
 سے بھی لڑے۔ عراق کے سلجوقیوں سے بھی کبھی مقابل ہو گئے۔ لیکن برابر
 اپنی حالت پر قائم رہے۔ ساتویں صدی ہجری کے اخیر میں برسیخ غزاخان
 نے جس کے مطیع یہ سلطنت ہو گئی تھی۔ کسی قصور پر کیفباد کو تخت سے اتار
 کر روم سے سلجوقیوں کا نام مٹا دیا۔

طغرل بک بانی خاندان سلجوقیہ | سلاطین سلجوقیہ میں طغرل کا حال بیان
 کر آئے ہیں اس جگہ اس کی زندگی

کے چند روشن پہلو پیش کرتے ہیں۔

سلطان طغرل اول لغزم بادشاہ گزرا ہے۔ وہ ہمیشہ افراد قوم کو عدل
 و تقویٰ، رفق و احسان کی تاکید کرتا تھا اور خود بھی ان اوصاف سے محفل تھا
 طغرل بچکانہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا۔ ہفتہ میں دو شنبہ و
 مذہب | پچھنبہ کو روزہ رکھا کرتا۔ صدقات و خیرات بکثرت کرتا جبکہ
 مسجد تعمیر کرائیں وہ کہا کرتا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے لیے تو مکان تعمیر
 کراؤں اور خدا کے لیے اس کے پہلو میں گھر نہ بنواؤں۔

طغرل نے قسطنطنیہ میں جو ہنوز یونانیوں کے قبضہ میں تھا نماز باجماعت
 اور جمعہ کی اجازت مسلمان کے لیے ملکہ قسطنطنیہ سے حاصل کر لی اور جمعہ کے
 دن خطبہ میں خلیفہ قائم باللہ کا نام پڑھا گیا۔

۱۱ تاریخ اسلام ص ۲۹۴ از علامہ ابوالفضل احسان اللہ عباسی علیہ دائرۃ المعارف ابن ج ۱۱
 ص ۴۱۲ - ۴۱۴

طغرل شہزادی بغداد سے عقد کے لیے بغداد آیا تو نکاح کے بعد شہزادی کے حضور میں گیا۔ شہزادی سہرے تخت پر جلوہ فرماتی تھی۔ طغرل بک نے پہلی ملاقات میں سامنے جا کر نہایت ادب سے شہزادی کو سلام کیا۔ اور نہایت تحفے پیش کیے۔ اس کے بعد مودبانہ سلام کر کے چلا آیا اور شہزادی کے منہ سے نقاب تک نہ اٹھائی۔ طغرل کو اس رشتہ سے فخر تھا عقد کے چھ ماہ بعد ماہ ربیع الاول ۴۵۵ھ میں عمر، سال انتقال کر گیا۔

طغرل بک نے ایک ایسے خاندان کی بنا ڈالی جو عظمت و ہیبت کے علاوہ علم دوست اور عمدہ اوصاف کے لیے آج تک چاروانگ عالم میں مشہور ہے۔

طغرل بک کا فرزند زینہ کوئی نہ تھا۔ الپ ارسلان بن داؤد جو اس کا بھتیجا تھا۔ اس کو اپنا جانشین کیا۔ جیسا کہ اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں الپ ارسلان کا خلیفہ ارشد سلطان ملک شاہ تھا۔ اس کا ہی وزیر نظام الملک تھا پورے حالات سلاطین سلجوقیہ میں لکھ چکے ہیں۔

یہی ملک شاہ تھا جس کے حکم سے رے نیشاپور میں ایک صد گاہ بنائی گئی۔ جس کا اہتمام عمر خیام (۱۰۳۸-۱۱۲۳ھ) کے سپرد تھا۔ عمر خیام رباعیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ مگر نجوم و ہیبت کا بڑا ماہر تھا۔ تاریخ جلالی ملک شاہ کے نام سے مرتب کی۔ اس تاریخ میں یہ خوبی ہے کہ پانچ سال میں صرف ایک دن کی غلطی پیدا ہوتی ہے ایک ان کی

۱۔ تاریخ ابن خلدون ج ۹ ص ۷

کتاب جبر مقابلہ پر ہے اس میں ثنائی مساواتوں کا جبرمی و تریسیمی حل معہ تریسیمی
و تحلیل مساوات کعبی سمجھایا گیا ہے۔

سلجوقیوں کے عہد میں علمی ترقی کمال پر تھی۔ سلجوقی خاندانوں نے علماء
کو بہت کچھ نوازا جس کی تفصیل نظام الملک طوسی میں دیکھئے۔

ملک شاہ کی اولاد میں سے سلجوقی سلطان ابوالفتح ملک شاہ بن
محمد تھا جس کے دربار میں ابوالودح محمد بن منصور بن عبداللہ بن منظور الجرجانی
المقلب بہ زریں دست نے نور المعیون کتاب لکھ کر دربار میں پیش کیا جس میں
پیش کی۔

نظام الملک طوسی | حسن ابن علی بن اسحاق بن عباس کنیت ابو علی لقب
نظام الملک قوام الدین تھا۔ بروز جمعہ ۲۱ ذی قعدہ

۳۷۰ھ کو نو قانون ضلع طوس میں پیدا ہوا۔

اس کا باپ معمولی زمیندار تھا۔ اس نے حدیث و فقہ کی تعلیم حسن
ابن علی کو دلوالی۔ حسن بن صباح اور عمر خیام ہم سبق تھے۔ سن بلوغ کو
نظام الملک پہنچا تو علی بن شاقون کے پاس جا کر نوکر ہوا۔ کچھ عرصہ بعد
مازمت ترک کر کے داؤد بن میکائیل سلجوقی کے پاس چلا گیا۔ داؤد کو جوہر
قابلیت اس میں نظر آیا۔ اس نے نظام کو اپنے بیٹے الپ ارسلان کا اتالیق
بنادیا اور شہزادے کو ہدایت کی کہ نظام کو مرے برابر سمجھنا اور اس کے
بلا مشورہ کے کوئی کام نہ کرنا جب ارسلان نے سرپر تاج رکھا تو تدبیر ہمام
ہمارا انتظام کو نظام الملک کے ہاتھ میں دیدی۔ وہ سالہ حکومت کے بعد

ابن ارسلان مرگیا تو ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے ہاتھ میں حکومت میں سے صرف تخت تھا اور شکار کے لیے جنگل۔ باقی سپاہ و سپیدکام ملک نظام الملک تھا۔ اس جاہ و جلال کے ساتھ نظام الملک نے اپنی عمر کے بیس سال پرے کئے۔ نظام الملک کی مجلس ہر وقت علماء کبار اور صوفیائے نامدار سے بھری رہتی تھی۔ ابوالقاسم قشیری اور امام الحرمین ابوالمعالی کی تعظیم و توقیر میں نہایت غلور رکھتا تھا۔

جامعہ نظامیہ | نظامیہ یونیورسٹی کی ۱۷۵۷ء میں بنیاد رکھی۔ عمارت کی تکمیل ۱۷۵۹ء میں ہوئی۔ شیخ ابوالضر صبارغ صدر مدرس مقرر ہوئے۔ پھر شیخ ابوالسحاق شیرازی کو پرنسپل کیا۔

حدیث شریف کے درس میں طالب علمانہ طور سے حاضر ہوتا۔ گاہے خود بھی روایت کیا کرتا۔ اور کہا کرتا۔ میرا شمار راویان حدیث میں تو ہوگا تین کروڑ سالانہ کی جاگیر جامع نظامیہ کے لیے وقف کی۔

نظام الملک وزیر سلطنت اور عالم دین تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی مدارس۔ اور سراییں اور پبل تعمیر کرائے۔ اور رمضان ۱۷۸۵ء میں ایک باطنی نے قتل کر دیا۔ تاج الملک ابوالقاسم خسرو بھی اس سازش میں شریک تھا ابوالہیجا مقاتل بن عطیہ نے مرثیہ میں یہ قطعہ لکھا

كَانَ الْوَزِيرُ نِظَامُ الْمَلِكِ لَوْلَا يَتِيمَةٌ صَاغَرَهَا الْمُهْرُ مِنْ شَرَفِ
عَرَّتْ فَلَمْ تَعْرِفِ الْآيَامَ قِيَمَتُهَا فَزَدَّهَا غَيْرَةً مِنْهُ إِلَى الصَّدَقِ
نظام الملک ایک نفیس موزی تھا جسے رحمن نے دریائے شرف سے

کمال تھا۔ اس نے دنیا کو اپنی آب و تاب دکھلائی۔ مگر دنیا نے اس کی قدر
 و قیمت نہ پہچانی۔ اس لیے غیرت الہیہ نے اس کو پھر صدق میں ہی رکھ دیا
 نظام الملک کی علمی یا دیگر سیاست نامہ ہے جو اپنے موضوع پر لا جواب
 تصنیف ہے۔

۱۰ ابن خلیکان ذکر نظام الملک طوسی۔

خلیفہ مقتدی بامر اللہ

نام و لقب | مقتدی بامر اللہ بن ذخیرہ الدین محمد بن قائم بامر اللہ اس کے والد محمد بن قائم اس کو حمل میں چھوڑ کر قائم کی حیات میں مر گئے تھے۔ اپنے باپ کے چھ ماہ بعد جوانی کے لطن سے پیدا ہوئے اپنے دادا کے مرے کے بعد عمر ۱۹ سال و چھ ماہ تحت خلافت پر بیٹھے۔

خلافت | وقت بیعت خلافت مویدا الملک ابن نظام الملک و وزیر خزانہ الدولہ بن جہیز عمید الدولہ، شیخ ابواسحاق شیرازی۔ ابن الصباغ، نقیب القباطرا، نقیب الطاہر، معمر بن محمد اور قاضی القضاات ابو عبد اللہ مقالی وغیرہ علماء و اراکین سلطنت نے ۳۶۷ھ میں بیعت کی۔

ابن عمید الدولہ کو ملک شاہ سے بیعت لینے بھیجا سعد الدولہ کو ملک شاہ نے سختی کر کے بغداد کو بھیجا۔ خلیفہ نے عنان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی تمام لہو لعب کے انسداد کا حکم دیا۔ خلافت شرعاً جس قدر امور تھے ان کو سختی سے بند کیا۔ کھوڑے عرصہ میں نیکیاں اور حسنات ظاہر ہونے لگی۔

۳۶۸ھ دمشق میں بھی مقتدی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

وزارت | وزارت پر خزانہ الدولہ بن جہیز ممتاز تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے معطل کر

دیا گیا پھر اس کو ہی قلم دان وزارت سپرد ہوئی۔ کچھ روز کے لیے ابو شجاع محمد بن حسن مخاطب ظہیر الدین وزارت پر مقرر اور رہا۔

واقعہ تاج الملک ملک شاہ کا بھائی مقتدی کا ہوا خواہ تھا۔ اس نے بھی دمشق کو تسخیر کر کے وہاں مقتدی کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ ملک شاہ سے بھڑپڑا۔ مگر صلح ہو گئی۔ غراسان، ترمذ وغیرہ پر قبضہ کر چکا تھا چھوڑ گیا۔

۱۲۷۳ء میں ملک شاہ نے اپنی لڑکی مقتدی کی کنیزی میں پیش کی خایفہ نے اپنے نکاح سے مشرف فرمایا۔

خطاب امیر المومنین ۱۲۷۹ء یوسف بن تاشقین دالی سبتہ و مراکش جس کے حالات خانقاہت ہسپانیہ میں لکھے جانے لگے ہیں یوسف نے مقتدی سے درخواست کی کہ جو شہر اس کے قبضہ میں ہیں وہ ان کو دے کر سلطان کا لقب عطا کر دیا جائے چنانچہ مقتدی نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اس کے پاس خلعت و علم بھیجا اور اس کو امیر المومنین کا عظیم ترین خطاب عطا کیا۔

دارالعلم ۱۲۸۳ء میں بغداد میں مستوفی دولت تاج الملک نے ایک مدرسہ باب البرز کے پاس بنایا۔ اس مدرسہ کے صدر مدرس ابو بکر شاشی تھے۔

کوائف صقلیہ ۱۲۸۴ء میں فرنگیوں نے تمام جزیرہ صقلیہ پر قبضہ کر لیا یہ جزیرہ ۱۲۸۵ء میں مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تھا۔

۱۲۸۵ء تاریخ علامہ محی الدین انبیاط مصری جرم ص ۳۴ ۱۳۲۵ء تاریخ احنفا ص ۲۲۵

آخری بادشاہ صفیہ کا عہد ہی معز ولی تھا۔

جامع مسجد | اس سال ملک شاہ بغداد آیا۔ ایک جامع مسجد ہوائی اور اس کے گرد مکانات امرار نے تعمیر کرائے۔ پھر ملک شاہ اصفہان چلا گیا۔ مگر ۴۸۵ھ میں بغداد پھر لوٹا اور خلیفہ سے کہلا بھیجا۔ بغداد آپ خالی کر دو۔ خلیفہ نے ایک ماہ کی بہت مانگی۔ مگر دس دن کی بہت ملک شاہ نے دی۔ خلیفہ نے روزے رکھنے شروع کیے اور افطار زمین پر بیٹھ کر کرتا تھا۔ نہایت عجز کے ساتھ ملک شاہ کے لیے دعا مانگی۔ خدا نے قبول کی کہ ملک شاہ بیمار پڑا اور بچہ ۳۸ سال ۴۸۵ھ میں مر گیا۔

ملک شاہ کے آثار خیر | ملک شاہ کے زمانہ میں اس کے نام کا خطہ حدیثیں سے شام تک اور شمال سے یمن تک پڑھا جاتا

تھا۔ سارے قلمزد میں عدل و انصاف کی وجہ سے امن و خوشحالی تھی نہریں نکالی گئیں۔ پل بنائے گئے۔ مساجد آباد کی گئیں۔ مدرسہ تعمیر ہوئے مگر معظمہ کے راستہ میں جا بجار باط اور لنگر خانہ قائم کیے۔ اس کی شوکت ہمسایہ سلطنتوں پر غالب تھی۔ ملک شاہ کے چار بیٹے تھے۔ محمود چھوٹا تھا۔ اس کی والدہ ترکا خاتون نے جس کی بیٹی مقتدی کو منسوب تھی۔ خلیفہ کے مشورہ سے محمود کو ولی عہد کر دیا۔ برکیارق کو نظام الملک ولی عہد کر گیا تھا۔ چنانچہ برکیارق نے محمود کو معزول کر دیا۔

قبضہ بغداد | برکیارق ابن ملک شاہ نے ۴۸۷ھ میں بغداد پر قبضہ کیا

اور خطبہ میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کیا اور رکن الدولہ لقب اختیار کیا۔
 ۴۸۷ھ محرم ۳۸۷ھ میں مقتدی نے برکیارق کے نامہ تخت
مقتدی کی وفات نشینی پر دستخط کرنے کے بعد اچانک پھر ۲۸ سال وفات
 پائی۔ کل مدت خلافت ۹ سال ہے عمائد سلطنت نے اسی وقت مستظہر بات
 کی بیعت لی۔ اس سے فراغت پا کر تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔
اوصاف مورخین کا بیان ہے کہ مقتدی جامع اوصاف فرمانروا تھا
 مقتدی میں دین و سیاست دونوں جمع تھے۔ گو ملک شاہ خلافت
 پر حاوی ہو گیا تھا۔ مگر مقتدی نے خلافت کے وقار کو قائم رکھا۔

ابن اثیر کا بیان ہے۔ -

مقتدی قوی دل اور عالی ہمت خلیفہ تھا۔ اس کا عہد بڑی
 خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ خیر کی کثرت اور رزق میں کسادگی
 و وسعت بھٹی۔

معاصر علماء عبدالقادر جرجانی، ابوالولید البیہقی شیخ ابواسحاق شیرازی۔ علم
 الخوی، ابن الصباغ صاحب الشامل۔ امام الحرمین۔ والد المعانی
 حنفی۔ ابن فضال المباشی۔

محدث و فقہاء محمد بن عبداللہ ناصحی عہد سلطان الپ ارسلان میں نیشاپور
 کے قاضی رہے۔ شیخ ابوالمعانی بن ابومحمد جوینی شافعی سے
 مناظر ہوئے۔ ۴۸۷ھ میں خراسان میں انتقال کیا۔

ابن اثیر ج۔ ۱ ص ۷۹ طہ تاریخ الخلفاء ص ۲۲۶۔

علی بن احسین بن علی نیشاپوری ابوالحسن مولف تفسیر نیشاپوری۔ فقیہ، مفسر
شاگرد حسین بن علی حمیری نیشاپوری زہد اختیار کیا۔ سلاطین سے اعراض کرتے
تھے۔ ایک روز ایک شاہ سلجوقی نے کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کیوں آنا ترک
کر دیا۔ کہا اس لیے کہ تو عالموں کی زیارت سے بہتر بادشاہ ہوا اور میں بادشاہوں
کی زیارت سے بدتر عالم نہ ہوں۔ ۴۸۴ھ میں انتقال کیا۔

عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح بخاری شمس الاممہ حلوانی۔ فقیہ محدث
شاگرد شیخ ابو علی نسفی۔ آپ کی تالیفات سے مبسوط و لواورد وغیرہ مشہور ہیں
۴۷۸ھ میں وفات پائی۔

عبدالواحد بن علی بن برہان الدین عکبری۔ فقیہ نحوی مکمل لغوی۔ مورخ
ادیب تھے ابوالقاسم کنیت تھے۔ حنبلی سے حنفی ہو گئے۔ قدوری کے شاگرد
ہیں۔ حدیث ابن لوط سے سماعت کی۔ ۴۵۶ھ میں انتقال ہوا۔

علی بن محمد بن احسین فخر الاسلام ابوالحسن البرزوی شمسہ میں پیدا ہوئے
فقہ ماہر اصول و فروع مرجع انام مفتی حنفیہ تھے تصانیف مفیدہ بہت یادگار
ہیں جیسے اصول میں متن معتمد معرفت باصول۔ فخر الاسلام برزوی وسیع مبسوط
گیارہ مجلدات میں تفسیر قرآن و شرح جامعین صغیر و کبیر ۴۷۸ھ میں انتقال ہوا۔
احمد بن محمد بن صاعد بن محمد استوانی۔ شیخ الاسلام ابو منصور قاضی لقصا
فقہ و محدث شاگرد صاعد بن محمد و محدث ابوسعید صیرفی ۴۸۲ھ میں فوت ہوئے

باطنیہ اور ان کی حکمرانی

باطنیہ کا کچھ تذکرہ آچکا ہے کہ یہ اسمعیلی شیعہ فرقہ ہے۔ امام جعفر صادق کے صاحب زادہ امام اسمعیل کی طرف منسوب ہے۔ امام جعفر صادق تک اثنا عشری اور اسمعیلی دونوں متفق ہیں۔ امام جعفر صادق کے امام اسمعیل اور امام موسیٰ کاظم دو صاحب زادہ تھے۔ اسمعیل باپ کے جانشین تھے۔ مگر ان کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ اثنا عشری کے نزدیک چونکہ امامت میں جانب الٹدیہ لوگ سمجھتے ہیں اس لیے اسمعیلی یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی امام کی نامزدگی کے بعد پھر اس کا اخراج نہیں ہو سکتا اس لیے وہ ان کو ہی امام مانتے ہیں۔ لیکن شیعوں کے نزدیک متوفی کو امام نہیں کہہ سکتے اور اپنے عقیدہ بدامنی وجہ سے امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں۔ اسمعیلیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسمعیل نے وفات نہیں پائی بلکہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے نزدیک آئمہ ظاہرین کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور مستور اور ان میں ہر ایک کا سات سات کا دور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اسمعیلی ساتویں امام ہیں۔ اس لیے ان پر آئمہ ظاہر کا دور ختم ہوا۔ ان کے لڑکے محمد سے آئمہ مستور کا دور شروع ہوا، تو یہ آئمہ مخفی رہتے ہیں۔ لیکن ان کے دعاۃ علانیہ ان کی دعوت کرتے رہتے ہیں۔ عبید اللہ المہدی

مغربی بانی دولت فاطمیہ سے پھر آئمہ ظاہر کا دور شروع کرتے ہیں اس فرقہ کے نزدیک ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ اس لیے جماعت کو باطنی کہا گیا۔

تحریک آل محمد اور اسمعیلی | تحریک آل محمدی نے حکومت بنو امیہ کا تختہ الٹا اور حکومت بنی عباس اسی دعوت کی بنا پر

قائم ہوئی۔ مگر بنی عباس نے اہل بیت کو نظر انداز کر دیا تو یہ لوگ بنی عباس کے خلاف ہو گئے اور اپنی خلافت کے لیے کوشاں رہے اہل بیت میں سے اکثر کو قربان ہونا پڑا۔ مگر بعض حضرات کو یمن افریقیہ وغیرہ میں کامیابی ہوئی۔ مگر وہ حکمرانیاں دولت بنی عباس کے مقابلہ کی نہ تھیں۔ البتہ عبید اللہ فاطمی نے دولت بنی عباس کی کمزوری اور خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر مغرب میں اپنی عظیم شان حکومت قائم کر لی۔ اب ان کی نگاہیں مشرق کی طرف اٹھنے لگیں تو انہوں نے اپنا پورا نا طریقہ دعوت و تبلیغ کا پھر شروع کر دیا مگر اس میں کچھ اصول نئے اور نکالے۔ اور اس تحریک کے داعی جو ملے وہ عموماً سفاک اور ظالم بھی تھے جس کی تفصیل آگے آئی ہے۔ اس تحریک کا صدر دفتر مصر قرار دیا۔ وہاں باقاعدہ نظام تھا۔ مریدین کو یہاں خاص تعلیم دی جاتی۔ جن میں امامت کی دعوت سب سے مقدم تھی اور ہدایت تھی جن ملکوں میں داعی پہنچیں۔ خفیہ تعلیم دیں۔ یہ لوگ فدائی کہلاتے تھے ان کا سرغنہ داعی الدعاء تھا۔ اس کا درجہ قاضی القضاات کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ خلفائے فاطمین مصر کی نگاہیں خراسان اور ایران پر زیادہ تھیں جو

۲۷ ص ۲۷ کتاب الملل والنحل شہرستانی ج ۲ ص ۲۷

شعبیت کے گوارہ تھے۔ مصر پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے بعد اپنے دعاۃ انہیں
 ممالک میں بھیجے۔ یہاں بنی بویہ کے عہد تک جا بجا صاحب برید و اخبار متعین تھے
 جو ہر قسم کی اطلاعات دیا کرتے اس پر طرہ یہ کہ گو بویہ شعیبی عقیدہ رکھتے تھے
 مگر اہل بیت کے حامی نہ تھے۔ البتہ شعبیت میں غلو اس قدر رکھتے تھے کہ نجف
 اشرف تک گئے سر پہ بنی بویہ حکمران زیارت کو پہنچتے۔ مگر اپنے اقتدار کو
 قائم رکھنے کے لیے خلفائے فاطمی کو نظر انداز کر جاتے۔ بلکہ کوئی داعی
 ہتھے چڑھ جاتا۔ اس کو سخت سزا دیتے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ باطنی تحریک
 خراسان وغیرہ میں عہد بویہ تک ذہنی رہی۔ سلجوقی دور آیا۔ الپ ارسلان نے
 جاسوسی کا محکمہ توڑ دیا۔ نظام الملک اس سے کہا کہ اس صیغہ کا رہنا
 ضروری ہے مگر اس نے جواب دیا کہ ہر شہر میں ہمارے دشمن بھی ہیں اور دوست
 بھی۔ بہت ممکن ہے کہ ارباب غرض دوست کو دشمن یا دشمن کو دوست کی شکل
 میں دکھلائیں۔ اس لیے میں اس بات کو جائز نہیں رکھتا!

چنانچہ سلجوقیوں کے عہد میں باطنیہ پھلے پھولے اور ان کی تبلیغ کا
 حال دور دور تک پھیل گیا۔

اولاً ان کا ظہور ساوہ میں ہوا۔ جو رے اور ہمدان کے درمیان واقع
 ہے وہاں کے شخنے نے دو باطنیوں کو گرفتار کیا۔ مگر لوگوں کی سفارش پر
 چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے ایک موذن کو اپنے مقصد کے لیے پھانسا مگر وہ
 ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا خون تھا جو مشرق میں گروہ باطنیہ
 کے ہاتھ سے ہوا۔

حسن بن صباح | اصفہان اور نیشاپور کے وسط میں قبضہ قائم کرنے کا ارادہ
 اباطینیوں کے دام میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے ایک جماعت
 بنائی جو قافلوں کو لوٹا کرتی۔ اُن کی مزاحمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اصفہان
 تک غارتگری کا دائرہ بڑھ گیا۔ پھر تہابٹینیوں نے ملک شاہ کے تیسرے کردہ
 قلعہ پر قبضہ حاصل کیا۔ اس جماعت کا داعی اعظم احمد بن عبد الملک بن عطاش تھا
 جماعت اباطینیہ نے عطاش کے سر پر تاج شاہی رکھا اور اس کے پاس چاروں
 طرف سے لوٹ کا مال لاکر جمع کیا جاتا۔

حسن الفاق سے ایک فاضل جلیل شخص حسن بن صباح جس کا وطن بے
 تھا جو امام موفق نیشاپوری کے حلقہ درس میں شریک ہو چکا تھا۔ نظام الملک
 اور حکیم عمر خیام کا ہم سبق بھی تھا۔ ہندسہ، حساب، نجوم وغیرہ علوم ریاضیہ کا
 بڑا ماہر فاطمی داعی احمد بن عطاش کے اثر سے فاطمی تحریک میں شامل ہو گیا
 اس کے یہاں فاطمی دعا کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ نظام الملک کے
 خسر ابو مسلم نے جو رے کے رئیس تھے اس کو نظر میں رکھا۔ وہ گرفتاری کے
 خوف سے باگ کر مصر پہنچا۔ خلیفہ مستضر علوی نے اپنے گون کا سمجھ کر ہاتھوں
 ہاتھ لیا اور مشرق میں فاطمی دعوت کی تبلیغ پر اس کو مامور کر دیا

حسن بن صباح مصر سے لوٹ کر شام آیا۔ پھر جزیرہ دیار کبر، خراسان
 کا شخرا اور ماورالنہر کا دورہ کر کے اپنے خیالات لحدانہ ان علاقوں میں
 پھیلائے اور قرظین کے قریب ویالمہ کا بنایا ہوا ایک سنگین قلعہ الموت اس
 کے مقصد کے لیے موزوں تھا۔ یہ ایک علوی کی ملکیت تھا جس بن صباح

نے یہاں قیام کیا۔ اپنے ظاہری زہد و ورع سے چند دنوں میں اس نے ذرا
 میں کافی اثر پیدا کر لیا الموت کا علوی بھی ظاہری زہد سے متاثر ہوا مگر کچھ
 دن بعد ابن صباح نے اس کے ساتھ دغا کر کے الموت پر قبضہ جمایا اور علوی
 کو نکال باہر کیا۔

قلعہ الموت | قلعہ الموت پر قبضہ جانے کے بعد حسن بن صباح کھل کر میدان
 میں آگیا اور دیرانہ قتل و غارت کرنے لگا۔ اس کے داعیوں
 کے ہاتھ سے صد ہا اکابر علماء قتل ہوئے۔ اس کے داعی کسی کی جان لینا اور
 اپنی جان دینا معمولی بات سمجھتے تھے۔

ملک شاہ کو باطنیوں کے حالات معلوم ہوئے۔ نظام الملک نے حسن بن
 صباح کے پاس سفارت بھیج کر افہام و تفہیم کے ذریعہ اسے روکنے کی سعی
 کی لیکن وہ اپنی خود سری سے باز نہ آیا تو پھر الموت پر فوج کشی کر کے
 اس کا نہایت سخت محاصرہ کرایا۔ سلجوقی اقوام کا مقابلہ ابن صباح کے
 بس کی بات نہ تھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے لیے کوئی مفر نہیں ہے
 تو ایک فدائی کو بھیج کر نظام الملک کو قتل کرا دیا۔ فوجیں مستقر خود لوٹ آئیں
 ابن صباح کی جان اس طرح بچ گئی۔ باطنیوں کو اب زیادہ آزادی مل
 گئی۔ انھوں نے ہستان اور طیس وغیرہ پر بھی تسلط کیا اور ابہر کے متصل
 دتم کوہ کے نامی اور محفوظ قلعہ کو قبضہ میں لا کر اپنا مادی وطن بنا لیا۔ اردگرد
 جو قلعہ تھے وہ بھی باطنیوں نے لے لیے۔

ان کی دست درازیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ سلطان برکیارق کے بہت سے امراء کو مار ڈالا۔ اس نے صد ہا باطنیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا مگر باطنیہ تحریک گھٹنے کے بجائے زور افزوں ترقی پر لھتی۔ غرضکہ باطنیوں کی دراز دستی سے خراسان میں اضطراب عظیم پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے ۴۹۳ھ میں سلطان سخر کے سپہ سالار امیر برغش نے ان پر حملہ کر دیا اور بہت سے لمحدوں کو قتل کر کے طیس کا محاصرہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کو فتح کر کے باطنیوں کا ہتھیار نہیں کیا۔ مگر صلح کر کے لوٹ آیا۔ ۵۰۵ھ میں سلطان محمد نے اصفہان کے قلعہ پر جہاں ابن عطاءش رئیس رہتا تھا۔ محاصرہ کر لیا۔ آخر میں ابن عطاءش گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ اس کی بیوی نے قلعہ سے گر کر جان دے دی یہاں سے فارغ ہو کر سلطان محمد قلعہ الموت پر لشکر کشی کی جہاں بن صباح ۲۶ سال سے حکمراں تھا اور قرب وجوار میں لوٹ مار اور غارتگری کر رہا تھا۔ مگر راہ میں ہمایر پڑ کر فوت ہو گیا۔ امیر شتائین شیرگیر والی سادہ نے بھی باطنیوں کی سرکوبی کی۔ آخر میں ظلم و جور کے بعد حسن بن صباح ۵۱۸ھ میں مر گیا۔ اس کا بیٹا کیا بزرگ تھا جو حسن بن صباح کا جانشین ہوا۔

اُمراءِ حکومتِ باطنیہ

کیا بزرگ بن حسن (۵۱۸ھ) اپنے باپ کے مرنے پر تخت الموت پر بیٹھا۔ اس کے وقت میں ریاست نے کچھ اور زور پکڑا۔ گو محمود سلجوقی کے وقت

میں باطنی بہت مارے گئے۔ لیکن اس کی خود مختاری میں کوئی فرق نہیں آیا اس کے بعد اس کا بیٹا محمد جالشین ہوا۔

محمد ابن کیا:۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی راشد بائسڈ پر نگاہ رکھی چنانچہ کچھ عرصہ بعد چار فدائیوں نے خلیفہ عباسی راشد بائسڈ کو راہ میں موقع پا کر قتل کیا۔ مگر اس واقعہ سے ریاست اسماعیلیہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا لیکن عام طور پر الموت میں خوشی منائی گئی۔ محمد سلطان سخر نے محمد ابن کیا کا عقیدہ دریافت کیا۔ غرض اس کی یہ پتھی کہ بے دین ہو تو مجاہدین اسلام بھیجے جائیں لیکن محمد ابن کیا نے جواب میں وہ باتیں نکھیں جس سے محمد سلطان سخری بھی سکتا ہو رہا اور معلوم ہوا کہ صرف جزئیات میں اختلاف ہے۔ رکن مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ محمد بن کیا ۲۵ برس تک حکمراں رہا۔ اس کی ذات سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا۔

حسن بن محمد کیا:۔ اس کو لوگ علی بذکرہ السلام کہتے ہیں اس کو علما اسلام محمد اور زندیق کہتے ہیں۔ اس کے معتقدات اسلام کے خلاف تھے یہ دہریہ مذہب رکھتا تھا اور بے تکلف لوگوں کو اغوا کرتا کہ وہ مذہب کو کوئی چیز نہ سمجھیں۔

محمد بن حسن بن محمد بن کیا:۔ (۱۵۶ھ) اتحاد میں پہ اپنے باپ کو بھی بڑھا تھا۔ امام فخر الدین رازی اس زمانہ میں تھے۔ آذربائیجان سے رے میں آکر درس جاری کیا۔ مذہبی درس میں وہ مثلاً نام اسماعیلیوں کا لیتے تھے اور حسن بن محمد اور محمد بن حسن کو بڑا ٹھلا کہتے تھے۔ تاکہ لوگ ادھر مائل

نہ ہوں۔ فدائیوں نے الموت سے پہنچ کر امام فخر الدین رازی کو بہت دق کیا جس نے وہ غیاث الدین بادشاہ کے پاس غور چلے گئے اور پھر وہاں سے سلطان خوارزم کے پاس خوارزم میں جا کر زندگی بسر کی۔

جلال الدین حسن بن محمد بن حسن۔ باپ کے اعتقادات سے اس نے توبہ کی۔ اور اپنی توبہ کی خبر تمام سلاطین مصر کے پاس بھیجی جس سے یہ جلال الدین حسن نو مسلم مشہور ہوا۔ مذہب اسلام کو اس کے وقت میں رونق ہوئی اس کی ماں ایک مرتبہ حج کرنے گئی تو اس کے ساتھ ایک سلطان بھی تھا ناصر خلیفہ بغداد کے حکم سے سلطان محمد خوارزم شاہ کے رات سے رات جلال الدین آگے رکھا گیا۔ سلطان محمد کو جہاں اور رنج ناصر سے ہوا وہاں یہ بھی خیال تھا کہ خلیفہ نے جلال الدین سے مجھے کم سمجھا۔

علاء الدین محمد بن جلال الدین بن حسن۔ لوہرس کے سن میں یہ تخت پر بیٹھا۔ یہ جو کچھ التماسید عالم دینا تھا۔ لوگ اپنے مذہبی عقیدہ کے مطابق اس کو واجب التعمیل مانتے تھے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ اس کے وقت میں مذہب کھیل ہو گیا ایلان ناصری کا منصف ناصر الدین اسی وقت میں تھا۔

رکن الدین خورشاہ بن علاء الدین (۶۵۳ھ) چنگیز خاں کے پوتے ہلا کو نے اسے گرفتار کر کے ہزاروں اسماعیلیوں کو تیغ کیا اور رکن الدین کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد بغداد کی طرف توجہ کی۔ خلفائے بغداد اور شاہان الموت کی بربادی کا ایک زمانہ ہے۔

خلیفہ مستنصر باللہ

نام و لقب | مستنصر باللہ ابو العباس احمد بن المقتدی باللہ ماہ
شوال ۴۸۷ھ میں پیدا ہوا۔

خلافت | العمر ۶ سال ۴۸۷ھ تختِ خلافت پر رونق افروز ہوا وزیر عمید اللہ
وغیرہ نے بیعت کی۔ لقب مستنصر باللہ قرار پایا۔ وزیر سلطان
برکیارق کے پاس گیا۔ اس نے بطیب خاطر خلیفہ کی بیعت وزیر کے ہاتھ
پر کی۔

مجلس عزا | خلیفہ مقتدی کی موت کے تیسرے دن مجلس عزا منعقد ہوئی۔
سلطان برکیارق مع اپنے وزیر عز الملک بن نظام الملک، اور
اس کے بھائی بہار الملک کے مجلس میں حاضر ہوا اور باب مناصب سے
طراد عباسی، معمر علوی، اور علمائے کبار سے قاضی القضاات، ابو عبد اللہ
وامغانی، امام غزالی، اور امام شافعی وغیرہم بھی ماتم پرسی کو آئے اور
تعزیت کی اور خلیفہ مستنصر کی بیعت کی اور رخصت ہو گئے۔

تاج الملک برکیارق | تاج الملک، ملک شاہ کا بھائی تھا تو سب مملکت
کی ہوس میں ۴۸۷ھ میں فوج کشی کر دی ہوتی

موصول۔ دیار کبر۔ آذربائیجان کو زیر نگین کر لیا۔ برکیارق رکن الدولہ اس کے مقابل آیا۔ مگر ناکام اصفہان کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کا بھائی محمود بن ملک شاہ حاکم تھا۔ اس نے اس کو روکا اور پھر قتل کرنے کی نیت سے داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اتفاق قضا و قدر کہ برکیارق کے قتل ہونے سے پہلے موت نے خود سلطان محمود کا خاتمہ کر دیا۔ اور اہل اصفہان نے متفقہ طور پر برکیارق کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تاج الملوک تمش برکیارق سے نیٹنے کو اٹھا۔ رے کے میدان میں کارزار گرم ہوا۔ تمش اس معرکہ میں کام آیا۔ برکیارق کے لیے میدان صاف ہو گیا۔

وزارت وزیر عمید الدولہ کو خلیفہ مستظہر نے معزول کر کے سدید الملک ابو المعالی بن عبد الرزاق ملقب عضد الدین کو قلم دان وزارت سپرد فرمایا۔ مگر چند سال بعد ۴۹۶ھ میں وہ بھی معاہل و عیال کے گرفتار کیا گیا۔

وزیر موصوف کی گرفتاری کے بعد خلافت مآب نے امین الدولہ ابو سعد بن موصلا کو مجلس مشورہ کا ناظر مقرر کیا اور زعمیم الروسا ابو القاسم بن جہیز کو حلقہ سے طلب کیا۔ ارباب دولت نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ بار خلافت سے خلعت وزارت مرحمت اور قوام الدولہ کا خطاب عنایت ہوا کچھ عرصہ بعد ان پر بھی نزلہ گرا۔ قاضی ابوالحسن دامغانی قائم مقامی کرتا رہا۔ بعد ابو المعالی بن محمد بن مطلب ۵۰۱ھ میں عہدہ وزارت پر ممتاز ہوا۔ ۵۰۲ھ میں سلطان محمد کے اشارہ سے یہ بھی معزول کیا گیا۔ مگر اس

شرط سے بجا رہ سکتا ہے کہ

”آئندہ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ رعایا کے ساتھ ظلم و
جبر سے پیش نہ آئے گا اور ذمیوں میں سے کسی کو ذمہ داری کا
عمدہ نہ دئے گا۔“

ابوالمعالی نے جملہ شرائط منظور کر کے وزارت کا کام انجام دینا شروع کیا
مگر نباہ نہ سکا تو اس کے بجائے ابوالقاسم بن جبیز مقرر ہوا۔ وہ ۳۰۹ھ تک
فرائض وزارت انجام دیتا رہا۔ پھر یحییٰ ابو منصور بن وزیر ابو الشجاع محمد بن
حسین وزیر سلطان محمد کو قلم دان وزارت عطا کیا۔ چند دن بعد پھر برکیارق
نے موید الملک بن نظام الملک کو وزارت پر سرفراز کیا۔

برکیارق کی والد زبیدہ خاتون بڑی عقیل و دانہ خاتون
زبیدہ خاتون | کئی اس نے امور سیاست میں دخل دینا شروع کر دیا
فخر الملک بن نظام الملک نے تحفہ بھجکرا بنا کر سوخ پیدا کیا۔ اس نے برکیارق
کو موید الملک کا مخالف بنا دیا۔ اس نے موید کو قید کیا اور فخر الملک کو وزارت
عطا کی۔ موید الملک قید زندان سے نکل کر محمد بن ملک شاہ والی اراک کے
پاس پہنچا۔ اس نے تعظیم و تکریم کی اور اپنا وزیر کر لیا۔ موید نے برکیارق پر
حملہ کر دیا۔ ۳۹۱ھ سے ۳۹۶ھ تک باہمی جنگ ہوتی رہی مگر نظام
کا شیرازہ بکھر گیا۔

رے، جبل، طبرستان، خوزستان، فارس، دیار بکر اور سرمن

۱۰ ابن خلدون جلد ۵ ص ۶۷ ۱۱ ابن خلدون جلد ۵ ص ۶۸

میں برکیاروق کے نام کا خطبہ جاری تھا اور آذربائیجان، ایران، ارمینیا، صہبانی اور عراق میں سلطان محمد کا بطائع میں کہیں اس کا اور کہیں اس کا اور بصرہ میں دونوں کا۔ سمرقند ملک شاہ نے مشرق میں حدود جرجان سے ماورالنہر تک اپنے نام کا خطبہ شروع کر دیا۔ یہ ابتری دیکھ کر رومی ملک شام پر بیت المقدس کے لیے حملے کرنے لگے۔ اس وجہ سے بعض امراء علما قاضی ابوالمنظرفرجانی حنفی اور ابوالفرح احمد بن عبدالغفار ہمدانی نے برکیاروق اور محمد میں صلح کرادی اور دونوں کے حدود قائم کر دیے۔

وفات برکیاروق | برکیاروق اس صلح کے چند دن بعد ۳۹۵ء میں مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ ثانی

تخت نشین ہوا۔ محمد نے اس پر چڑھائی کر دی اور کامیاب ہو گیا۔

حروب صلیبیہ | خلیفہ مستنصر کے زمانہ میں جنگ صلیبی کا آغاز ہوا۔ کیوں کہ عباسی خلفاء جب سے داخلی مملکت کے جھگڑوں میں الجھ

گئے۔ ہمدی، ہارون، مامون جیسے جاہ و جلال والے خلفاء کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ان کے اخلاف کی کمزور قوت اور نااہلی سے اب عباسیہ حکومت کی طاقت بالکل کمزور ہو چکی تھی چنانچہ رومی سلطنت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ۶۹۶ء کے درمیان نقفور اور جبارین کے حملے خصوصی طور پر اہم تھے جیسا کہ اوپر ذکر تفصیلی کر چکے ہیں رومیوں کی سرحدات سے متصل اسلامی علاقوں پر خاندان بنی حمدان کا قبضہ تھا۔ پوری جدوجہد کے باوجود

۱۵ ابن خلدون جلد ۹ ص ۶۹

وہ رومی فوجوں کے دباؤ کی تاب نہ لاسکے یہ فوجیں شام کے ساحلی علاقہ پر قبضہ کرتے ہوئے دریائے فرات کو عبور کرنے لگیں اور خود دارانہ طور پر بغداد ان کے حلوں کی زد میں آ گیا۔ عباسی خلیفہ مطیع اللہ بہت گھبرایا اور جوڑ نائیب سلطنت کے کہنے پر اپنے محل کے اسباب تک کو بیچ ڈالا۔ تاہم خلافت کی خوش قسمتی سے اس وقت رومی فوجیں پسپا ہوئیں۔ مگر یہ سلسلہ مقابلہ کا ایک عرصہ تک رہا۔ سلجوقیوں نے اپنے دور میں رومیوں کو بہت کچھ یا تمال کیا ان کے علاقے چین لیے۔ ان کی قوت سے آس پاس کی حکومتیں لرزہ برانداں تھیں۔ شاہ سلجوقی نے تمام سرحدی حکومتوں سے اپنے قوت کے بل پر من مانی شرطیں منوالیں۔ مشرقی رومن امپائر کا شہنشاہ کیسوس بھی ملک شاہ کے حلال و ہمیت سے کانپ رہا تھا۔

ملک شاہ کے مرتے ہی کیسوس نے حوثقہ سے فائدہ اٹھایا اور سبھی دنیا کے مشرقی و مغربی حصے کی باہمی رقابت اور مخالفت کو کبیر بھلا کر اپنے قاصد یورپ کے جنگجو اور جنگ آزما بہادروں سے درخواست کی کہ وہ میرناختہ دے کر سلطنت کے کھوے ہوئے وقار اور وسعت کو دوبارہ لوٹادیں۔

سب سے پہلے شہنشاہ کیسوس کی معاونت کے لیے "پطرس" راہب آسمٹھ کھڑا ہوا۔ پطرس فرانس کے شہر ایس کارہننے والا تھا جو انی میں اس نے فوجی نوکری کی۔ مگر بعد میں تارک دنیا بن گیا اور راہب کا لقب پایا۔ اس نے بیت المقدس آکر دیارت کی تھی۔ بغداد بھی گیا تھا۔ کچھ حصہ عالم اسلامی میں پھرا۔ یہاں سے یہ خیال لے کر گیا کہ خون حسین کے نام سے بنی فاطمہ برسرِ قنار

ہو گئے تو اس نے صلیب کو سامنے رکھا اور جس طرح بنی فاطمہ عیوب اور سلم
بنی اُمیہ دینی عباس کے بیان کر کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہے تھے اسی طرح
اس نے جا کر یورپ میں ہنگامی دورہ کیا اور مسلمانوں کے مفروضہ مظالم
بیان کیے اور صلیب کے دیرسایہ کرنے کی دعوت دی۔ خلاصہ یہ کہ صلیبی جوش
کی آندھی چلی اور بڑی بے ڈھب چلی۔

مشرقی رومی ایسپائر کے شہنشاہ کا ایک قاصد پاپے روم کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ اور اس سے درخواست کی کہ وہ فرینک، جرمن اور انگریز
وغیرہ مغربی اقوام کو دعوت دے کہ صلیب کی امداد پر آمادہ کرے اور ارض
مقدس کو اس کے دشمنوں سے چھڑائے۔ پاپے روم نے یہ درخواست منظور
کی، تمام یورپ کو صلیب کے نام پر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ یہ فتویٰ نائب
سیج بگولہ بن کر سارے مغربی نصرا نیوں میں پھیل گیا۔

پھر تو ارض مقدس پر قبضہ کرنے کے عزیز مقصد کو حاصل کرنے کے
لیے سارا یورپ تیار ہو گیا اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ

پوپ اربن دوم نے ۱۰۹۵ء میں فرانس کے شہر کلرموں
میں عیسائی دنیا کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی چند
فردعی امور کے تصفیہ کے بعد پوپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا
”مسلمانوں کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے۔ ان پر حملہ کرنا ضروری
ہے۔ اس وقت جو شخص اپنی صلیب کو نہ اٹھائے گا اور میرے
ساتھ نہیں چلے گا وہ میرا پیر و نہیں ہے۔“

لہ تاریخ یورپ اے۔ جے۔ گرانٹ ص ۳۵۱

یوپ کی تقریر نے حاضرین میں مجبوزمانہ حالت پیدا کر دی تھی
 اُسے۔ خدا کی مرضی یہی ہے۔ اور سرخ کپڑے کی صلیبیں اپنے
 سینوں پر لگا کر اس عظیم الشان مہم کے لیے تیار ہو گئے۔۔۔
 مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک انبوہ کثیر بطرس راہب
 کی قیادت میں روانگی کے لیے تیار ہو گیا
 فرانسیسی مورخ لیبان نے تمدن عرب میں ان مقدس صلیبوں کا
 کا یہ حال لکھا ہے۔

جنتا ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا بھی
 ایک ذریعہ نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو زمین کے غلام اور آزادی
 پر جان دیتے تھے۔ خاندانوں کی وہ اولاد اصف جو قانون
 وراثت کی رو سے محروم الارث تھی۔ امراء جنہیں آبادی بڑا
 کا حصہ کم ملا تھا اور جنہیں دولت کی خواہش تھی، راہب
 جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے عاجز آگئے تھے غرض کل
 مفلوک الحال اور ممنوع الارث اشخاص جن کی تعداد بہت
 تھی اس مقدس گروہ میں شریک تھے یہ

اے۔۔۔ جے گرانٹ کے بیان سے اس مقدس صلیبی گروہ کے
 مذہبی و اخلاقی حالت کا یہ نقشہ نظر آتا ہے۔

اس خالص جذبہ مذہبی میں حرص و ہوا اور خود غرضی غلجہ

تاریخ یورپ اے۔۔۔ جے گرانٹ ص ۳۵۵ لے تمدن عرب ص ۲۹۵

انتقام و منافرت اور جنگ و خونریزی کے عناصر شامل ہو گئے
 انہیں صرف مسلمانوں ہی سے نفرت نہ تھی بلکہ غریب بیوی
 بھی جو مغرب میں آباد تھے۔ گرفتار مصیبت ہو گئے، مالی نقصان
 کے علاوہ انہیں سخت جسمانی تکلیفیں پہنچانی گئیں اور طرفہ
 تماشہ یہ تھا کہ اس بدکردار لوگوں کے بانی وہ لوگ تھے جو اس
 سرزمین کو آزاد کرنے جا رہے تھے جہاں مسیح نے تمام بنی آدم
 کے لئے اپنی جان دی تھی۔

غرض کہ صلیبی مجاہدین کا یہ انبوہ کثیر جس کی تعداد ۱۳ لاکھ تھی پطرس
 راہب اور ایک مفلس سرواڑ گوتیر، کی قیادت میں قسطنطنیہ روانہ ہوا
 راہ میں آدھ بھگت خوب ہوئی۔ مگر بلغاریہ والوں نے ان سے روپیہ لے کر
 سو دا دیا۔ مجاہدین بگڑ بیٹھے۔ دیہات لوٹ لے، عیسائی باشندے قتل کیے
 اور صہبا کو دریا میں پھینک دیا۔ پھر قسطنطنیہ پہنچے۔ قیصر اکلزس نے
 ان کے مظالم سے تنگ آ کر انہیں باسفورس پارا لیشیائے کوچاک روانہ
 کر دیا پھر تو بلا امتیاز مسلمان و عیسائی سب کو جو راہ میں ملتا قتل کر دیتے
 بچوں کی تکا بونی کر ڈالتے یہ وحشیانہ افعال روز افزوں ترقی برتتے
 امیر قلیج ارسلان سلجوقی والی قونینہ کے علاقہ میں داخل ہوئے اس نے
 ان کی اس بربریت کا پورا انتقام لیا اور جانوروں کی طرح ان کا قتل
 عام کیا اور قریب قریب پورے صلیبیوں کی فوج برباد ہو گئی۔

لے تاریخ یورپ سے۔ جے گمانٹ ص ۳۵۵ (اردو) لے نمبرن عرب ص ۲۹۶

یہاں ان مجاہدین کو اپنے کروت کا یہ پھل ملا۔ اور یورپ کی حکومتوں نے فوجیں تیار کیں اور اپنے اعزہ و امراء کی قیادت میں ان کو روانہ کیا شمالی فرانس کی فوجیں فلپ اول کے بھائی ہنگو آف ڈنڈ و اسٹین کی قیادت میں تھیں۔ جنوبی فرانس کی ایمینڈ کاؤنٹ ٹولوز کی نارمنوں کی شاہ انگلینڈ کے بھائی رابرٹ کی، رائن کے جرمنوں اور فرانسسوں کی گارڈ فری رئیس بولون کی، جنوبی اٹلی و سسلی کی بوٹنڈ اور سنکر کی سرکردگی میں روانہ ہوئیں۔

ان کے علاوہ یورپ کے چھوٹے موٹے رئیس بھی شریک تھے۔ ان فوجوں کی تعداد دس لاکھ تھی۔ پہلے اس میں کچھ چٹخ چلی۔ مگر پھر مصالحت کے تقاضے سے ۱۱۹۹ء میں تمام افواج گاڈفرے کی سرکردگی میں آگسٹیل وریانسفور کو عبور کر کے انھوں نے تونہ کا محاصرہ کر لیا۔ امیر قلیج ارسلان سلجوقی بڑی شجاعت سے مدافعت کرتا رہا۔ مگر آخر میں شکست کا منہ اس کو دیکھنا پڑا۔ تونہ کے بعد صلیبی افواج شام کی طرف بڑھیں اور انطاکیہ کو گھیر لیا۔ یہاں کے سلجوقی والی باغسیان نے پوری مدافعت کی۔ مگر صلیبی ایک قلعہ دار سے سارا باز کر کے شہر میں داخل ہو گئے اور پوری مسلمان آبادی کو انھوں نے تہ تیغ کر دیا۔ امیر قوام الدولہ کر بوغا والی موصل انطاکیہ مدد کے لیے آیا۔ مگر ناکام لوٹا۔ پھر یہ صلیبی مجاہد شمالی شام کی طرف بڑھ کر مصر النعمان کو فتح کر لیا۔ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کئے اسی قدر

۱۰ ص ۹۵

شام زمینڈ کو دیا گیا۔ اس طرح شام کے حصہ ہو کر چار عیسائی حکومتیں قائم ہوئیں۔ خلافت عباسیہ کی کمزوری اور امرائے سلاجقہ کی باہمی آویزشوں امرائے اسلام کی ذاتی غرضوں سے یہ روز بد مسلمانوں کو دیکھنا پڑا۔ غرض کہ ان درندوں نے تمام مسلم آبادی کو تہ تیغ اور مال و متاع اور کتب خانوں کو نذر آتش کیا۔ تھوڑے عرصہ میں اس وحشت اور سفاکی سے سارا شام ویران ہو گیا۔

وقائع بغداد | شام کے علاقہ پر نصراہیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان محمد کو اس طرف توجہ نہ ہوئی۔ وہ بغداد پر قبضہ و تصرف کرنا چاہتا تھا چنانچہ ۳۷۹ھ میں سلطان محمد نے بغداد کی طرف کوچ کیا۔ سلطان طہسی رقطب الدولہ اسمعیل بن قوتی بن داؤد (چکر مش والی موصل سیف الدولہ والی حلب اور اس کے لڑکے بدران و دبیس موکب سلطانی کے ساتھ تھے) امیر ایاز جو برکیارق کی طرف سے اس کے بیٹے ملک شاہ ثانی کا ولی تھا وہ اور وزیر ابوالحسن سلطان محمد کی خدمت میں پیش ہوئے۔ مسجد میں سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ سلطان نے ملک شاہ کو گلے سے لگایا۔ پھر امیر ایاز نے سلطان کی دعوت کی۔ خلیفہ نے بھی لوازشات مذبذول فرمائے۔ سلطان محمد نے عثمان حکومت بغداد و سنجد کی۔ عدل و انصاف سے کام لینے لگا۔ ٹیکس موقوف کئے گئے۔ لشکریوں کو جبر و تعدی سے روک دیا اور ان کو بازاروں میں جبنے کی ممانعت کر دی۔

مگر انتظام تک کا چل نہ سکا۔ شورش پھیل گئی۔ آخر میں ۱۵۵۷ء میں وہ انتقال کر گیا۔ ۱۲ سال سلطان محمد نے حکومت کی۔ خلیق اور شجاع تھا۔ جالشین اس کا بیٹا محمود ہوا۔

مستنظہر کی وفات | ۱۵ ربیع الاخر ۵۱۲ھ میں ۱۴ سال کی عمر میں

مستنظہر نے بھی انتقال کیا۔ مدتِ خلافت ۲۵ سال ہے اس کے عہد میں تین بادشاہوں تاج الملک تمش، سلطان برکیارق سلطان محمد کے نام کے خطبہ پڑھے گئے۔

حادثات | مستنظہر کے عہد میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے مشرق

میں فرقہ باطنیہ نے بے حد ظلم ڈھائے۔ سلجوقیوں کی خانہ جنگی اور جنگ صلیبی کی وجہ سے ملک آتش جنگ بنا ہوا تھا۔

اوصاف | ابن اثیر کا بیان ہے کہ

مستنظہر نہایت ملامتِ طبیعت، کریم الاخلاق، نیک

کاموں میں جلدی کرنے والا۔ خوش خط، انشا پرداز تھا

فنون میں اپنا کوئی ہمسر نہ رکھتا تھا۔ علم وسیع رکھتا تھا شجاع

سخی۔ علماء و علما پر جان دینے والا۔ اس کا سارا عہد اہل

بغداد کے لیے آرام و راحت کا زمانہ تھا۔

علمی ذوق | علمی اعتبار سے مستنظہر فاضل تھا۔ ادب و انشاء کا بلند

ذوق تاریخ الخلفاء ص ۲۲۶ طے دول الاسلام ذہبی ص ۲۵ ص ۲۷-۱ ابن

اثیر جلد ۱۰ ص ۱۸۹-

مذاق رکھتا تھا۔ اس کی مختصر تو قیعات اس کے ذوق ادب کا نمونہ ہیں۔
 حسن انتظام اور رعایا کے سکون و راحت و فارغ البالی کے لحاظ
 سے بھی اس کا دور ممتاز تھا۔ گو اس کے عہد میں امرائے سلجوقی باہمی برسرسپیکار
 تھے باطنی علیحدہ شورش پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ جنگ میلہی کے بادل
 منڈلا رہے تھے۔ مگر مستظہر کی حسن قابلیت سے بغداد محفوظ تھا۔

ہمعصر علما | محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی شمس اللائمہ ابو بکر امام علامہ
 نقیہ ابن کمال ساسارومی نے آپ کو طبقہ مجتہدین فی المسائل
 میں شمار کیا ہے آپ کو بادشاہ وقت نے کلمہ حق کہنے پر چاہ میں قید کر دیا
 مگر آپ کے شاگرد کو میں کی منڈیر پر بیٹھ کر استفادہ حاصل کرتے تھے اس قید
 کی حالت میں اپنے تلامذہ کو مبسوط اپنی زبانی شرح لکھوائی اور اسی زمانہ
 کی کتاب العیادات و شرح کتاب الاقرار ہے۔ مختصر الطحاوی بھی یادگار
 سے ہے۔ سنہ ۵۰۰ میں انتقال کیا۔

وزیر سدید الملک | سدید الملک ابو المعالی بن عبدالرزاق بلقب
 عزیز الدین علم و فضل میں یگانہ روزگار تھا
 اس نے مقتدی کے عہد میں وزیر ابو الشجاع کی صحبت اٹھائی تھی
 ابو الشجاع نہایت عادل اور منصف وزیر تھا۔ اس کا معمول تھا کہ
 نماز ظہر کے بعد عدالت کا اجلاس کرتا تھا اور منادی کرا دیتا تھا جس
 کسی کو کوئی شکایت ہو وہ آکر پیش کرے۔

حج کو گیا اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران میں مسجد نبوی کی جھاڑو دینا
 چراغ جلانا خاص طور سے انجام دیتا۔ سدید الملک بھی ابو الشجاع کے
 قدم بقدم اولاً چلا۔ آخر میں بہک گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مستنظہر نے قید خانہ بھیجا

خلیفہ مستنصر باللہ

نام و لقب | مستنصر باللہ ابو المنصور افضل مستنصر باللہ ریح الاول ۴۸۵ھ
میں پیدا ہوا۔

تعلیم و تربیت | ابو القاسم بن بیان اور عبدالوہاب بن ہبیبہ التدرستی کی حدیث
اور محمد بن عمر بن المکی الماہوازی اس کے وزیر علی بن طراد
اور اسمعیل بن طاہر الموصلی نے اس سے حدیث روایت کی۔ اس کے علم و فضل
کی نسبت اتنا کہ دنیا کافی ہے کہ ابن صلاح اور ابن سبکی نے اس کو طبقات
شافعیہ میں شمار کیا ہے۔ ابو بکر شاشی نے ایک کتاب فقہ میں تصنیف کر کے
اس کے نام سے مشہور کی اور عمدۃ الدین والدین خطاب پایا۔ نہایت خوشخط
تھا اور تمام خلفائے بنی عباس پر اس فن میں سبقت لے گیا تھا۔ اکثر مشہور
کاتبوں کو اصلاحیں دیا کرتا۔ جرأت، ہیبت و شجاعت اور مجاہدانہ سرگرمی
میں بڑھا ہوا تھا۔

خلافت | مستنصر کی وفات کے بعد ریح الآخر ۴۸۵ھ میں مستنصر باللہ
تحت خلافت پر تمکن ہوا تیس برس پیشتر اسکی ولیہدی کا اعلان
ہو چکا تھا۔ تحت خلافت پر جلوہ افروز ہونے پر اس کے بھائی ابو عبد اللہ

۴۸۵ تا ریح الخلفاء ص ۲۲۹ ۴۸۵ھ ایضاً

محمد ابوبطالعباس اور اس کے اہتمام پسران مقتدی نے بیعت کی بعد
الراں فقہار قضاة، اراکین دولت اور امرائے سلطنت سے بیعت لی گئی
بیعت لینے پر قاضی ابوالحسن دامغالی مامور ہوئے۔

وزارت | قاضی ابوالحسن دامغالی کو ہی خلیفہ نے عہدہ وزارت پر بحال
رکھا مگر کچھ دن بعد یہ معزول کئے گئے سلطان محمود کے وزیر

ابوشجاع محمد بن ربیع ابومنصور کو وزارت پر ممتاز کیا۔ یہ بھی ۵۱۹ھ میں
معزول کیے گئے اور ان کے بجائے جلال الدین عمید الدولہ ابوالحسن بن
علی بن صدقہ کو قلم دان وزارت مرحمت کیا۔ یہ وزیر ریاست کے نظم و نسق
کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کو جلال الدین، سیدالوزراء، صدرالشرق
والغرب اور ظہیر امیر المؤمنین کے خطابات مسترشد نے دیے تھے۔

وقائع | مسترشد نے اپنے ہوش و گوش سے کام لے کر خلافت بنی عباس
میں نئے سرے سے جان ڈالنے کی سعی کی۔ اس میں حکمرانی کا

مادہ تھا چنانچہ وہ بیس خلیفہ کے مقابل آیا مگر اس کو بقوت شکست دی سلطان
محمد اور سب میں چل گئی۔ تو خلیفہ نے اپنی قوت کو بڑھا لیا اور مخالفین سے
برسر پیکار ہوا۔ سلطان محمود سلجوقی کے سخنے کو بغداد سے نکال دیا اس نے
عمود سے جا لگائی وہ بغداد آیا۔ مگر اپنا پہلو کمزور دیکھا تو صلح کر لی امرائے
عمود نے محمود کو مشورہ دیا۔ بغداد کو آگ سے چھونکنا دیا جائے اس نے
کہا کہ یہ ایسا کام ہے کہ اگر سارے عالم کی سلطنت بھی مجھے ملے تو نہیں کروں گا۔

۱۰ ابن خلدون ج ۹ کتاب ثانی ص ۸۰ ۱۱ الفخری ص ۲۶۵

سلطان محمود بغداد میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے خلعت اور عربی گھوڑے اس کو عطا فرمائے۔ تقریباً دو ماہ وہ قیام پذیر رہا۔ ۴ ربیع الثانی ۵۲۱ھ کو اپنے مستقر چلا گیا۔

اسفہان میں ابن عطاش باطنی کی جماعت کو سلطان محمود نے باطنیہ افکار دیا۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ قلعہ الموت میں رہ گئے۔ پھر ۵۲۴ھ میں محمود نے ان کا استیصال بھی بہت کچھ کر دیا۔

وفات سلطان محمود | اس کے بعد ۲۲۵ھ میں سلطان محمود نے وفات پائی۔

سلطان مسعود اور طغرل | سلطان محمود کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے داؤد کا نام خطبہ میں لیا گیا۔ سلطان مسعود نے داؤد سے دو روہا تھ کیے۔ مگر داؤد کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سلطان سنجر والی رے نے مسعود کی گوشالی کر دی اور مقام گنجم میں اس کو مجبور کر دیا اور اس کے بجائی طغرل ثانی کو تخت نشین کیا۔

مسعود نے موقع پا کر ایک جماعت اپنی ہمنوا کی اور بغداد آیا۔ خلیفہ کو متفق کر کے ہدان جا کر طغرل کو مغلوب کیا۔ اس کے بعد داؤد کے ساتھ اس کا نام خطبہ میں آنے لگا۔ بارگاہ خلافت سے دونوں سلجوقی امراء کو خلعت نیا بت سلطنت عطا ہوئے۔ چند روز بعد خلیفہ کی مسعود سے بڑا گہری دہ لڑائی کے لئے نکلا۔ خلیفہ اور اس کی فوجوں میں خوب جدال و قتال ہوا۔ لیکن خلیفہ کے لشکر نے ناک حرامی کی جس سے خلیفہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔

خلیفہ کی نظر بندی | خلیفہ معہ خواص کے ہمدان کے قلعہ میں نظر بند
 کیا گیا جب اہل بغداد کو خلیفہ کی گرفتاری کی خبر
 لگی تو لوگ بازاروں میں اپنے سروں پر خاک ڈالتے، شور کرتے ہوئے
 نکلے۔ عورتیں سر کے بال کھوئے ہوئے خلیفہ کے لیے بہن کر رہی تھیں
 بغداد میں نماز و خطبہ بند رہا۔

اب جو زمی کا بیان ہے کہ اس روز بغداد میں رزلہ آیا اور کئی
 دن تک رہا۔ سلطان سخر کو خبر لگی۔ اس نے اپنے برادر زادہ ملک مسعود
 کو خط لکھا کہ تم خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زمین چوم کر معافی مانگو اور
 اپنے کو گناہگار ظاہر کرو۔ کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے قہر الہی ہے، اور
 مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے مسحدوں میں نماز خطبہ بند ہے جس کا عذاب
 آنا یقینی ہے۔ اس کی علیہ تلافی کرو۔ خلیفہ کو بعزت بغداد پہنچا دیا
 کہ ہمارے آبا کی عادت تھی۔ ان کا غاشیہ خود اٹھا کر لاؤ۔ ملک مسعود نے
 سلطان سخر کی حرف بہ حرف تعمیل کی۔ سلطان سخر کی فوج آئی اس میں
 چند باطنی بھی تھے۔ خلیفہ خمبہ میں رونق افروز تھے باطنی موقعہ پا کر گھس
 گئے اور ان کو معہ خواص کے شہید کر دیا۔ سلطان مسعود کو اس واقعہ کا
 بڑا صدمہ ہوا مثل عزاداروں کے سوگ منایا۔ بغداد میں اس خبر نے حشر
 بپا کر دیا۔ لوگ سرد پارہنہ کپڑے پہاڑتے گھردوں سے نکل آئے خلیفہ
 سے اہل بغداد کو دلی ہمدردی تھی۔ خلیفہ کی شجاعت و عدل و انصاف نے

ہر شخص کو گرویدہ بنا رکھا تھا۔

واقعہ قتل مسترشد | ۱۶ ذیقعدہ ۵۲۹ھ کو مسترشد کا قتل کا واقعہ ہوا۔
سترہ سال آٹھ ماہ فراغِ خلافت انجام دیے۔

اوصاف | مسترشد عابد و زاہد صوفی کے کپڑے پہنتا۔ اپنے مکان میں عبادت
کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی۔

وہ ایک عالی ہمت، بہادر، جرمی۔ ضائب الرئے اور سہیت و جبروت کا
خلیفہ تھا۔ اُس نے خلافت کے پراگندہ نظام کو از سر نو منظم و مرتب کیا اور راجہ
شریعت کو استوار کیا۔ یہ خلیفہ خود جنگوں میں شریک ہوتا تھا۔

نظم سلطنت | مسترشد ملک اور رعایا کی حالت کے سہارے میں لگا رہتا
تھا اور رعایا پر بے حد شفقت کا برتاؤ کرتا تھا۔ ظلم و جور کا انسداد
کیا۔ ۱۵۱۳ھ میں اپنی خاص جاگیر کے علاقہ میں ایک ظلم و زیادتی موقوف کرا
دی اور حکم جاری کیا کہ کسی کا شتکار و اجارہ دار سے مقررہ محاصل کے علاوہ
کوئی شے نہ لی جائے۔

اہل حرفہ پر بھاری بھاری ٹیکس لگے ہوئے تھے ان کو بند کیا۔ بغداد میں
بڑھیا قسم کے کارخانے تھے۔ ان پر جو ٹیکس تھا۔ اس کو سرے سے موقوف
کر دیا۔ بڑائیوں میں بہ نفس نفیس بھگتا تھا۔

حافظ ذہبی کا بیان ہے

مسترشد نے بنی عباس کے وقار و عظمت کو زندہ اور امور مملکت کو منظم کیا

۱۵ تاریخ الخلفاء ص ۱۰۰ ۱۵ تاریخ الخلفاء ص ۳۰۲ ۱۵ ابن اثیر ج ۱ ص ۱۰ ۱۵
دول الاسلام ج ۴ ص ۵۰

مصرف اوقاف | اس کا زیادہ وقت عبادت اور تلاوت قرآن پاک میں گزرتا
تھا جس روز شہید ہوا۔ اس دن بھی روزہ سے تھا اور تلاوت
کلام پاک میں مشغول تھا۔

شہر بنپاہ کی درستی | اس کے آثار میں سے بغداد کی شہر بنپاہ کی نئے طور سے
تعمیر ہے جو انقلابات و حوادث سے شکستہ حالت میں تھی
اہل شہر کی مالی معاونت سے درست کرائی۔ مگر پھر خود حکومت کی طرف سے
سب کی رقم واپس کر دی۔

علمی ذوق | مستر شد کے عہد میں اس کے علمی ذوق کا بغداد پر بڑا اثر پڑا۔ کیونکہ
وہ خود علماء کی جماعت میں ممتاز درجہ رکھتا تھا اس کے ارد گرد
اس عہد کے فضلاء و علماء رہتے تھے۔

اپن ائیر کا بیان ہے کہ
”وہ فصیح و بلیغ تھا۔ خط اس کا بڑا پاکیزہ فصاحت و بلاغت
کے ساتھ وہ زباں آور خطیب تھا۔ شعر و شاعری میں مستحضر
نفاق رکھتا تھا وہ شاعر تھا“

کتاب ہے

انا لا شقر المدعوی فی الملاحم
ومن یملک الدنیا بغیر مزاحم
سبلمہ ارض المومنین و بینقنی
باقصی بلاد الصین بیض صوادنی
ترجمہ :- میں سیا گھوڑا ہوں کہ جنگوں میں بلایا جاتا ہوں اور جو دنیا کو بغیر مزاحمت

لے طبقات الشافیہ ج ۴ ص ۲۹۱

قبضہ میں لے آتا ہے۔

میل لشکر بہت جلد مرضِ روم پر قابض ہو جائے گا۔ قریب ہے کہ میری
تلوار کی چمک اہل چین دکھیں۔
قید کی حالت میں یہ اشعار ورد تھے۔

ولا عجبا للابسلان ظفہ ت جھا
فخر بہتہ وحشی ستقت حمزہ الرزی
کلاب الاعادی من فصیح و اعجم
وموت علی من حسام من ملجم
ترجمہ :- اگر شیر پر گویا گونگے کتے نے فتح پائی تو کچھ عجب نہیں ہے وحشی
کے ہتھیار نے حمزہ کو شربت شہادت چکھایا اور ابنِ لجم نے علی کو یہ

ابو علی حسن بن علی | سیدالوزراء کو مسترشد بانشد نے ۱۱۵۳ھ میں وزارت
عظمیٰ کے منصب پر مامور کیا تھا اور بڑے بڑے خطاب
دیئے سلطان سنجوقی کے وزیر کو ابو علی کی غیر معمولی قابلیت نے اس کا حاسد بنا
دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کو بھڑکا کر اس کو معزول کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد مسترشد نے
دوبارہ اسے منصب پر مامور کیا اور خلعت سے نوازا اور ارکانِ دولت کو
حکم تھا کہ جب وہ دیوانِ وزارت کو روانہ ہو تو احترام میں اس کے آگے آگے
چلیں۔ یہ پہلا وزیر اعظم تھا جسے یہ اعزاز بخشا گیا تھا۔ یہ اہل قلم ہی صرف نہ تھا
صاحبِ سیف بھی تھا۔ شجاع تھا۔ اس کی شجاعت کا اندازہ اس سے کیا جا
سکتا ہے کہ جب سلطان سنجر نے بغداد پہنچنے کے خلیفہ کے خیالات منگامہ پیا کرنے
کا قصد کیا تھا تو ابو علی نے کہلا بھیجا تھا۔

اگر تم نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی حرکت کی تو یاد رکھنا اپنی مملکت کے ایک ایک چپہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تم ایک فرسنگ بڑھو گے تو میں دو فرسنگ پیش قدمی کروں گا۔

مشرشد کے دل میں ابو علی کی بڑی قدر تھی جب یہ بیمار پڑا تو خلیفہ عیادت کو گیا۔

سیاسی حالت | مشرشد بائند نے مقتدی بائند کی پالیسی، اچیلے دولہ عباسیہ کی نئے سرے سے اختیار کی۔ مشرشد شجاع اور بہادر تھا وہ سلجوقی سلاطین کو نظر میں نہ لاتا تھا۔ کھل کر میدان میں اترتا۔ اس کی تہمت تھی کہ پھر یہ دولت عروج حاصل کرے مگر وہ ارادہ میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ۵۲۰ھ میں مشرشد نے سلطان محمود بن محمد بن ملک شاہ پر چڑھائی کر دی اور اس کو شکست دی۔ ممکن تھا کہ اس وقت وہ سلجوقیوں کو صفحہ مستی سے مٹا دیتا۔ لیکن محمود کو حاکم بصرہ زندگی کی لک پونج گئی وہ سنبھل گیا۔ پھر اس امرائے سلجوق کو آپس میں بھڑا دیا۔ پھر زندگی کی برسی طرح خبر لی اور موصل تک بھگا دیا۔ مسعود کے مقابلہ میں امیر سلجوق جو خلیفہ کا ہمراہ تھا اسکی غابازی کی وجہ سے خلیفہ کو شکست کا منہ دکھنا پڑا۔ غرض کہ مشرشد نے آخری دم تک خلافت عباسیہ کو باوقار اور پر عظمت بنانے میں سعی کی۔ مگر قضا و قدر میں کس کو چارہ ہے کہ باطنیوں کے ہاتھ سے جان بحق تسلیم ہوا۔ دل کی تمنا دل ہی میں لے گیا۔

علمائے عصر | محمد بن ہیثمہ اللہ حلی قاضی حلب فقیہ و زاہد تھے ۵۳۲ھ

انتقال ہوا۔

ابراہیم بن اسمعیل بن احمد بن اسحاق بن شیبث المعروف بزاہد صفار
بن الاسلام ابو السحق فقیہ و متورع و سلطان بحرین ملک شاہ سلجوقی نے شہر مرو
یا آپ کو بسایا۔ کتاب تخلص الزہد و کتاب السنہ و اعمامہ تصنیف ہے

۵۳۴ھ میں انتقال ہوا۔

عبدالغافر فقیہ محدث، اپنے عہد کے علمائے کبار سے تھے مجمع الغر
غریب الحدیث یادگار سے ہے ۵۳۴ھ میں انتقال ہوا۔

محمود بن عمر زحشری ابو القاسم لقب بفتح خوارزم اور بسید مجاورت کہ
لقب بجار اللہ معتزلی لغوی ادیب نحوی بلخ میں تفسیر کثافات آپ کی
ادگار سے ہے۔

۵۳۵ھ
علی بن عراق بن محمد خوارزمی ابو الحسن فقیہ مولف تفسیر خوارزمی
بن وفات پائی۔

خليفة الراشد باللہ

پیدائش | راشد باللہ ابو جعفر منصور بن مہر شہد ۵۰۵ھ میں پیدا ہوا۔
اس کے باپ نے ذی قعدہ ۵۲۹ھ میں اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا
باپ کے مرنے کے بعد تختِ خلافت پر بیٹھا۔

وقائع | خلافت آباء کے عہد کا واقعہ دبیس کا قتل ہے کیونکہ یہ امیر اس
قسم کا واقعہ ہوا تھا جس نے خلفاء اور سلاطین سلاجقہ کو بے حد پریشان
کر رکھا تھا۔ گو سلطان مسعود سے اور دبیس سے صلح و آشتی تھی مگر مسعود
باطنی طریق پر اس کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ چنانچہ موقع پاتے ہی دبیس کا
کام تمام کر دیا صدقہ بن دبیس اپنے باپ کے انتقام کے لیے اٹھا مگر مسعود
نے رام کر لیا۔

راشد اور سلطان مسعود | سر پر خلافت پر راشد کے ممکن ہونے کے بعد
پر نقشِ زکویٰ سلطان مسعود کے پاس سے

اس سے زر نقد کے وصول کرنے کو بغداد آیا جس کا اقرار اس کے باپ
خليفة مہر شہد نے کیا تھا اور جس کی تعداد چار لاکھ تھی۔ خليفة راشد نے جواب
دیا: پدر بزرگوار ایک حبہ خزانہ میں نہیں چھوڑ گئے جو کچھ مال و اسباب اور زر

نقد تھا وہ ان کے ہمراہ تھا وہ سب کا سب کٹ گیا۔
 برتقش یہ سن کے خاموش ہو رہا۔ لوگوں نے خلیفہ سے کہا۔ برتقش محل
 پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ خلیفہ یہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا۔ فوجیں فراہم کر لیں شہر
 پناہ کی مرمت کی گئی۔ موقع موقع سے وہیں اور وہیں بندھوا لے۔
 برتقش نے رنگ دیکھ کر معہ امرائے بلخ مجلسِ خلافت کے لوٹنے کو بھلا
 عوام اور لشکر خلیفہ نے مقابلہ کیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کار خلافت آب
 کے لشکر نے برتقش کی فوج کو میدانِ جنگ سے مار بھاگایا۔ برتقش نے ناکامی کے
 بعد خراسان کا رستہ لیا۔ امیر بک شحہ بغداد بھی چلتا ہوا۔ عوام اور لشکریوں نے
 سلطان کا مکان لوٹ لیا۔ ملک داؤد بن سلطان محمود معہ لشکر آذربائیجان کو
 ۵۳۰ھ میں آیا۔ مجلسِ سلطانی میں تقسیم ہوا۔ عماد الدین زنگی موصل سے
 برتقش بازدار والی قزوین، نفس بکیر والی اصفہان، صدقہ بن دبیس والی
 حلب، ابن برتق اور احمد بلی وغیر ہم بھی حضورِ می خلیفہ میں آ پہنچے۔ ملک داؤد
 نے برتقش بازدار کو بغداد کا شحہ بنایا۔ خلیفہ راشد نے ناصر الدولہ ابو عبد اللہ
 حسن بن جہیز استاد دار اور جمال الدین اقبال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔
 وزیر السلطنت جلال الدین ابو الرضا بن صدقہ کوزنگی کی سفارت
 سے خلافت آب نے پھر عہدہ وزارت پر سرفراز کیا۔
 قاضی القضاة قاضی القضاة زمینی بھی آ گیا تھا۔ مگر زنگی کے ساتھ
 موصل چلا گیا۔ سلطان مسعود نے پہلے راشد کی خوشام

کی۔ پھر بغداد پر حملہ کے ارادے سے پبل کھڑا ہوا۔ جن امرائے خلیفہ کا ساتھ دیا تھا وہ یہ رنگ دیکھ کر یکے بعد دیگرے کھٹکنے لگے۔ یہاں تک کہ عماد الدین زنگی والی موصل بھی جو امرامیں خلیفہ کا سب سے بڑا معاون تھا وہ بھی بغداد سے نکلنے لگا۔ راشد نے یہ امر کا رنگ دیکھا تو خود بھی عماد الدین زنگی کے ساتھ موصل چلے گئے۔

راشد کی معزولی | سلطان مسعود کے لیے میدان بالکل صاف تھا اس نے بغداد میں داخل ہو کر تمام فقہاء و قضات کو جمع کیا اور ان کے سامنے راشد کا وہ دستخطی عہد نامہ پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ میں اگر فوج جمع کروں یا بغاوت کروں یا سلطان مسعود کے کسی ساتھی کے ساتھ مقابلہ کروں تو میں خود بخود معزول ہو جاؤں گا۔

اس عہد نامہ کو پڑھنے کے بعد ابن الکرخی قاضی لبدہ نے تمام فقہاء و قضات کی تائید سے اس کی معزولی کا فیصلہ صادر کر دیا اور گیارہ ماہ اٹھارہ دن کے بعد راشد کے عہد خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ موصل کے قاضی کمال الدین محمد بن شہزوری راشد کی خلافت کے سلسلہ سے بغداد کے مقتضی نے ان کو گانٹھ لیا اس نے بھی ابن الکرخی کی تائید کی۔

راشد کا قتل | راشد کو اپنی علیحدگی خلافت کی خبر لگی تو وہ موصل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آذربائیجان کی طرف گیا فوج

کو بہت کچھ مال و دولت سے نوازا وہ کٹ مرنے کو تیار ہو گئی اور آذربائیجان کے اطراف میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ پھر ان کا رخ ہمدان کی طرف ہوا وہاں بھی یہی فساد مچایا۔ بہت سے باشندے قتل ہوئے اور سولی پر چڑھائے گئے۔ علماء کی تذلیل فوجیوں نے کی راشد نے اصفہان پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا اس اثنا میں راشد بیمار پڑا۔ ۹ ارمضان ۷۳۵ء کو اس کے عہد سہی غلاموں نے آگھیرا اور چھریوں سے چھید ڈالا۔ بغداد میں خبر پہنچی صفی نامت بچھی۔ شہرستان میں اصفہان کے باہر دفن کیا گیا۔

راشد فصیح، ادیب، شاعر، شجاع، عقیل، سخی، نیک سیرت اور عادل تھا۔ عماد کاتب کا بیان ہے کہ راشد حسن یوسفی اور سخا حاتمی رکھتا تھا۔

سلطان عماد الدین | ملک شاہ سلجوقی کا غلام آق سنقر سپہ سالار نامور تھا وہ برکیاروق کے زمانہ میں منس ارسلان کے مقابل حلب کے متصل مارا گیا۔ اس کے بیٹے عماد الدین کو برکیاروق نے مثل اولاد

۱۰ تاریخ الخلفاء ۲۳۱ء ابن خلدون جلد ۹ ص ۱۳۰ ۱۳۱ء تاریخ الخلفاء ۲۳۱ء
 ۱۱ عماد الدین نے موصل میں ۵۲۱ھ میں حکومت قائم کی۔ اس کے بعد سیف الدین غازی بن عماد پھر قطب الدین داؤد بن عماد الدین زنگی (۵۶۶ھ) سیف الدین غازی بن مودود (۵۸۹ھ) عزالدین مسعود بن مودود (۵۸۹ھ) نورالدین ارسلان شاہ بن مسعود (۶۱۶ھ) نصیر الدین بن محمود بن مسعود (۶۳۱ھ) بدرالدین لولو غلام (۶۵۰ھ) انصیل بن لولو (۶۶۰ھ) اس کے عہد میں تاناری اس پر قابض ہوئے۔ حلب کے حکمران نورالدین محمود بن عماد بقیہ اگلے صفحہ پر

اپنے پاس رکھا اور شاہانہ طور سے تعلیم و تربیت اس کو دلوائی۔ عماد الدین اپنے باپ سے زیادہ نامور اور صاحب عزت ہوا۔ سلطان محمود نے ۵۲۱ھ میں اس کو موصل کی دلائیت پر بھیجا۔ یہاں حکمرانی قائم کر کے حما کا قصد کیا۔ اور حمص پر قبضہ کر لیا۔ اس نے دمشق پر کئی بار فوج کشی کی مگر ناکام رہا۔

بقیہ ص ۱۳۱ (۵۴۱ھ) اسمعیل اس سے سلطان صلاح الدین نے حلب لے لیا۔
 بخارا کے حکمران :- قطب الدین مودود کا بیٹا سیف الدین موصل کا حکمران تھا اس کے بھائی عماد الدین بن قطب الدین مودود نے بخارا پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین ثانی (۶۱۶ھ) میں ہوا پھر عماد الدین شاہنشاہ (۶۱۶ھ) حکمران ہوا اس کے بعد عمر ۶۱۷ھ میں چچک سلطان صلاح الدین نے حکومت لے لی۔

جزیرہ میں عزیز الدین کے بھائی خنجر (۵۷۶ھ) نے حکمرانی قائم کی معز الدین محمود بن خنجر شاہ (۶۴۸ھ) مسعود بن محمود (۶۴۸ھ) یہ حکومت بنی ایوبی ممالک میں منسلک ہو گئی۔

عماد الدین کے تین بیٹے تھے۔ نور الدین، سیف الدین، قطب الدین۔ عماد الدین کے قتل کے وقت نور الدین محمود موجود نہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کی انگوٹھی لے لی اور حلب پر جا کر قابض ہو گیا۔ اس کے بھائی سیف الدین نے مشہور پر پہلے ہی سے قبضہ کر لیا تھا۔ باپ کے بعد اس نے موصل پر بھی قبضہ کر لیا ۵۴۱ھ میں وفات پائی۔ اس کا بھائی قطب الدین جانشین ہوا۔ نور الدین اور قطب الدین میں یہ طے ہو گیا کہ بلاد شام پر نور الدین کا اور جزیرہ پر قطب الدین کا اقتدار رہے۔

۵۳۳ء میں بعلبک پر قبضہ کیا۔ ۵۳۴ء میں اس نے شہر زور کو فتح کیا جس کا حاکم قحج بن الیہ اسلمان تھا۔ ۵۳۵ء میں ترکوں کے سب سے بڑے قلعہ اشب کو فتح کیا۔ ۵۳۷ء میں اس نے قلعہ جبر کا محاصرہ کیا جس کا حاکم علی بن مالک عقیلی تھا۔ انہار محاصرہ ہی میں ممالیک کی ایک جگت نے اس کو قتل کر دیا۔ ۶ سال کی عمر پائی۔

عماد الدین نے ہی نجم الدین ایوب جس کا سلسلہ نسب رادوی کرؤں سے ملتا ہے بعلبک کا عامل مقرر کیا۔ نجم الدین کا بھائی شیر کوہ وزیر مصر تھا اور نجم الدین کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ شیر کوہ کو نور الدین نے اپنی طرف سے حمص و رجبہ کا گورنر کیا تھا۔

ملک دائرۃ المعارف بتانی جلد ۱۱ ص ۴۴۰ و اعلام النبلاء تاریخ حلب الشہباز از ہاشم طباط

جلدی ۲۰ ص ۲۸۲

خلیفہ المقتدی لامر اللہ

پیدائش | المقتدی لامر اللہ ابو عبد اللہ محمد بن مستظہر بالتدریج الاول
۴۶۹ھ میں پیدا ہوا۔

تعلیم و تربیت | شاہی گھرانہ میں تعلیم پائی۔ دیگر علوم کی تحصیل کے بعد
مقتدی نے ابو البرکات ابن ابوالفرج بن کنی سے حدیث
سنی تھی اور کچھ ابو الفاسم بن بیان راہدستر شریک سے۔ اس سے ابو منصور
الحواصینی لغوی اور وزیر ابن ہبیرہ نے روایت کی۔

خلافت | راشد کی معزولی کے بعد سلطان مسعود دربار خلافت میں حاضر
ہوا اور یہ سلطنت شرف الدین زینبی اور صاحب مخزن ابن
عسقلان بھی آگئے تو ابو عبد اللہ محمد بن مستظہر بالتدریج کو محل سرکے شاہی
سے طلب کر کے سر ریخلافت پر متمکن کیا۔ سلطان مسعود اور جدید خلیفہ نے
مراسم اتحاد قائم رکھنے کی قسم کھائی۔ سلطان مسعود نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی
بعد ازاں اراکین دولت، ارباب مناصب فقہاء اور قضاة نے بیعت کی
۱۲ ذی الحجہ ۵۳۰ھ کا یہ واقعہ ہے۔ المقتدی لامر اللہ کے لقب سے لقب
کیا گیا۔

۱۵ تاریخ الخلفاء ص ۳۰۲

وزارت | عہدہ وزارت پر شرف الدین علی بن طراد زمینی کو ممتاز کیا اس کے بعد ابن ہبیرہ وزارت عظمیٰ کے عہدہ پر مقرر فرما دیا جو قریباً کا زور توڑنے میں اس وزیر اعظم کا بڑا دخل تھا۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ مجھے صرف وزیر کہا جائے کیونکہ خدا نے حضرت ہارون کو وزیر کے لقب سے خطاب کیا ہے اور آنحضرت صلعم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو وزیر کے خطاب سے یاد فرمایا تھا۔ لہذا اس لفظ سے مجھے یاد کیا جائے۔

بلند پایہ فاضل، زبردست سیاست داں تھا۔ اہل قلم اور شاعر تھا۔

قضاتہ | ابوالقاسم علی بن حسین کو موصل سے بلا کر قاضی القضاۃ کیا

نام سلطنت | سلطان سخر والی نراسان اور سلطان نور الدین والی شام ہر دو نائب سلطنت تھے۔

واقع | مقتضی عمان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی عدل و انصاف سے کام لینے لگا اور تمام ہوالغات کو دور کر کے پورے طور پر بغداد

پر قابض ہو گیا۔ سلطان مسعود نے یہ خبت باطنی کی کہ جہنہ سامان مجلس لائے خلافت سے معہ گھوڑے وغیرہ قبضہ میں لے کر اپنے مستقر کو چلتا ہوا۔ مگر سلطان

سخر اور سلطان مسعود کے مابین جنگیں ہونے لگیں۔ ان کے ساتھی اُمراء ان سے کٹ گئے۔ حکومت سلجوقیہ نرغہ میں پھنس گئی۔ خلیفہ نے موقع سے

فائدہ اٹھا کر اپنے اثر کو کام میں لایا جس سے خلافت کی حرمت بڑھ گئی اور دولت عباسیہ نے پھر نئے طور سے اقتدار حاصل کیا۔

لتاریخ الخلفاء ص ۵۰۵ مابین خلدون ج ۹ ص ۲۷۱ لکھ الفخری ص ۲۷۹

۵۴۳ء میں سلطان مسعود بغداد آیا اور ایک دارالضرب بنائی خلیفہ نے سکہ بنانے والے کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے حاجب کو قید کر لیا اس پر خلیفہ بگڑ گیا۔ مساجد تین دن تک بند رہیں۔ تمام رعایا سلطان سے بگاڑ بھٹی اس پر سلطان گھبرا گیا اور اس نے حاجب کو رہا کیا۔

۵۴۴ء میں فرنگیوں نے دمشق کا محاصرہ کیا نورالدین محمود زنگی والی حلب نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔

۵۴۶ء میں والی مصر الحافظ الدین الشکر گیا۔ ۵۴۷ء میں سلطان مسعود مر گیا تو با اتفاق لشکر ملک شاہ سلطان بنا، خاص بیگ نے اس پر خروج کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بھائی محمد کو خوزستان سے بلا بھیجا اور سلطنت سپرد کر دی۔ سلجوقیوں کی خانہ جنگی و خلافت آب کو آزادی کا موقعہ ہاتھ لگا۔ چنانچہ اب خلیفہ مطلق العنان حکمراں تھا

فتوحات متقاضی بہادر عالی دماغ اور سیاست مکی سے باخبر تھانوح بغداد میں کچھ افسروں نے سرکشی کی۔ خود خلیفہ لشکر لے کر ان کی سرکوبی کو پہنچ گیا اور حملہ اور کوفہ کو بزدل شہر فتح کر لیا اور بعد کامیابی بغداد آیا۔ اس دن بغداد میں بڑی خوشی منائی گئی۔

۵۴۸ء میں سلطان بخر غزو کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا اور اس کو

سائیس کے برابر تنخواہ ملا کرتی تھی۔

۵۴۸ء میں ہی خلیفہ نے تکریت کے محاصرہ کے لیے

ناکام لڑنے تو ۵۴۹ء میں خود خلیفہ تکریت پہنچا اور مسعود جلالی نے

ارسلان بن طغرل بن سلطان محمد کو ساتھ لے کر مقابلہ کیا خلیفہ کو فتح ہوئی۔

علاقہ مصر پر حملہ

غرضکہ مقتضی نے قرب و جوار کے تمام ممالک پر اپنا

اقتدار تصور سے عرصہ میں قائم کر لیا تو خلیفہ نے اپنی

طرف سے نورالدین بن محمود بن زنگی کو حکم دیا کہ فوراً خلفائے فاطمی کے

علاقہ شام و مصر پر جا کر قابض ہو جاؤ۔ نورالدین فرنگیوں سے برسریکار

معاہدہ کے متصل علاقے فتح کر لیے تھے۔ مگر خلیفہ کے حکم پر وہ معہ فوج

گراں کے علاقہ مصر پر پہنچا اور قبضہ کیا۔ جس سے بارگاہ خلافت سے

اس کو خطاب ملک العادل عطا ہوا۔ اس کے بعد سے دولت فاطمیہ

کی حکومت محدود ہو کر رہ گئی۔ اس واقعہ سے مقتضی کی شوکت اور بھی

بڑھ گئی۔ مخالفانہ فوجوں کو کھانے لگے۔

صلیبیوں نے پھر ہاتھ پیر نکالے بیت المقدس لے

صلیبیوں کا حملہ

حکے تھے۔ اب نگاہ دمشق پر تھی چنانچہ صلیبیوں نے

حملہ کر دیا۔ وہاں کا والی فخرالدین آبن تھا۔ اس کی فوج اور اس کے ساتھ

رضاکار جہاد کے ذوق و شوق میں شریک ہو کر نصرا نیوں کے مدافعت

لے تاریخ الخلفاء ص ۶۳۰۔ مجیرالدین آبن بن محمود بن بوری بن طغتمن تباہی کی دمشق

میں مقابل آئے۔ اس اثنا میں آبق کی اشدر عا پر سلیف الدین زنگی اور سلطان نور الدین زنگی فوجیں لیے ہوئے حمص پہنچے۔ فرنگی یہ رنگ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور محاصرہ اٹھا کر چلتے ہوئے ۵۴۹ء میں سلطان نور الدین نے دمشق پر خود قبضہ کر لیا۔ اور اپنے علاقہ میں اس کو بھی شامل کر لیا۔

سلطان ملک شاہ نوری و سلطان محمد آل سلجوق میں سے سلطان مسعود کے بعد اس کا بھائی محمد بن محمود تخت

نشین ہوا اس نے خلیفہ پر فوج کشی کی اور جا کر بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ امرائے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ادھر یہ خبر لگی ملک شاہ ایلدگز کی مدد سے ہمدان پر قابض ہو گیا۔ ناچار محاصرہ اٹھا کر چلتا بنا۔ ملک شاہ اس کی آمد کی خبر پا کر ہمدان سے نکل گیا۔ یہ اپنے مستقر اصفہان میں آیا۔ وہیں ۵۵۲ء میں انتقال کر گیا۔ سلطان محمد کی وفات کے بعد بعض امرائے اس کے بیٹے سلیمان شاہ کو سلطنت کے لیے ہلایا اور بعضوں نے ارسلان بن طغرل کو بڑے قضیوں کے بعد ایلدگز نے ارسلان کو جو اس کا لیب تھا تخت نشین کیا۔ چالیس سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا تھا ۲۴ سال

وفات مقتضی دو ماہ لخنہ کے ساتھ فرائض خدمت انجام دے کر

روز کیشنبہ ۲ ربیع الاول ۵۵۵ء میں انتقال کیا۔

اوصاف ابن معانی کا بیان ہے کہ مقتضی پسندیدہ سیرت اور حکومت میں کامیاب تھا۔ اس میں عقل و دانش علم و فضل تدبیر و

سیاست تمام باتیں جمع تھیں۔

مقتضی زاہد متورع تھا تخت خلافت پر شکن ہونے سے پہلے اس کا سارا وقت عبادت و ریاضت، تلاوت کلام پاک اور علمی مشاغل میں گزرتا تھا طبعاً پڑھ لکھنے کا ذوق۔ حلیم الطبع اور نیک سیرت تھا۔ اس کا دور عدل و انصاف اور نیکوں کے سرسبز و شاداب تھا۔

حافظ ذہبی کا بیان ہے

مقتضی سرتاج الخلفاء۔ عالم۔ ادیب۔ شجاع۔ حلیم، خوش خلق، خلافت کی تمام قابلیتیں اس میں تھیں۔ ایسا نادر شخص تھا حتیٰ کہ اس کی نظیر آئمہ مجتہدین میں بھی کم ملتی ہے اس کے عہد خلافت میں کوئی بات خلافت و امانت و امانت ظاہر نہیں ہوئی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔

یہ نیک سیرت مشکور الدولت خلیفہ تھا۔ دیندار عقیل۔ فاضل صاحب الرائے و سیاست اس نے معاملات امانت کو درست کیا اور رسوم خلافت کو قائم کیا۔ بغداد اور عراق پر اس کا کامل تسلط تھا احکام فرامین اپنے دستخط سے صادر کرتا تھا۔ ایک فوج مستقل تیار کی۔ آخر دم تک اس کی فوجوں کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا پڑا

سیاسی حالت | مقتضی جامع کمالات خلیفہ تھا۔ اس میں تدبیر و سیاست شجاعت شہامت، جرأت و حوصلہ مندی بہت تھی اس نے سلاطین

۱۔ تاریخ الخلفاء ۲۳۳ ص ۱۱ ص ۹۶ ۲۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۳۳

کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر خلافت بغداد کو ان کے اثر سے پاک و صاف کیا
 سلطان مسعود کو اس کی حد سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس کے کسی حکم کو بغداد میں
 چلنے نہ دیتا تھا۔ نفس نفیس مخالفین کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جاتا اور اس
 کو مغلوب کر لیتا۔ اپنے کھوئے ہوئے علاقہ بقوت واپس لے لیے عراق قبضہ
 میں آیا۔ خبر رسائی کا سلسلہ نئے سرے سے قائم کیا۔ بیدریغ روپیہ صرف
 کرتا۔ ملک کے ہر گوشہ سے منصور کی طرح اس کے مخبر خبریں بھیجا کرتے تھے
 مورخین نے خلیفہ مقتضی کے اتقا، جرأت و عظمت اور خلافت کے احیاء
 کے لیے جو کچھ لکھا ہے۔ الفخری میں اس کی تفصیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

مقتضی نہایت بلند مرتبہ خلیفہ تھا۔ اس نے عباسیہ کے دور عروج
 کی تجدید میں سعی و عمل کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ سلطان
 مسعود نے اسے تختِ خلافت پر شکر کرنے کے بعد خلافت کا
 تمام بیم و زور اور مال و اسباب سمیٹنے اور عراق کے تمام نظم و
 نسق کے تمام اختیارات اپنے ماتحتین کے تصرف میں دینے
 کے بعد خلیفہ مقتضی کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجا کہ دریافت
 کیا کہ آپ اور آپ کے متعلقین کے مصارف کے لیے کتنی
 رقم درکار ہوگی تاکہ میں جاگیر مقرر کر دوں۔ تو مقتضی نے
 جواب میں لکھا۔

میرے اور میرے متعلقین کے روزانہ پینے کے لیے اسی پتھر

وجہ سے پانی لا کر لاتے ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے
کہ مصارف کے لیے کیا درکار ہوگا۔

مسعود نے یہ جواب سن کر کہا۔

خدا خیر کرے بڑے بے ڈھب آدمی کامیں لے انتخاب کیجئے

علمی ترقی | مقتضی نے اپنے قلمرو میں وہی تعلیم کی اشاعت کا خاص سہم
کیا۔ خود سخی، کریم حدیث شریف کا عاشق اور خود عالم اور
علماء کا قدرداں تھا۔ اس کے عہد میں بہت کچھ شورشیں اٹھیں مگر وہ گئیں
بغداد اس کے عہد میں علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا بڑے بڑے اکابر علما
بغداد میں اپنی درس گاہیں قائم کیے ہوئے تھے اس کے زمانہ میں بن الابرش
نحوی۔ یونس بن مینیت، جمال الاسلام بن سلم الشافعی۔ ابوالقاسم الانصہانی
صاحب المیزغیب۔ ابن بربجان مازری المالکی صاحب المعلم۔ اشاطی صاحب
الانساب۔ جو الیقینی امام حنفیہ ابن عطیہ صاحب تفسیر۔ ابوالسعادات بن
شجرمی۔ امام ابو بکر بن عربی۔ ناصح الدین الارجانی شاعر۔ قاضی عیاض
حافظ ابوالولید بن الدباغ۔ ابوالاسعد سبتہ الرحمن القشیری۔ ابن علام
المفسر المقرمی۔ رفاہ شاعر۔ قیسرانی شاعر۔ محمد بن یحییٰ شاگرد امام غزالی
ابوالفضل بن ناصر۔ ابوالکرم الشہر روزی المقرمی، ابودشاعر علیہ السلام ہمامی
کے مشہور علمائے تھے۔

محدث | حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغیبانی فقیہ محدث شاگرد برہان الدین کبیر

۵۷۲ء میں انتقال کیا۔

محمد بن عثمان بن محمد علیا باوی سمرقندی لقب حسام الدین تھا عالم فاضل
شاگرد محمد محمود اشروشی و استاد شیخ عبدالرحیم بن عطاء الدین صاحب فصول عمادیہ
ہیں آپ نے فتویٰ کامل اور تفسیر مطلع المعانی وغیرہ تصنیف کی ہیں۔

ابو الفتح محمد بن احمد بن محمد بن معادیہ الازجاسی خطیب امام جامع ازجاہ
کان فیہا صابحا عقیفا کثیراً

حدیث اور فقہ مروی ہیں ابن الفتح الموفق بن عبدالکریم اہروی اور ابوالفرج
عبدالرحمن بن احمد الرازی السرخسی سے حاصل کی ۵۴۳ھ میں وفات پائی۔

دولت ارتقیہ | ملک شاہ کا غلام ارتق ترکمانی تھا یہ تہور اور شجاعت میں
نامور تھا ترقی کرتے کرتے فوج کا سپہ سالار ہو گیا اس کا

برکاکامعین الدین سقمان شجاعت اور مردانگی میں اپنے باپ سے بھی فائق تھا
اس نے سلطان برکیاروق کے عہد ۵۴۹ھ میں قلعہ کیفا پر ایک جماعت کو

بمراہ لے کر جملہ بول دیا۔ یہاں کا حاکم موسیٰ ترکمانی تھا اس نے جان توڑ
کے مقابلہ کیا۔ مگر سقمان کی قوت کے آگے اس کی ایک نہ چلی جان بچا کے

بھاگا۔ سقمان نے قلعہ کیفا پر قبضہ کیا اور حکمرانی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ علاقہ
اردین پر بھی ہاتھ صاف کیا جس سے اس کے حدود حکمرانی وسیع ہو گئے ۵۴۳ھ

میں اس حکومت کے دو حصہ ہو گئے۔ ایک کا مرکز قلعہ کیفا تھا دوسرے کا
ناروین۔ امرائے حصہ کیفا۔ مغین الدولہ سقمانی ۵۴۵ تا ۵۴۹ (۱۱۵۰) ابراہیم بن

سقمان، رکن الدین داؤد بن سقمان۔ قمر الدین قرہ ارسلان بن داؤد،

۵۴۵ مجسم البلدان ج ۱ ص ۲۱۵

نور الدین محمد بن ارسلان، قطب الدین سقمان بن محمد، ناصر الدین محمود بن محمد
 رکن الدین مودود بن محمد ^{۱۱۸۵ھ} میں ایویوں نے اس سے حکومت چھین لی
 . ماردین کے امرا۔ نجم الدین غازی بن ارتق (۵۰۲ھ) حسام الدین تیمور
 تاش بن غازی۔ نجم الدین ابھی بن تیمور تاش، قطب الدین غازی بن
 حسام الدین بولق ارسلان غازی۔ ناصر الدین ارتق بن ارسلان غازی
 نجم الدین غازی بن ارتق ارسلان، قرہ ارسلان بن غازی، شمس الدین
 بن داؤد بن قرہ، نجم الدین بن قرہ، شمس الدین صالح بن نجم الدین غازی
 منصور احمد بن صالح۔ صالح محمود بن احمد، مظفر داؤد بن صالح۔ طاہر عبدالید
 عیسیٰ بن داؤد، صالح بن داؤد سے ^{۱۱۸۵ھ} میں ان سے آل عثمان نے حکومت
 اپنے ہاتھ میں لے لی۔

انابکیہ دمشق | تنش الپ ارسلان سلجوقی کا غلام ظہیر الدین طففتگیں تھا شام
 کے قبضہ پر یہ شریک جنگ رہا اور بڑے کارہائے نمایاں
 دکھائے۔ اس پر سیف الاسلام کا خطاب تنش نے اس کو دیا اور اپنے بیٹے
 دقاق سلجوقی کا اتالیق مقرر کیا۔ دقاق باپ کا جانشین ہوا تو سیف الدین
 نے اس کی بے حد خدمت کی جب وہ مراٹھاؤں کے چھوٹے رٹ کے کو تخت
 نشین کیا۔ مگر تنش کا بڑا لڑکا بکتاش مقابلہ کے لیے آیا اور اس کے ساتھ اس
 نے بیت المقدس کے نصرانیوں سے مدد لی مگر ناکام واپس گیا۔ دقاق
 کے بعد طففتگی نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ سیف الاسلام (۵۲۲ھ) تاج
 الملوک سورمی۔ شمس الملوک اسعیل، شہاب الدین محمود۔ جمال الدین

مخیر الدین ابوقاسم سے زنگیوں نے یہ حکمرانی چھین لی صرف سیف الدولہ کے خاندان میں ۵۲ برس حکمرانی رہی۔

آنا بکیہ ار بل عماد الدین زنگی کے غلام زین الدین علی کو چک جو پچھ سالہ

تھا اس نے سجارہ حراں۔ قلعه عفر حمید یہ نیز قلعات سے ہر کاریہ تکریت اور شہر زور وغیرہ سب اس کے قبضہ میں آئے۔ مگر اس نے اپنے آقا کے بیٹے قطب الدین مودود کے سپرد کر دیا۔ صرف ار بل اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد زین العابدین ابو المنظر جانشین ہوا۔ اس کا بڑا بھائی مجاہد الدین قائم از سیف الدین والی موصل سے امداد کا طالب ہوا اس نے حراں عطا کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین کے پاس آیا۔ اس نے رہا جاگیر میں دیا اور اپنی بہن کی شادی کر دی۔ صلیبی جنگوں میں سلطان کے ساتھ ۶۳ھ میں ار بل میں وفات پائی۔

آنا بکیہ آذربائیجان سلطان محمود سلجوقی کے وزیر اعظم کمال سمیدی کا ایک

غلام ایلدکرنامی تھا۔ جس کو سلطان مسعود نے آرمینیا کا والی مقرر کیا تھا۔ اس نے آذربائیجان پر قبضہ کیا اور پچاس ہزار فوج کا سردار بن کر کران اور تفریس تک قبضہ و تصرف کیا (۵۳۱ھ سے ۵۲۲ھ) تک اس کے خاندان میں حکومت رہی۔ شمس الدین ایلدکرنامی (۵۳۱-۵۶۱ھ) محمد پہلو ان جہاں ابن شمس الدین (۵۸۱ھ) قزل ارسلان عثمان بن شمس الدین (۵۸۶ھ) ابو بکر بن محمد (۶۰۷ھ) منظر الدین ادبک بن محمد (۶۲۲ھ) آخر میں یہ دولت شاہان خوارزم کے مقبوضات میں شامل ہو گئی۔

اتابکیہ فارس | سلفہ مشہور سپہ سالار افواج سلاطین سلاجقہ کے پوتے
سنفر نے یہ حکومت قائم کی ۵۴۳ھ سے ۶۸۶ھ تک
اس خاندان میں حکومت رہی۔ تاتاریوں کے ہاتھ یہ حکومت ختم ہوئی
نواب شاہ ہوئے جس میں مشہور زنگی بن سنفر، سعد بن زنگی، ابوبکر بن سعد بن
عہد میں شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی تھے۔ محمد بن شاہ بن محمد سلجوق شاہ
بن سنفر۔ آخری بادشاہ ابیش بن سعد تھا۔

اتابکیہ لورستان۔ (ہزار اسپہ) اتابکیہ فارس کی شاخ ہے۔ سنفر کے
فوجی افسر ابوطاہر نے یہ حکومت قائم کی یہ ۵۴۳ھ سے ۸۲۷ھ تک ہی
پہلا بادشاہ ابوطاہر بن محمد تھا۔ آخری بادشاہ نغیاث الدین تھا
امیر سقمان قطبی نے جو قطب الدین اسماعیل سلجوقی کا غلام
شاہان ارمن | تھا شہر غلاط میں حکمرانی قائم کی ۴۹۳ھ سے ۶۰۴ھ
تک امیر سقمان کی اولاد میں حکمرانی رہی۔ آخری حکمران عزالدین یلیاں تھا
اس حکومت کے وارث سلاطین ایوبی ہوئے۔

دولت غوریہ | ہرات اور غزنی کے درمیان کا علاقہ غوریہ کہلاتا ہے ۵۴۳ھ
پس آل سام یہاں آئے۔ ان کے سردار قطب الدین
محمد بن حسین غور نے اس علاقہ پر مالکانہ قبضہ کیا۔ قطب الدین نے اس طرف
اپنا اقتدار جما کر بہرام شاہ مسعود بن ابراہیم والی غزنی سے رشتہ قائم کیا مگر
بہرام شاہ اس کی عظمت سے گھبرا گیا اور اس کو قتل کرادیا۔
آل سام نے اس کے بھائی سیف الدین کو اپنا سردار منتخب کر لیا اور

قصاس میں بہرام شاہ پر چڑھائی کر دی۔ تاب مقابلہ نہ لاکر بہرام ہندوستان چلتا ہوا۔ سیف الدین نے میدان خالی پا کر غزنی پر قبضہ و تصرف کیا بہرام ہندوستان سے ایک لشکر کثیر کے ساتھ غزنی پوٹا اور سیف الدین کو معرکہ میں گرفتار کر کے سولی دے دی اور پھر غزنی پر حکمرانی کرنے لگا۔

قبیۂ غور نے علامہ الدین حسین کو اپنا سردار بنایا اور اس کا لقب جہاں سوز رکھا۔ ۵۵۵ھ میں اُس نے غزین پر چڑھائی کر دی اور بہرام شاہ کو بے دخل کر کے اپنے بہائی سیف الدین محمد کو والی غزین کا مقرر کیا۔ علامہ الدین کا ۵۵۶ھ میں انتقال ہوا۔ تو اُس کا بھائی غیاث الدین محمد بن بہرام الدین، سام بن حسن غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ غیاث الدین کا بھائی شہاب الدین غوری تھا۔ اس نے غزین سے لے کر ہندوستان تک اُل سکتگین کے تمام مقبوضات پر تسلط کر لیا۔ شہاب الدین کے ہاتھوں ۲۱۳ سال کے بعد ۵۸۲ھ میں غور نوںی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

شہاب الدین نے بہار راجہ پر کھتی رائے کو شکست دے کر دہلی کو فتح کیا اور ۵۸۶ھ میں تخت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے بعد اپنے غلام قطب ایبک کو اپنا جانشین کر کے غور واپس ہوا۔ راہ میں انتقال کر گیا۔

قطب الدین ایبک کے خاندان میں دہلی کی سلطنت ۶۰۲ھ سے ۶۸۹ھ تک رہی۔ شمس الدین التمش۔ ناصر الدین محمود جلیل القدر شاہانِ دہلی تھے۔ معز الدین کی قیاد پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

خلیفہ مستنجد باللہ

نام و نسب | ابوالمنظف مستنجد باللہ بن مقتضی طاؤس نامی ام ولد کے لطن سے شاہہ میں پیدا ہوا۔

تعلیم و تربیت | شاپانہ طور طریق سے تعلیم و تربیت ہوئی۔ علمی فضیلت حاصل کی۔ ادب میں یدِ طولی تھا۔ علم ہیبت سے ولی لگاؤ تھا۔

خلافت | مقتضی لامر اللہ کی وفات کے دن ۲ ربیع الاول ۵۵۵ھ کو سریراً رائے خلافت ہوا۔

مستنجد نے بیعت خلافت لینے کے لیے دربار عام منعقد کیا اور اولاً خاندان کے ممبروں نے بیعت کی۔ سب سے پہلے اس کے چچا ابو طالب نے بیعت کی۔ بعد ازاں وزیر سلطنت عون الدین بن ہبیرہ اور قاضی القضاۃ نے بیعت کی۔ بعد ازاں کین دولت اور علماء نے بیعت کرنے کی غرض سے پیش کئے گئے۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

وزارت | عون الدین ابن ہبیرہ کو بدستور عہدہ وزارت پر سرفراز رکھا۔ اگر نزان صوبحات اپنے اپنے صوبہ پر بحال رکھے گئے۔

معافی ٹیکس | تخت نشینی کی خوشی میں ٹیکس اور محصول معاف کیا گیا۔

رئیس الروسار اور استاد دار کو خلعیں عنایت ہوئیں۔

قاضی القضاة | ابوالحسن علی بن احمد دامغانی قاضی القضاة کو معزول کر کے ابو جعفر عبدالواحد ثقفی کو عہدہ قضا پر مامور کیا۔

زامم حکومت | علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

خلیفہ مستنجد خلفائے بنی عباس کا پہلا خلیفہ ہے جس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ زمام حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی۔ شیرازہ حکومت و خلافت مابین موصل، واسط، بصرہ، حلوان میں منتشر ہو گیا تھا اور حکمرانی کی مشین کے پرے ڈھیلے ہو گئے تھے۔ ان پر اپنی حق تدبیر سے غلبہ حاصل کیا اور آزادانہ خلافت کے فرائض انجام دینے لگا۔

واقع | ۵۵۲ھ میں سلطان سخر بن ملک شاہ بن الپ ارسلان نے ۳۷ سال کی عمر میں وفات پائی۔ ۵۵۶ھ میں ترکمانوں نے سر اٹھایا۔ خلافت مآب نے امیر ترشاک کو بلا و نجف سے طلب کیا۔ اس نے عدم حاضری کی معافی چاہی۔ خلیفہ نے فوج بھیج کر اس کا سراٹھوایا۔ ۵۵۶ھ میں خلافت مآب نے قلعہ ماہلی کو سنقر بہدانی کے مہلوک کے قبضہ سے نکال لیا۔

عربوں کی سرکشی | ۵۵۶ھ میں خفاجہ حلقہ، اور کوفہ میں عرب بغاوت کر بیٹھے وزیر سلطنت نے خود جا کر انکی سرکوبی کر دی۔

ابن خلدون جلد ۹ ص ۱۵۵؛ ابن خلدون جلد ۹ ص ۵۴

پھر انہوں نے معذرت نامہ لکھ کر دربار خلافت میں روانہ کیا۔ خلافت مآب نے منظور فرمایا اور ان کے قصور معاف کیے۔

بنی اسد ساکنان حملہ اکثر شورش کیا کرتے اور انہوں نے سلطان محمد کا ساتھ بھی دیا تھا چنانچہ خلیفہ نے ۵۵۸ھ میں امیر یزدان بن قماح کو ان کی جلا وطنی اور سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس نے جا کر ان کو عراق سے مارکوٹ کے بھگا دیا اور حملہ اور کل بلاد اسد بن معروف کو دیدے گئے۔

بصرہ امیر منکبرس کی جاگیر میں تھا جو خلیفہ کا آزاد واسط میں بغاوت کردہ غلام تھا۔ ۵۵۹ھ میں وہ قتل ہوا کشتکین

مامور کیا گیا۔ ابن سزکا برادر زادہ شامہ والی خراسان نے بصرہ پر چڑھائی کر دی اور کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے واسط کی طرف رخ کیا مگر خطاویں سے مقابلہ ہوا۔ اور خطاویں ہار گیا جو ۵۶۱ھ میں قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے ابن سزکا کی ہمت پست ہو گئی۔ اپنے مستقر کو لوٹ گیا۔

۵۶۲ھ میں شامہ والی خوزستان نے بقصد عراق کوچ کیا۔ سفر و قیام کرتا ہوا قلعہ ماہلی تک پہنچا۔ خلافت مآب سے صوبہ جات اسلامیہ کی گورنری کی درخواست کی جو نامنظور کی گئی تو اپنے ناک لوٹ آیا۔ خلیفہ کی ہیبت طاری تھی آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ کر سکا۔

وزارت پر نیا تقرر | جمادی الاول ۵۶۰ھ میں ابن ہبیرہ نے انتقال کیا۔ اس کا نائب وزیر کام کرتا رہا۔ ۵۶۳ھ میں

شرف الدین ابو جعفر احمد بن محمد سعید معروف بہ ابن بلدی ناظر واسط کو قلمدان وزارت سپرد فرمایا اور حکم دیا کہ عضد الدین ابو الفرج بن دبیس رئیس الروما امور سلطنت میں حد سے زیادہ دخل اور پیش پیش ہے۔ اُن کی اور اُن کے آوردوں کی دیکھ بھال رکھی جائے۔ اور اگر اپنی حرکت سے باز نہ آوے تو کل اختیارات سلب کئے جائیں وزیر نے حکم پر عمل کیا جس سے تمام عمال کے کان کھڑے ہو گئے۔ دیانت سے کام انجام دینے لگے بد نظمی، اور خود سزای جاتی رہی۔

واقعا سلطان نور الدین | سلطان نور الدین کو مقتضی کے زمانہ سے مصر لینے کی تمنا تھی چنانچہ ۵۶۲ھ میں شاہ

وزیر عاصد کی استدعا پر امیر اسد الدین شیر کوہ کو دو ہزار سوار ہمراہ کر کے مصر کی طرف روانہ کیا۔ شیر کوہ جزیرہ میں اُتر آیا پھر مصر کا دو ماہ محاصرہ رکھا والی مصر بنو فاطمی نے فرنگیوں سے امداد طلب کی وہ خود ہی مصر لینے کے درپے تھے چنانچہ عاصد الدین اللہ کی معاونت کے لیے دیماط سے فرنگی آئے۔ مگر امیر اسد الدین نے صعید کا رخ کیا اور وہاں مصر لوں کے مقابلہ کیا۔ دشمن پر فتح پائی۔ ہزاروں فرنگی مارے گئے۔ امیر اسد الدین نے صعید پر قبضہ کر کے اہل شہر کا خراج معاف کر دیا۔

فرنگیوں نے اسکندریہ کا قصد کیا۔ اس پر امیر اسد الدین کا برادر

شاہ شاور وزیر عاصد معزول کر دیا گیا تھا۔ مصر سے نور الدین کے پاس آیا اور کہا پھر محکمہ وزارت دلوادو تو میں تیسرا حصہ مصر کا دینے کو تیار ہوں۔

زادہ امیر صلاح الدین یوسف بن ایوب قابض ہو چکا تھا۔ فرنگیوں نے چار ماہ
 برابر اسکندریہ کو محصور رکھا۔ آخر امیر اسد الدین اس طرف بڑھا۔ فرنگیوں کے
 مقابلہ ہوا وہ شکست کھا کر راہ فرار پر مجبور ہوئے یہاں سے فراغت پا کر
 امیر اسد الدین شام لوٹ آیا۔ ۶۵۴ھ میں فرنگیوں نے ایک فوج گراں
 لے کر جن میں ہزار ہا ممالک مغرب کے صلیبی جنگجو تھے۔ دیار مصر پر حملہ کیا اور
 ابلیس پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد قاہرہ کو محصور کر لیا۔ شاہ وزیر مصر
 نے صلیبیوں کے خون سے خود قتل میں آگ لگا دی اور مجبوری درجہ
 عاصد خلیفہ فاطمی نے سلطان لورالدین سے استدعا کی کہ وہ معاونت کے
 اسد الدین اپنی فوجیں لے کر پہنچ گیا۔ فرنگیوں کو اس کی آمد کی خبر لگی
 بھاگ گئے۔ وزیر شاہ نے جو وعدے اسد الدین سے کئے تھے اس سے
 منحرف ہو گیا تو عاصد نے اس کو قتل کرادیا۔ عاصد الدین اللہ نے
 اسد الدین کو وزارت پر سرفراز کیا اور خلعت عطا کیا۔ اسد الدین شیر کوہ
 مرتے وقت ۶۵۶ھ تک وزیر مصر رہا۔ اس کے بعد عاصد الدین اللہ نے
 اس کے برادر زادہ صلاح الدین یوسف کو وزارت کے عہدہ پر سرفراز
 کیا اور نائک ناصر کا خطاب عطا کیا۔ صلاح الدین اس کے آخر وقت تک
 وزارت کے عہدہ پر قائم رہا۔ صلاح الدین کے حسن اخلاق اور خوبی
 انتظام نے مصریوں کو بالکل گرویدہ بنا لیا تھا۔

وقایع مستنجد رئیس الروسا کا ہمنوا قطب الدین قائم از مظفری تھا

عضد الدین کو خلیفہ سے کچھ مخالفت سی ہو گئی۔ اتفاقاً ۵۶۶ھ میں خلافت
 مآب بیمار پڑے۔ رفتہ رفتہ مرض میں اشتداد پیدا ہوا۔ عضد الدین اور
 قطب الدین خلافت مآب کی بیدار مغزی سے تنگ آ گئے تھے شاہی
 طبیب سے ساز باز کر لی۔ اُس نے ان لوگوں کی سازش سے خلافت
 مآب کی موت کی یہ تدبیر نکالی کہ خلافت مآب کو حمام میں داخل کر کے
 دروازہ بند کر دیا۔ خلیفہ کا دم گھٹ گیا۔ محوڑی دیر میں جان بحق تسلیم
 ہوئے یہ واقعہ ۹ ربیع الآخر ۵۶۶ھ کا ہے۔

حسن وقت خلیفہ کی موت کی ہولناک خبر مشہور ہوئی وزیر السلطنت
 امرا لشکر کل فوجیں مسلح کر کے محسراے خلافت کے دروازے پر جمع
 ہو گئیں۔ عضد الدین نے یہ رنگ دیکھ کر بلند آواز سے کہا امیر المؤمنین کو
 غش آ گیا تھا اب افانہ ہے اور خلیفہ کے بیٹے ابو محمد حسن کو بلا کر بیعت
 خلافت کر لی۔ مستنجد نے دس سال خلافت کی ۵۶ برس کی عمر پائی۔

مستنجد، مقتضی سے کھی زیادہ عادل اور فیاض تھا اور مسندوں
 اوصاف اور فتنہ پردازوں کے لیے نہایت سخت۔ ایک بار کسی باغی
 کو گرفتار کیا۔ ایک امیر نے اس کی سفارش کی اور دس درہم اس کی طرف
 سے بطور جرمانہ کے پیش کئے۔ مستنجد نے کہا۔ میں تم کو دس ہزار درہم دیتا
 ہوں کہ اس قسم کا کوئی دوسرا مسند پکڑ لاؤ۔ تاکہ میں اُس کو قید کروں
 اور لوگ اُس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔

لے ابن اثیر ج ۱۱ ص ۱۳۵ لے ابن خلدون ج ۹ ص ۱۶۱ لے تاریخ الخلفاء ص ۲۲۲

ابن جوزی کا بیان ہے کہ
 مستنجد رائے صائب رکھتا تھا۔ ذکا غالب اور فصیلت باہر
 رکھتا تھا۔ نظم بدیع اور نثر بیخ لکھتا تھا۔ علم ہیئت میں تنگاہ
 کامل تھی۔ اسطرلاب کا استعمال بہت صحیح کرتا تھا۔

علمی ترقی | مستنجد نے اکابر علماء کو اپنے دربار میں جگہ دی نظام الملک
 کے مدرسہ کو ترقی دی۔ اس مدرسہ کے صدر المدرس حضرت
 عبدالقادر سہروردی تھے۔ مستنجد نے دس سال حکمرانی کی اس کے عہد میں
 اکابر صوفیہ کا بغداد میں قیام تھا۔ ان کے علمی فیض سے ان دلوں بغداد
 فضل و کمال کا مرکز بن گیا تھا۔ خانقاہیں تشنگان علم سے بھری ہوئی
 تھیں اس کے زمانہ میں اشاعت اسلام خوب ہوئی۔

ہمعصر علماء | ویلی صاحب مسند الفردوس۔ عمرانی صاحب البیان ابن بزر
 شافعی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ امام ابو سعید سمعانی
 ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی۔ ابوالحسن بن ہزبل المقرئ۔ ان جلیل القدر
 علماء و صوفیائے مستنجد کے عہد میں وصال فرمایا۔

خلیفہ مستنصری بامر اللہ

نام و لقب | ابو محمد حسن بن مستنجد بامر اللہ ابن کنیز مسماة غنصہ کے بطن سے ۵۳۶ھ میں پیدا ہوا۔

خلافت | مستنجد کے انتقال کے بعد جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے کہ اسے عضد الدین و قطب الدین نے اپنی وزارت اور اپنے ٹکے کے لیے استاد وار اور قطب الدین کے لیے سپہ سالاری کا عہدہ سنبھال کر ابو محمد حسن کو تختِ خلافت پر بٹھایا۔ المستنصری بامر اللہ کے لقب سے ملقب کیا۔ بعد ازاں خاندانِ خلافت سے بیعت خاصہ لی گئی۔ اگلے دن بارِ عام میں بیعت عامہ ہوئی۔

وزارت | قلمدانِ وزارت عضد الدین کے سپرد ہوا۔ اس کا بیٹا کمال الدین استاد وار مقرر ہوا۔

امیر العسکر | اور عساکرِ اسلامیہ کی سرداری قطب الدین قائم کو دی گئی۔

وزیر خزانہ | ابو بکر بن نصر بن عطار کو وزیر خزانہ مقرر کیا اور اس کو خطابِ ظہیر الدین عطا فرمایا۔

۱۶۲

۱۶۲ تا تاریخ الخلفاء ص ۲۳۵ تک ابن خلدون ج ۹ ص ۱۶۲

عتاب شاہی - وزیر سلطنت قدیم ابو جعفر جو خود سر تھا۔ اس کو بلا کر قتل کر دیا اور قاضی ابن مزاحم کو گرفتار کر کے جیل خانہ بھیج دیا یہ بڑا ظالم خود سر اور غاصب تھا۔ اس واقعہ سے تمام عمال کی آنکھیں کھل گئیں۔ تمام عراق پر کامل سکون ہو گیا مٹھوڑے عرصہ میں تمام قلمرو میں خوشحالی کے اثرات بھلنے لگے۔ باشندے امن و امان سے زندگی کے دن گزارنے لگے اہل بغداد کو زمانہ وراز کے بعد امن و چین نصیب ہوا۔

ابن جوزی کا بیان ہے کہ

مستغنی نے تختِ خلافت پر بیٹھتے ہی منادی کرادی کہ کج سے تمام ٹیکس معاف کیے گئے۔ پھر درمظالم کی طرف توجہ کی اور ایسا عدل و کرم پھیلا یا جس کی مثال کم ملتی ہے ہاشمیوں اور خلویوں کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ علماء و مدارس کو پیش قرار و وظائف عطا کئے سر میں بنوائیں۔

سناوت - مستغنی کی طبیعت میں فطری طور سے سناوت تھی وہ ہمیشہ ہر شخص پر احسان کرتا۔ حتیٰ کہ اربابِ دولت و اراکین سلطنت کو بھی انعام عطا کئے۔ چنانچہ مخزن وزری کا بیان ہے کہ ایک ہزار تین سو تبا ابریشمی لوگوں کو عطا کیں۔

جب اس کے نام کا خطبہ بغداد کے ممبروں پر پڑھا گیا تو حسب رسم قدیم دینار تصدق کئے گئے۔

۱۵ ابن خلدون ج ۹ ص ۲۶۱ سے تاریخ الخلفاء صفحہ ۳۰۸

قاضی | روم بن حدیثی کو قاضی کے عہدہ پر مقرر کیا۔ ستر غلام قاضی صاحب
کو عطا کیے کہ محکمہ قضاہ تک آنے کے لیے جلو میں رہیں اور اڑلی

کا کام دیں۔ ابن جوزی نے لکھا ہے مستضیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ وہ حجاب
میں رہے اس کے پاس سوائے خدام کے کوئی جا نہیں سکتا تھا جب کہیں
تشریف لے جاتا تو خدم و حشم ساتھ ہوتا۔ لوگ اس کی زیارت کے مشتاق رہا کرتے

وقائع مصر | مصر میں امیر صلاح الدین یوسف نے جامع مسجد مصر عبادو
ازہار کے واسطے کھول دی ورنہ عہد بنو فاطمی میں بند پڑی

تھی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مستضیٰ بامر اللہ کے نام کا خطبہ مصر کی جامع
مسجد میں پڑھوایا اور سلطان نور الدین کو اس کی اطلاع کی سلطان نے ثواب
الدین المنظر بن العلامہ شرف الدین کو یہ خوشخبری لے کر خلیفہ کے پاس
بھیجا اور عباد و کاتب کو حکم دیا کہ ایک تمہنیت نامہ لکھو کہ تمام مالک اسلام
میں پڑھا جائے

کاتب کا بیان ہے کہ میں نے اس تمہنیت نامہ کو اس طرح شروع کیا۔

”خدا واحد حق کے بلند کرنے والے اور باطل کو نابود کرنے

والے کا احسان ہے۔ اور آگے بڑھ کر لکھا کہ ان شہروں

میں کوئی منبر ایسا نہیں رہا جس پر مولانا امام مستضیٰ بامر اللہ

امیر المؤمنین کا خطبہ نہ پڑھایا گیا ہو۔“

جب یہ تمہنیت نامہ خلافت آب کے حضور میں پیش کیا گیا تو خلیفہ معظم

نے سلطان نور الدین کو خلعت و تشریفات۔ امیر صلاح الدین یوسف کو

علم حبشیہ اور حکومت کا فرمان اور خطیبوں کو انعام اور عطا دکان کا ایک سو دینار
اور خلعت عطا فرمایا۔

میرا بھی ملو

بغداد میں اس خبر سے خوشی کی عام لہر دوڑ گئی۔ بازار سجائے گئے
چراغاں اور چراغاں کیا گیا۔

سند حکومت اور الدین محمود نے دربار خلافت میں قاضی کمال الدین ابوالفضل
محمد بن عبدالقادر شہزوری کو بھیجا اور خلیفہ سے یہ استدعا کی
کہ مصر، شام، جزیرہ موصل جو اس کے قبضہ و تصرف میں تھے اور دیار بکر
علاطہ، بلا و روم، قلیج، ارسلان جو اس کے مطیع تھے ان کی سند حکومت عطا ہو
اور داب ہاروں اور بلا و سواد عراق کو بطور جاگیر طلب کیا جیسا کہ اس کے
باپ کو شاہی عطیہ تھا۔ خلافت آب نے سلطان نور الدین کے سفیر کو مہکلائی
سے عزت بخشی اور بطیب خاطر نور الدین کی درخواستیں منظور کر کے شرف
اندوز ہوئے۔

دولت فاطمیہ کا خاتمہ مستضیٰ کے عہد میں بڑا عادیہ دولت فاطمیہ
کا خاتمہ ہے۔ آخری فاطمی خلیفہ خاضد باللہ
دولت ایوبیہ کا ظہور کے سارے نظم و نسق کی باگ امیر صلاح الدین
کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ خاضد بالکل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ اس نے شہر
میں انتقال کیا، ۲۲ سال کی باعظمت سلطنت کا اس کے دم کے ساتھ خاتمہ
ہو گیا اور دولت ایوبیہ کی بنا قائم ہوئی۔ مصر کے حملہ انتظام کے بعد اس کو

لے تاریخ الخلفاء، ۲۱۴، ابن خلدون ج ۵ ص ۲۶۴-۲۶۵

محدثہ یہ دامن گیر ہوا کہ سلطان نور الدین مصر سے شاید مجھے بتا دے چنانچہ
 یمن پر اس کی نگاہ گئی۔ اپنے بھائی توران شاہ کو فوج کے ساتھ حین کی طرف
 روانہ کیا۔ لیکن یہ سرزمین پسند نہ آئی۔ اس لیے یمن کی طرف رخ کر دیا اور
 اس کو بقوت زیرنگیں کر لیا۔ وہاں ماویٰ اقتدار تو صلاح الدین کا قائم
 ہو گیا۔ لیکن مستضیٰ اور نور الدین کی حکمرانی کے اثرات غالب تھے۔

واقعات ۵۶۹ھ میں نور الدین محمود زنگی بچرہ ۵ سال فوت ہوا۔ اس کا
 بیٹا اسمعیل ملک صناع الاستال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ شام
 کے لوگوں نے اور صلاح الدین نے تخت نشینی کو قبول کیا۔ مگر سیف الدین زنگی
 نے بھائی کے مرنے کی خبر سنی۔ تب یمن۔ غابورہ۔ حراں۔ زہا پر قبضہ کر لیا۔ ملک
 صناع معہ فوج کے حلب روانہ ہوا کہ چچا کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اسی اثناء
 صلاح الدین نے شام پر حملہ کر دیا اور اس کو ۵۷۰ھ میں زیرنگیں کر لیا
 اس کے بعد حمص۔ حما۔ بلعیاک کو فتح کیا اور حلب ملک صناع کو دیدیا۔

اوصاف مستضیٰ نیک سیرت۔ عادل۔ حلیم اور سخی تھا۔ اس نے نو
 سال ۶ ماہ فرائض خلافت انجام دیے۔ اس میں کسی فرد

کو شکایت کا موقع نہ دیا وہ صناع اور کامیاب خلیفہ تھا۔ وسط ایشیا سے لے
 کر مصر و مغرب تک میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ رعایا کا خیر خواہ تھا
 اس کے عہد میں امیر و غریب سب خوش تھے۔ اس کے حسن سلوک سے اکثر
 بادشاہ مطیع ہو گئے۔

مستضیٰ کی وفات | مستضیٰ نے ۲ ذی قعدہ ۵۵۵ھ کو نو سال چہ
 ماہ فرائض خلافت انجام دئے کر وفات پائی۔

ہمتصر علی ناز | ابن الخشاب نحوی۔ ملک النجات ابو نزار احسن بن صفی بن
 ابو العلاء ہمدانی۔ ناصح الدین ابن الدیان نحوی۔ حافظ الکبیر

ابو القاسم بن عساکر۔ حصین مہض شاعر۔ حافظ ابو بکر بن خیر۔
 محمد بن وقفہ | عثمان بن علی بن محمد بکندی بخاری۔ ابو عمرو، فقیہ، محدث
 عابد، زاہد شاگرد امام ابو بکر۔ محمد بن ابی ہبل مشہور

استاد صاحب ہدایہ ۵۵۲ھ میں انتقال ہوا
 محمد بن مسعود بن احسن کاشانی۔ شیخ ابوالفتح فقیہ کے شاگرد تھے ایک عرصہ
 تک عہدہ قضاہ پر ممتاز رہے۔ ۵۵۲ھ میں انتقال کیا۔

احمد بن علی بن عبدالعزیز بلخی صاحب شرح جامع صغیر ۵۵۳ھ میں فوت ہوئے
 محمد بن یوسف حسینی ابو القاسم ناصر الدین سمرقندی امام جلیل القدر
 مفسر محدث فقیہ، مولف کتاب نافع و خلاصۃ المفتی کے تھے۔ ۵۵۵ھ میں
 انتقال کیا۔

محمد بن ابی بکر المعروف بہ امام زادہ چوغی مفتی بخارا شاگرد مجدد الائمہ
 سرخکتی و شمس الائمہ بکر زنجیری و رضی الدین نیشاپوری، تصوف میں مرید خواجہ
 یوسف ہمدانی کے تھے۔ شرعۃ الاسلام، ادب الصوفیہ یا دگار سے ہے۔
 محمد بن ابی القاسم خوارزمی ابن المشائخ نقالی فقیہ و محدث علامہ جارا
 زعشری کے شاگرد۔ ۵۵۶ھ میں انتقال کیا۔

سلطان نور الدین زنگی | مجاہد اعظم سلطان نور الدین زنگی صرف حلب

کا حکمراں تھا۔ لیکن جنگ صلیبی میں اس کی شہامت

اور شجاعت نے فرنگیوں کو مرعوب کر دیا تھا۔ آخر میں اس کی سلطنت اس قدر وسیع ہو گئی تھی کہ شام، مصر، یمن اور حرمین شریفین میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین کا آقا تھا۔ خلفائے اربعہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس سے بہتر کوئی حکمراں مسلمانوں میں نہیں ہوا نور الدین بڑا عادل۔ عابد و زاہد، متقی تھا۔ شریعت مطہرہ کے احکام کے نفاذ و قیام میں بڑا اہمک رکھتا تھا۔

ابن اثیر کا بیان ہے -

وہ زمرہ سلاطین میں عدل و انصاف کے قیام و محرمات شرعیہ کے اجتناب اور اتباع سنت کا مجدد تھا، "سائے مالک محمد" میں شراب نوشی اور شراب کی تجارت کا نوٹا بند کر دی تھی، بہت سے مذہبی اور رفاه عام کے کام انجام دیے دمشق میں بارگاہ قائم کیا۔ محدثین اور حدیث کے طلباء کے لیے بڑی جائداد وقف کی۔ موصل اور حماہ میں عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرائی مکاتب قائم کئے۔ شفا خانہ بنوائے۔ وہ صاحب علم، متقی و متورع تھا۔ اس کا سارا وقت جہاد کی تیاری میں گذرتا علماء و صوفیہ کی قدر و منزلت کرتا۔ خراسان کے مشہور عالم شیخ قطب الدین نیشاپوری کو دمشق بلایا اور اس کے ساتھ

تعظیم و توقیر سے پیش آیا
 سیاست ہلکی میں بھی اس کا پایہ نہایت بلند تھا۔ سوال ۵۵۹
 میں انتقال کیا ہے

خليفة ناصر الدين التت

نام و لقب | ابو العباس احمد ناصر الدين التت مستضی بالشداس کی
ماں کا نام زمر و تھا۔

تعلیم و تربیت | علمائے عصر سے علوم کی تحصیل کی۔ شاہانہ طور طریق سے
تعلیم و تربیت ہوئی۔

خلافت | ۲ ذی قعدہ ۵۶۵ھ مطابق ۳ مارچ ۱۱۸۰ء کو سربرائے
تحت خلافت ہوا۔ اس کی عمر ۲۲ سال کی تھی۔

وقائع | ۵۶۶ھ میں سیف الدین فرما نروائے موصل فوت ہوا اس کا برادر
عم زاد عزالدین مسعود بن مودود زنگی جانشین ہوا۔

۵۶۶ھ میں ملک الصالح اسمعیل بن نورالدین زنگی فرما نروائے
حلب ۱۹ سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ عزالدین جانشین ہوا۔ اس نے اپنے
بھائی عماد الدین کو حلب کی حکمرانی دے دی۔

اسی سال یعنی ۵۶۷ھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلاد جزیرہ
کو مفتوح کر کے موصل پر لشکر کشی کی۔ مگر کسی مصلحت سے بخارہ جا کر اس کو
فتح کر لیا۔ ۵۶۹ھ میں حلب پہنچا۔ عماد الدین زنگی نے بغیر جنگ کے حلب

سلطان صلاح الدین کے سپرد کر دیا۔ سلطان صلاح الدین عماد الدین کو بخار
نصیبین، خاپور، رقبہ، مسروج کے علاقہ کا حکمران بنا دیا۔ اس زمانہ میں
شاہ ارمن فرمانروائے خلاط فوت ہوا۔ صلاح الدین میا فارقین پہنچا وہاں
پتہ چلا کہ اُس کا غلام بکتر اس کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا ہے۔ اس
نے صرف میا فارقین پر قبضہ کر لیا۔

۵۸۳ھ سلطان طغرل بن ارسلان شاہ نے
طغرل کی فتوحات | بہت سے ملک زبردست کر لیے قزل ارسلان ابن
الذکر فرمانروائے آذربائیجان، ہمدان، اصفہان نے طغرل کی فتوحات
کے سیلاب کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ سے مدد چاہی۔ یہاں سے لشکر گیا
طغرل سے معرکہ رہا۔ شاہی لشکر شکست کھا گیا۔

شاہ
واقعاً سلطان صلاح الدین | عزیز الدین مسعود اور عماد الدین مل کر صلاح الدین
کے خلاف ہو گئے۔ بلکہ صلاح الدین کو زیر

کرنے کے لیے عیسائیوں اور باطنیوں سے باضابطہ عہد نامہ کر لیا۔ باطنیوں
سے یہ طے کیا کہ حلب میں اُن کا تبلیغی مرکز قائم کر دیا جائے گا۔ اس کی اطلاع
صلاح الدین کو ہو گئی۔ مگر عماد الدین سے صلح ہو چکی تھی اس نے سکوت اختیار کیا
صلاح الدین مصر سے شام آیا فرنگیوں نے زوکا۔ یہ دوسری طرف
سے نکل کر طبریہ و جہان وغیرہ فرنگی علاقہ پر حملہ کرتا ہوا حکم تک پہنچا اور فرنگیوں
سے دو دو ہاتھ کر کے دمشق آ گیا۔ اس کے نائب عز الدین فرخ شاہ نے
دیورہ و شقیف کے فرنگی قلعے پر جو اسلامی سرحد پر واقع تھے صلاح الدین

کے آنے سے پہلے فتح کر لیے تھے۔ اور چونکہ کیاں قائم کر دی تھیں۔ دمشق سے صلاح الدین بیروت کی تخییر کے لیے روانہ ہوا۔ بھری و بھری حملہ کیا اس دوران میں خبر ملی کہ بیت المقدس کے فرنگی زائرین کا ایک جہاز و میاٹ آ رہا ہے چنانچہ سلطان نے بیروت چھوڑ کر جہازوں کو آ لیا۔ حملہ کر کے ایک ہزار چھ سو فرنگی گرفتار کر لیے۔

اس کے بعد زنگی خاندان کی چھوٹی چھوٹی سرداریاں جو باہم لڑتی رہتی یا دشمنوں سے ساز باز کرتی تھیں پہلے ان کے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ امیر مظفر الدین کو کبریٰ والی حران، عز الدین مسعود سے مخالف تھا اس نے سلطان کو دعوت دی۔ چنانچہ بیروت سے واپس ہو کر فرات کو عبور کر کے جزیرہ کی طرف بڑھا اور چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو اعلان عام دیا کہ جو اطاعت کرے گا اس کا علاقہ اس کے لیے ہے ورنہ بزورِ شمشیر قبضہ کیا جائے گا سلطان کی قوت، سطوت کے آگے سب نے سر جھکا دیا جس نے سرتاپی کی بزورِ شمشیر مطیع کیا۔ اس طرح جزیرہ کا بڑا حصہ سلطان کا زیرِ نگیں ہو گیا۔ سب لیا جا چکا تھا۔ آمد پر بہار الدین قاضی تھا۔ سلطان نے حملہ بول دیا۔ ابن نیساں نے وزیر قاضی فاضل کے ذریعہ چند شرائط پر شہر حوالہ کر دیا۔ محرم ۶۵۹ھ میں سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں عظیم الشان کتب خانہ تھا جس میں دس لاکھ چالیس ہزار کتابیں تھیں۔ سلطان نے قاضی فاضل کو ویدیں سلطان نے محمد بن قزاق کے لڑکے نور الدین کو آمد کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس زمانہ میں حلب لیا جا چکا تھا

اب شام میں سلطان کی قوت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ سے بغداد کی مسجدوں تک اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد حارم عماد الدین سے لیا۔ حارم کے قبضہ کے بعد سلطان دمشق لوٹا۔ تمام ممالک محروسہ کی نوہیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ خیب افواج جمع ہو گئیں ۵۶۵ھ میں بیسان جو فرنگی علاقہ تھا اس طرف رخ کیا۔ وہ سارے سامان چھوڑ کر نکل بھاگے اور سلطان کا قبضہ بلا مزاحمت بیسان پر ہو گیا۔ پھر جالوت میں جا کر منزل کی فرنگیوں نے سلطان کی پیش قدمی سے اطلاع پا کر الفوکہ میں عظیم الشان فوج جمع کی اس میں ایک ہزار تین سو سیحی نائٹ اور پندرہ ہزار ایچھے اسلحہ رکھنے والی پیدل فوج اور یورپ کے امرازادے ہنری۔ لودین کا ڈیوک۔ بینی کارالف، اس کے علاوہ شام کے بڑے بڑے رئیس۔ بالڈون۔ علیین کا بالیاں۔ صیدا کا ریجی نالڈ جو مسلمانوں کا دشمن تھا۔ قیساریہ کا والٹر، کوزنتی جو ملن وغیرہ تھے۔

سلطان عین جالوت سے الفوکہ پہنچا۔ دونوں میں خونریز معرکہ ہوا فرنگی الفوکہ سے ہٹ کر عین جالوت گئے۔ سلطان بھی ان کے عقب میں پہنچا اور چاروں طرف سے گھیر کر خوب قتل عام کیا۔ فرنگی ہٹ کر بھاگے ان کا تعاقب کیا۔ کفر بلا۔ بیسان اور در عین کو ویران کر ڈالا۔ اس مہم سے فراغت پا کر ۵۶۹ھ میں اسلام کے بڑے دشمن ریجی نالڈ کے علاقہ کرک پر فوج کشی کی۔ مگر ناکام و دمشق لوٹا وہاں جا کر مئی شام

جزیرہ کی فوجیں جمع کرنے کے لئے ۵۸ھ میں دوبارہ کرک پر حملہ کر کے فتح کر لیا
 مگر فرنگیوں کی تازہ دم فوج آگئی۔ سلطان کو ہٹنا پڑا۔ نابلس اور سبطینہ کو
 تاخت و تاراج کرتا ہوا دمشق لوٹ گیا۔
 یروشلم کا فرمانروا مال رک مر گیا۔ اس نے اپنے کم سن بھانجہ بالڈون
 کو جانشین کیا اور اس کا نگران لوگنان کے گائی اور طرابلس کے فرمانروا
 ریمینڈ کو مقرر کر گیا۔ انہوں نے سلطان سے چار سال کے لیے صلح کر لی
 مگر اس زمانہ میں بطریق، سیریکائیوس مسیحی، عابدوں کی بھرتی پوریاں کر
 رہا تھا۔ ہر ریمینڈ اور گائی میں یروشلم پر حکمرانی کی وجہ سے جھگڑ گئی۔ ریمینڈ
 سلطان سے میل کر گیا۔ سلطان نے یروشلم کا اس کو حکمراں بنانے کا وعدہ
 کر لیا۔ ریمینڈ کا اثر صلیبیوں پر بہت تھا چنانچہ فرنگی بہت سے سلطان کی
 طرف ہو گئے۔

سلطان نے موصل کی طرف توجہ کی۔ معمولی جنگ کے
 بعد عزالدین سے صلح ہو گئی اور سلطان کا اس پر قبضہ

ہو گیا۔ اب اتابکی حکومت ایوبی حکومت کے ماتحت ہو گئی۔
 ریحی نالڈ نے بد عہدی کی۔ ایک مسلمان حجاج کا قافلہ اس نے اپنے
 علاقہ سے گزرتے ہوئے لوٹ لیا اور اہل قافلہ کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے
 اس کو تہنیہ کی۔

اہل قافلہ سے ریحی نالڈ نے کہا کہ

”تم محمد پر ایمان رکھتے ہو، اُس سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ

آ کر تمہیں چھرا سے“

ریحی نالڈ نے سلطان کی تنبیہ کی بزوا نہیں کی سلطان کو اُس کے
کلمہ ناسزا کی بھی خبر ہو گئی۔ اُس نے قسم کھا کر عہد کیا کہ اس صلح شکن کافر
کو خدا نے چاہا تو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا“

فرنگیوں سے فیصلہ کن جنگ | سلطان نے مالک محروسہ میں جہاد کی
عام منادوی کرا دی۔ تمام ذیرا اثر امراء

اور فرمانروا دمشق آ گئے۔ ۵۸۳ھ میں سلطان دمشق سے فلسطین روانہ ہوا
سلطان نے الملک الفاضل کو راس الما چھوڑا خود کرک روانہ ہو گیا۔ ریحی
نالڈ کو ہمت نہ پڑی کہ مقابلہ کرتا۔ سلطان نے کرک اور اشوبک کے
علاقہ کوتاخ و تاراج کر ڈالا۔

الملک الفاضل راس الما سے عکہ کی طرف بڑھا۔ صفوریہ میں فرنگی
پچاس ہزار جمع تھے جس میں ایک ہزار دو سو نائٹ تھے۔ گائی اور ریسٹ
ہر دو ملے اور صلیبیوں میں شریک ہو گئے۔

الملک الفاضل نے اسد وایہ اور استباریہ صلیبی مجاہدین کو صفوریہ
کے قریب آیا اور اُس کے مقابلہ فرقتل کئے اور صلیبیوں کو تہ تیغ کیا
سلطان کو اطلاع ملی وہ کرک سے الفاضل سے آ کر مل گیا اب اسلامی
فوجیں طبریہ کی طرف بڑھیں۔

۵۸۳ھ میں سلطان نے صفوریہ کا رخ کیا اور فرنگیوں کے قریب

طبریہ کی پہاڑی پر فوجیں اتاریں۔ مگر طبریہ سے کوئی مقابل نہ آیا سلطان نے
 شہر پر قبضہ کیا پھر نوبیا کے میدان میں صلیبیوں سے جنگ چھیڑ دی ہزار ہا نصرانی
 تہ تیغ ہوئے ان کی قوت کمزور ہونے لگی۔ حطین کی آڑ لے کر بھاگنا چاہا
 مگر وہاں بھی شجاعان عرب نے آگ روک لیا۔ ان کی مقدس صلیب
 جو حضرت مسیح کی سوئی کی بنی ہوئی تھی چھین لی۔ اب صلیبی صحیحے ٹپکے ہوئے
 گائی بادشاہ یروشلم کے خیمہ تک پہنچ گئے۔ آخر میں ہتھیار ڈال دیئے فوج
 سلطانی نے سب بڑے بڑے امراء و حکمرانوں کو گرفتار کر لیا۔

اختتام جنگ کے بعد تمام معزز قیدی سلطان کی خدمت میں پیش
 ہوئے یروشلم کے بادشاہ گائی کو پہلو میں جگہ دی۔ باقی امراء ان کے
 رتبہ کے مطابق بٹھائے گئے دیچی نائڈ بھی پیش ہوا سلطان نے اس کا اپنے
 ہاتھ سے سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو ساتھ لے کر شہر حطین کی
 طرف بڑھا۔ اس کے بعد طبریہ بھی قبضہ میں کیا۔ پھر عسکاً پر فوج کشی کی اور
 اس کو فتح کر کے جامع مسجد جس کو صلیبیوں نے کینہ بنا لیا تھا۔ ایک صدی
 بعد سلطان نے پھر اس کو مسجد بنا کر جمعہ کی نماز پڑھی۔

دوسری بہت سلطان کے بھائی ملک العادل نے عبدالیابا۔
 ناصرہ، قیناریہ، حیفاء، صفوریہ، شقیف، فولہ وغیرہ ملک کے ملحقہ علاقے
 زیر نگین کر کے باغی کی بندرگاہ فتح کر لی۔
 سلطان نے اسٹن میں صیدا لے لیا۔ اس کے بعد بیروت پر فوج کشی

کر دی۔ اہل شہر نے مقابلہ میں نقصان اٹھا کر سپرد کر دیا۔ اس کے بعد صورا اور
عسقلان بزور شمشیر سلطان نے لے لیے۔

۵۸۳ھ میں عسقلان سے سلطان بیت المقدس
بیت المقدس کی فتح | روانہ ہوا۔ سلطان کے عزم جہاد کی خبر سنا کر مصر

و شام کے تمام بڑے بڑے علماء بیت المقدس کی فتح کی شرکت کی معاد
عہد کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سلطان نے صلیبیوں سے کہلا بھیجا کہ میں یہاں
خونریزی نہیں چاہتا۔ اس کو مرے حوالہ کر دو اور عقول معاوضہ لے لو
مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ آخر شہ سلطان کو بدرجہ مجبوری تلوار نکالنا پڑی
ایک ہفتہ خوب خوب ہر دو طرف سے تلوار چلیں۔ آخر شہ صلیبیوں نے
فدیہ دے کر نکلنا چاہا۔ فدیہ ۱۰ دینار مردہ ۵ دینار عورت ۲ دینار بچہ دیا اور
۲ رجب ۵۸۳ھ بروز جمعہ صلیبیوں نے ہمت ہار کر بیت المقدس مسلمانوں
کے حوالے کر دیا۔

صلیبیوں نے ۱۲۹۲ھ میں بیت المقدس پر قبضہ کرتے وقت ستر
ہزار مسلمان مسجد اقصیٰ میں شہید کئے گئے جس میں ہزار ہا علماء و زیاد عبادت
گزار رہتے تھے۔ مگر مسلمانوں نے پرامن طور پر غیاسیوں سے خالی کر لیا۔
امیر مظفر الدین کو گرمی نے صد ہا غیاسیوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا
کیا۔ پھر سلطان نے معافی عام دی۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ سلطان نے
غیاسیوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں صورت تک پہنچا دیا۔ تاکہ العادل نے

ایک ہزار نصرانیوں کو بطور غلام لے کر اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ سلطان نے قبتہ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ جس کو عیسائیوں نے بت خانہ نقصا دیر کے ذریعہ بنا رکھا تھا اس کو مٹایا اور درست کر کے امام وقار سی مقرر کیے۔ شعبان ۵۸۳ھ کو اکانوے سال کے بعد مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر علیہ سے طلب کر کے مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا۔

تظہیر بیت المقدس کے بعد سلطان نے مدرسہ باطنی تعمیر کیے رقم فدیہ کی جو وصول ہوئی تھی وہ علما اور مستحقین میں تقسیم کر دی گئی اس کے بعد صور پر فوج کشی کی۔ مگر ناکامی ہوئی، مگر حصن کو کب لے لیا۔ اس کے بعد سلطان ۵۸۳ھ میں دمشق چلا گیا۔ کچھ دن بعد انظرطوس لے لیا۔ پھر لاذقیہ پر قبضہ جایا۔ غرضکہ فلسطین کی نصرانی حکومت کا خاتمہ سلطان کے ہاتھوں ہوا اب شام میں صرف مسیحی حکومت ابٹاکیہ تھی ابوہمند نے سلطان سے صلح کر کے جان بچائی۔ یروشلم کے زوال سے یورپ میں تہلکہ مچ گیا۔ شام کا استغیا اعظم ولیم صوری یسویوں اور راہبوں کو لے کر روم آ پہنچا۔ پاپے روم نے مقدس جنگ کے لیے فتویٰ دے دیا۔

انگلستان میں کنٹر برسی کے بلڈون نے جنگ صلیبی کا وعظ کیا۔ اس کی کوششوں سے فرانس۔ انگلستان کے بادشاہ آکھ کھڑے ہوئے ہنری دوم بادشاہ انگلستان، فلپ اٹس بادشاہ فرانس اور فریڈرک باربروسہ بادشاہ جرمنی ولیم بادشاہ صقلیہ اور یورپ کے نائٹس سب یکجا ہو کر صلیبیوں کو ساتھ لے کر فلسطین روانہ ہوئے۔ ہنری دوم مر گیا۔ اس کا لڑکا رچرڈ

جانشین ہوا وہ اس جماعت کا ہیرو بن گیا۔ غرض کہ رچرڈ اور فلپ عکہ پہنچے سلطان بھی فوج لے کر پہنچا۔ خوب خوب مقابلہ ہوا۔ آخر میں عکہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور پھر صلاح ہو گئی عسقلان تباہ کر دیا گیا۔ رچرڈ وغیرہ سب اپنے اپنے ملک چلے گئے۔ سلطان کامرائی کے ساتھ بیت المقدس آیا۔ عیسائیوں کو زیارت کی اجازت دے دی امیر عزیز الدین حروبک کے سپرد بیت المقدس کر کے شوال ۵۸۸ھ میں حج کے ارادہ سے دمشق گیا۔

وفات | سلطان صلاح الدین ایوبی مصر، شام، فلسطین، جزیرہ و موصل کو زیر نگیں کرنے کے بعد، ۵ سال کی عمر میں، ۲۷ صفر ۵۸۹ھ میں وفات پائی۔ صلیبی جنگوں میں اس نے بڑے کارہائے نمایاں کئے۔ عالمگیر اقتدار کا مالک تھا۔ مگر ہمیشہ خلافت عباسیہ کے دامن سے وابستہ رہا اور بارگاہ خلافت کے حلقہ اطاعت سے کبھی الگ نہیں ہوا۔ سلطان صلاح الدین کے مفصل حالات تاریخ ملت کی جلد ہفتم میں ہم نے بیان کئے ہیں۔

سکے وزیران ناصر اعنانِ خلافت ہاتھ میں لیتے ہی ظہیر الدین بن عطار کو جیل میں ال

دویا۔ مجدالدین ابوالفضل بن صاحب وزیر ایشاد کو عہدہ وزارت

پر مقرر کیا گیا۔ مجدالدین سے نظام حکومت ہاتھ میں لے کر کچھ عرصہ میں

معتدل کر دیا تو خلیفہ نے ۵۸۳ھ میں اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور زمام

حکومت ہاتھ میں لے لی۔ مجدالدین کے عہد میں خلافت آف کی کچھ نہ چلتی تھی

علاوہ بریں اس کی ثروت اور مالدار می اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ خلافت آف

کے خزانہ کی اس کے مقابلہ میں ذرا بھی وقعت نہ تھی۔ مجدالدین کے قتل کے

بعد عبید اللہ بن یونس کنیت ابوالمنظر کو عہدہ وزارت عطا ہوا اور لقب

جلال الدین اس کو دیا گیا۔ یہ وزیر صاحب جلال اور با عظمت تھا۔ اس کے

دربار میں تمام امراتیں کہ قاضی القضاات بھی دربار دار می کرتے تھے

ممالک محروسہ اسلامیہ میں بیعت کے لیے قاصد روانہ کیے صدر الدین

شیخ الشیوخ کو بہلوان والی ہمدان، اصفہان، رے کے پاس روانہ کیا

سب نے آخر میں بیعت کی۔ بہلوان کے مرنے کے بعد اس کا بھائی کزل

۵۸۰ھ ابن غلدون حابد ۵۸۰ھ ابن ایلدکرتا تک ۵۸۰ھ میں ایلدکرت

والی رے کو قتل کر کے خود حکمراں بن گیا وہ ۵۸۰ھ میں ہمدان میں فوت ہوا محمد بہلوان

جانشین ہوا۔ اس کا بھائی سلطان ارسلان بن طغرل بدستور اسکی کفالت میں رہا ۵۸۲ھ

میں جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے طغرل کو اس کا جانشین کیا۔ ۵۸۳ھ میں بہلوان نے

وفات پائی ہمدان۔ رے، اصفہان۔ آذربائیجان اور آرانہ وغیرہ اس کے زیر حکومت

تھے اور طغرل مذکور نگرانی میں تھا

ارسلان موسوم بہ عثمان حکمراں ہوا۔ طغرل اس کی نگرانی سے نکل بھاگا اور امرایا
 و اراکین کو بلالیا اور عثمان پر حملہ آور ہوا۔ عثمان نے اپنا سفیر دربار خلافت
 میں بھیجا۔ طغرل نے بھی چند شہر قبضہ میں کر کے سفیر خلافت مآب کی خدمت
 میں روانہ کیا اور دار السلطنت کی تعمیر کی مرمت کی اجازت چاہی اس سے
 پیشتر سلاطین سلجوقیہ کی حکومت کا سکہ بغداد و عراق میں چل رہا تھا مگر مقتضی
 نے اس تعلق کو منقطع کر دیا تھا۔ اس لیے دار السلطنت بے مرمت ہو گیا تھا
 مگر خلافت مآب نے کزل عثمان کے سفیر کی عزت و توقیر کی اور معاونت کا
 وعدہ کیا اور طغرل کے سفیر کو بلا جواہر کے واپس کیا۔ ان سفراء کی واپسی کے
 بعد خلیفہ نے سلاطین سلجوقیہ کے دار السلطنت کے اہتمام کا حکم دے دیا جس
 پر نہایت تیزی سے عمل درآمد کیا گیا۔ ماہ صفر ۵۸۴ھ میں دربار خلافت
 سے وزیر السلطنت جلال الدین ابوالمنظر عبید اللہ بن یونس سراسری ایک
 لشکر عظیم لے کر کزل کی کمک کو روانہ ہوا۔ ہمدان میں کزل کے اجتماع سے
 پیشتر طغرل سے مقابلہ ہوا۔ میدان طغرل کے ہاتھ رہا۔ لشکر بھاگ کھڑا ہوا
 وزیر سلطنت گرفتار ہوا۔ اس کے بعد ہی کزل نے طغرل کو آلیا۔ فتح اس کو
 نصیب ہوئی۔ کزل نے طغرل کو گرفتار کر کے قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ کزل
 استحکام و استقلال کے ساتھ کل صوبجات پر حکمرانی کر لے لگا۔ اپنے نام
 کا ممبروں پر خطبہ پڑھوایا۔ دروازہ پر بندوق تلو بہت بجاوائی۔ ۵۸۵ھ میں
 طغرل اپنی خواب گاہ میں قتل کیا ہوا پایا گیا۔ اس کے بعد دولت سلجوقیہ کا
 چراغ ہمیشہ ہمیش کے لیے گل ہو گیا۔

نیا وزیر

خلافت مآب نے وزیر کی گرفتاری پر مولانا ابو عبد اللہ محمد بن علی معروف بہ ابن تھباب کو عہدہ وزارت پر مقرر کیا اور صوبہ خوزستان وغیرہ کی سند حکومت عطا کی چنانچہ ۵۹۱ھ میں شامہ والی خوزستان مراد وزیر دارالسلطنت جا پہنچا۔ تشریح قبضہ کر کے خوزستان بھی قبضہ میں لایا بلوک بنی شامہ کو گرفتار کر کے بعد اور روانہ کیا اور انتظاماً وزیر نے خوزستان کا حاکم طاش تکین کو کیا۔ یہاں سے وزیر سلطنت سے کی طرف بڑھا۔ پہلے ہمدان پر قابض ہوا۔ بعد اسکے خوارزم شاہ کی طرف توجہ کی وہ مقابلہ سے جی ہراتا رہا یہ اس کے پیچھے رہے تاکہ پہنچے وہ جرجان چلا گیا۔ وزیر نے اسے پر تسلط کیا شعبان ۵۹۲ھ میں وزیر نے انتقال کیا خوارزم شاہ نے ہمدان پر فوج کشی کر کے وزیر کی بے سری فوج کو شکست دے کر قبضہ کر لیا۔ پھر اصفہان کی طرف خوارزم شاہ متوجہ ہوا۔ وہاں کے امیر صدر الدین محمدی رئیس شافعیہ نے خلافت مآب کو لکھا۔ ہم آپ کے زیر حمایت آنا چاہتے ہیں۔ خلافت پناہ نے سینا الدین طغرل جاگیر دار "بلاد بخت" کو اصفہان روانہ کیا۔ سینا الدین نے اصفہان پر قبضہ کیا اور خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ اس کے بعد انجان اور قزوین بھی خلیفہ کے زیر نگیں آگئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت بنی عباس کے قوائے حکمرانی مضبوط ہو گئے اور حکومت و شوکت کو استحکام و استقلال ہوا۔

رفاہ عام | خلیفہ ناصر نے جن شہروں پر اپنا اقتدار قائم کیا وہاں جو اعمال تھے ان کو بہ ایتنا عدل و انصاف کی کی۔ جگہ جگہ

مدرسہ کھولے گئے۔ شفا خانہ، ہمان سرائے، باغات گلوائے گئے تجارت میں بڑی سہولت دیدی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اسن واماں قلمرو بنی عباس میں نظر آنے لگا۔

۶۰۲ء میں طاش تکین امیر خوزستان مراد خلیفہ نے اس کے داماد سحر کو اپنا جانشین کر دیا۔ ۶۰۳ء میں سحر نے حبال ترکستان کا قصد کیا یہ حبال عظیم الشان فارس، عمان، اصفہان اور خوزستان کے درمیان واقع ہیں اس کا والی ابو طاہر تھا۔ اس نے اپنے داماد قشمر کو اپنا جانشین کر دیا تھا۔ ان دنوں قشمر حکمرانی کر رہا تھا چنانچہ سحر نے حملہ کیا اور ناکام لوٹا۔

وزیر کی معزولی نصیر الدین ناصر مہدی علوی رے کا امیر تھا وہ بغداد مقیم تھا۔ خلافت پناہ دے اس کو وزیر سلطنت کی نیابت عطا کی۔ بعد چندے اس کو وزارت عطا کی اور اس کے بیٹے کو وزیر خزانہ کیا نصیر الدین نے عہد وزارت پا کر حکمت عملی کل اراکین دولت کو دبا لیا۔ ان حالات کے پیش نظر خلیفہ نے اس کو معزول کر دیا اور خانہ نشین رے کا حکم دیا۔ اس نے اس پر عمل کیا۔ فخر الدین ابوالبدر محمد بن احمد بن اسمین واسطی بطور نائب وزیر وزارت کا کام انجام دینے لگا۔ اس زمانہ میں ابو فرس نصیر بن ناصر بن مکی مدائنی وزیر خزانہ نے بغداد میں انتقال کیا تو اس کے بجائے ابوالفتوح مبارک بن عضد الدین ابوالفرج بن رئیس الرودسانی^{۶۰۵} میں متعین کیا گیا۔ لیکن خزانہ کا کام وہ سنبھال نہ سکا۔ تو اس کو معزول کر دیا۔ اس کے بجائے نکین الدین محمد بن محمد بن بدر القمرا تب الشان نائب وزیر

کو مقرر کیا اور اس کو مومند الدین کا لقب عطا کیا۔

سنجھ | سنجہ خادم خلیفہ ناصر نے بغاوت کر دی تو مومند الدین سرکوبی کو خوزستان
پہنچا اور اس کو گرفتار کر کے بغداد لے آیا۔ خلافت ناسب نے دوسرے
خادم یا قوت کو خوزستان پر مامور کیا پھر سنجہ کو آزاد کر کے خلعت عطا کیا۔

ولیعہد کا انتقال | خلیفہ ناصر نے اپنے چھوٹے لڑکے ابوالحسن علی کو ولیعہد
کیا تھا وہ ۱۱۲ھ میں انتقال کر گیا۔ دوسرے اس
نے چھوڑے ہوئے موافق۔

ان دونوں کو ۱۱۳ھ میں سندھ امارت خوزستان کی عطا کی مع لشکر
کے خوزستان بھیجا۔ مومند الدین ناسب وزیر اور عز الدین شرابی کو اتالیقی اور
نگرانی کی غرض سے ساتھ کر دیا۔ ہر دو نے خوزستان جا کر حکمرانی شروع
کر دی۔ کچھ عرصہ بعد ناسب وزیر اور شرابی بغداد واپس آ گئے۔

خوارزم شاہ | خوارزم شاہ کے تغلب سے پہلے غلمش نے بزرگتیمغ و حکمت
عملی بلا و جبل پر قبضہ کر لیا تھا۔ خوارزم شاہ علاء الدین محمد

بن تکش جالشین سلاطین سلجوقیہ کو جو صوبہ خراسان و ماورالنہر پر مستولی ہو
رہا تھا۔ ان بلا و جبل پر قبضہ کرنے کا شوق چرایا۔ لشکر آراستہ کر کے ادھر اس نے
فوج کشی کر دی۔ ادھر تائبک سعد بن وکلار والی فارس بلا و جبل کے لیے
بڑھا پہلے اتا ناسب نے اصفہان پر قبضہ جایا۔ پھر رے کی طرف بڑھا یہاں
خوارزم شاہ کی فوج سے ٹکرا ہوئی۔ سخت خونریزی کے بعد تائبک ہزیمت

۱۲۸ ص ۹ ج ۱ ابن خلدون ج ۹ ص ۱۸۲

ہوئی۔ خوارزم شاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور آگے بڑھ کر قزوین، زبلجان، اور
 ابھر پر قابض ہوا۔ اہل ہمدان نے گردن اطاعت جھکا دی اس کے بعد اصفہان
 پر متصرف ہو گیا۔ قم، اور قایشان بھی خوارزم شاہ نے لے لیے۔ والی آذربائیجان
 اور ارمینیہ نے بغیر تحریک کے اطاعت قبول کی۔ اب اس کے حوصلے بڑھ
 گئے۔ دار الخلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا نامہ و پیام خلیفہ سے کیا
 مگر دوبار خلافت نے اس کی تردید دیکھ کر انکار کر دیا تو خوارزم شاہ نے طیش میں
 آکر دوبار خلافت پر حملہ کرنا چاہا۔ امیر حلوان کو سند امارت عطا کر کے پندرہ
 ہزار سواروں کی جمعیت سے بغداد بڑھنے کا حکم دیا۔ خلافت مآب کو خبر گئی تو خلیفہ
 شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی کو سفیر بنا کر بھیجا کہ خوارزم شاہ کو سمجھا
 دیں کہ غلط قدم نہ اٹھاوے۔ شیخ الشیوخ خوارزم شاہ کے پاس تشریف لے گئے
 وہ بہت تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ مگر اس نے کہا۔ میں تو بغداد کی اینٹ سے
 اینٹ بجا کر چین لوں گا۔ آپ اس کو بدعا دے کر چلے آئے جو فوج اس
 نے بغداد کے لیے روانہ کی۔ جب وہ راستہ میں ہمدان سے آگے پہنچی تھی کہ اس
 قدر برفباری ہوئی کہ ساری فوج ہلاک ہو گئی جو باقی رہی بنو برجم ترک
 نے آ لیا اور تلوار کے گھاٹ اٹھا دیا۔ خوارزم نے ۶۱۵ھ میں خراسان میں
 خلیفہ کے نام کا خطبہ ممنوع قرار دیدیا۔

تاتاریوں کا خروج | چینی تاتار کے ان بلند اور وسیع میدالوں میں جو منگولیا
 کہلاتی ہیں بہت سی خانہ بدوش اقوام آباد ہیں یہاں

خوارزم، بخت اول، جنگ جو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی لوٹ کھسوٹ سے بچنے کے لیے قدیم چینوں نے دیوار چین بنائی۔

زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ (یعنی قبائل کا سردار) الخوج نامی تھا اس کے دو بیٹے تو ام پیدا ہوئے۔ ایک کا نام مغول رکھا۔ دوسرے کا نام تاتار، اُن کی اولاد اُن کے ہی نام سے مشہور ہوئی۔ مغلوں میں ایل خان مشہور سردار تھا اور تاتاریوں میں مشہور شخصیت سوچ خاں کی تھی۔ ایل خان کی اولاد میں بہادر خاں تھا جس کا لڑکا چنگیز خاں تھا جس کی پیدائش ۱۱۶۹ء میں ہوئی۔ چنگیز نے تمام مغلوں اور تاتاریوں کو متحد کر کے اردگرد کے علاقے لے کر حکومت قائم کر لی اور بیس سال کے ترک تاز میں بڑی سلطنت کا مالک بن گیا۔ ۱۲۰۶ء میں چنگیز نے اپنے ملک کے معزز مسلمانوں کا ایک وفد خوارزم شاہ کے پاس بھیجا کہ دونوں ممالک میں تجارت کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ خوارزم شاہ نے منظور کر لیا۔

ایک عرصہ تک دونوں طرف کا رُدا ان تجارت آتے جاتے رہے۔ ۱۲۱۵ء میں چار سو تاتاری تاجروں کا ایک قافلہ دریائے سیحوں کے ساحل پر مقام سروریا میں اُترا۔ وہاں کے والی نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ چنگیز خاں کے جاسوس تاجروں کے بھیس میں یہاں آئے ہیں خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ اُن کو قتل کر دو، والی نے اس حکم کی تعمیل کی اور وہ کل سامان تجارت خوارزم شاہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے سمرقند اور بخارا کے تاجروں کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔

چنگیز خاں کو خبر لگی۔ اُس نے لکھا کہ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہے
 لہذا تمام سامان واپس کر دیا جائے اور غایر خاں والی سرداریا کو ہمارے
 حوالے کر دینا کہ ہم اُس سے اس کا بدلہ لیں۔ مگر خوارزم شاہ نے اس سفیر کو بھی
 قتل کرا دیا۔ اس پر چنگیز خاں نے غضبناک ہو کر چڑھائی کی تیاری شروع کر
 دی۔ خوارزم شاہ نے پہلے ہی حدود ترکستان پر حملہ کر دیا۔ مگر ناکام رہ کر لوٹ آیا
 مدینہ میں جس قدر شہر آباد تھے۔ ان کے باشندوں کو جلا وطنی کا حکم دیا جس سے
 وہ حصہ ملک جو دنیا کی جنت نزار تھا ویران ہو گیا۔

خوارزم شاہ کی یہ حرکت چنگیز کے لیے زیادہ سود مند ہوئی کہ وہ بخارا
 تک بغیر مزاحمت ۲۰ ہزار فوج کے ساتھ آگوا۔ اہل شہر نے علامہ بدرا لدین
 قاضی شہر کو اماں طلب کرنے کے لیے چنگیز کے پاس بھیجا۔ اُس نے نامنظور
 کیا۔ اس میں چنگیز بخارا میں داخل ہو گیا اور باشندوں کو نکل جانے کا حکم
 دیا جو بچ رہے قتل کئے گئے۔ کچھ غلام بنائے گئے۔ بخارا سا عظیم الشان شہر
 جلا دیا گیا جو صرف کھنڈر کی صورت میں رہ گیا۔ چنگیز پھر سمرقند گیا۔ اُس کا
 بھی یہی حال کیا۔ چنگیز نے ۲۰ ہزار فوج کو حکم دیا کہ خوارزم شاہ کو جہاں ہو
 پکڑ لایا جائے یہ غزنیہ میں تھا۔ وہاں سے نیشاپور گیا۔ تاتاری بلائے بے
 درماں کے مثل اُس کے ملکوں کو غارت کرتے ہوئے چلے اُس نے نیشاپور
 بھی تھوڑا۔ مگر اس حالت میں کہ دشمن عقب میں تھے۔ . . . اس پر بھی
 . . . خوارزم شاہ عیش و عشرت میں تھا۔ باوجودیکہ لاکھوں فوج اس کے

پاس تھی ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا تھا۔ گرناتاریوں کی ہدایت اس کے قلب پر مستولی ہو چکی تھی جس نے اس کو ڈرپوک بنا دیا تھا۔

بحرہ طبرستان کے اندر اس کا ایک قلعہ تھا بندرگاہ پر پہنچ کر ہمازیں سوار ہو جب روانہ ہو گیا اس وقت تاتاری ساحل پر پہنچے اب مجبوراً اس کا پھیا چھوڑ کر تاتاری ماژندان آئے اور رے کو تاخت و تاراج کر ڈالا پھر ہمدان کو لیا اور قزوین کو فتح کر کے چالیس ہزار باشندے تہ تیغ کر دیے گئے یہاں سے تاتاری آذربائیجان کی طرف بڑھے۔ تبریز کا محاصرہ کیا۔ اس کا امیر ازبک بن بہلوان تھا جو ہر وقت شراب کے نشہ میں رہتا تھا وہ مدافعت کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ وزراء نے تاتاریوں کو کچھ رقم دے کر صلح کر لی، خوارزم شاہ جزیرہ السکون میں تھا۔ یہاں بھی تاتاری آگے تو جزیرہ میں جانے کے چند روز بعد شاہ ۶۱ھ میں انتقال کر گیا۔ اس غربت میں کفن تک سیر نہ آیا۔ خوارزم شاہ تاتاری سیلاب لانے کا سبب ہوا۔ ابن اثیری روایت ہے کہ اس نے چنگیز خاں کو خود مقابلہ کی دعوت دی اور سرد تاتاری پر فوج کشی کی۔ ہر دو میں خونریز جنگ ہوئی یہ لوٹ آیا۔

علامہ الدین محمد خوارزم کے چار بیٹے قطب الدین اذلاق، غیاث الدین تیر شاہ، رکن الدین غور شاہ اور جلال الدین منکبر تھے۔ علامہ الدین نے ان چاروں میں ملک تقسیم کر دیا اور جلال الدین کو ولیعہد کیا چنانچہ علامہ الدین کے

لیے ابوالفدا ج ۳ ص ۱۴۹ جہانکشاہ ج ۲ ص ۱۰۴ کے شاہاں خوارزم کے

اسلاف میں محمد بن اوشکین تھا امیر بلباک سلجوقی نے گرجستان سے رہائی پر صفحہ ۳۶۳ پر

بعد اس نے عنانِ حکومت ہاتھ میں لی۔ مگر بھائیوں میں چل گئی یہ خوارزم
 چھوڑ کر نساہ چلا گیا۔ راہ میں تاتاریوں سے سامنا ہوا مگر لڑ بھڑ کر غز نہیں نکل
 گیا۔ تاتاریوں کو جو خبر گئی وہ خوارزم کی طرف متوجہ ہوئے قطب الدین
 ازلاق میں ان کے مقابلہ کی تاب نہ تھی۔ اس لیے وہ تاتاریوں کی آمد
 کی خبر سن کر خوارزم سے نکل بھاگا۔ مگر راہ میں تاتاری ہی مل گئے۔ انہوں نے اس
 ہڈول اور نامرد کو مع خدم و حشم کے گھیر لیا اور تلوار کے گھاٹ اتارا ان تاتاریوں
 کی کمان چغتائی اور اکتائی کے ہاتھ میں تھی یہ لوگ خوارزم پہنچے، خوارزم پر
 ٹھارتر کی حاکم تھا۔ چنانچہ اس سے مقابلہ ہوا تو بہت مردانہ سے لڑتا رہا۔ جب
 تاتاری مجبور ہوئے تو فضیل شہر توڑ کر اندر گھس گئے اور شہر کو لوٹ لیا اور
 ویران کر ڈالا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد دریا کے بند کو جس کے ذریعہ شہر میں
 پانی آتا تھا کھول دیا جس سے سارا شہر مع آبادی کے تہ آب ہو گیا۔

بقیہ نوٹ صفحہ ۳۶۲) نوشتکین کو خرید کیا تھا اور نسل اولاد کے اس کو تعلیم و تربیت دی
 نوشتکین نے اپنے بیٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی یہ خوارزم کا والی ہوا۔ سلطان برکیارق
 نے اس کو خوارزم شاہ کا لقب بخشا۔ اس نے اپنی لیاقت اور انصاف پسندی سے
 ہر و عزیزی حاصل کر لی۔ سلطان سنجر نے بھی خوارزم کی حکومت پر اس کو بحال رکھا وہاں
 ۵۳۱ھ میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا التغر مقرر ہوا یہ نہایت مدبر اور
 شجاع تھا۔ سلطان مسعود کی جگہ پر یہ خوارزم کا مختار حکمراں ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان

چنگیز نے خود ترمذ پر فوج کشی کی۔ اس پر قبضہ کر کے باشندوں کو قتل کرا
 دیا۔ یہاں کے بعد بدخشاں کی ولایت فتح کی پھر بلخ پہنچا یہاں سے تولی
 خاں کو خراسان بھیجا اور خود طالقان گیا۔ چنگیز خاں نے ترمذ اور بلخ کی طرح
 طالقان بامیاں کی آبادی کو بھی ختم کرا دیا۔ بامیاں کے بعد چنگیز جلال الدین
 کے مقابلہ کے لیے غزنین پہنچا۔ جلال الدین ہندوستان چلے جانے کے لیے
 دریائے سندھ پر پہنچا۔ چنگیز نے وہاں اس کو گھیر لیا۔ جلال الدین نے اپنی مختصر
 سپاہ کے ساتھ اس شجاعت سے مقابلہ کیا کہ تاتاریوں کی صفیں اٹک دیں
 لیکن تاتاریوں نے تین طرف سے جلال الدین کو گھیر لیا۔ آخر میں جلال الدین
 نے لڑتے لڑتے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور تیزی سے تیرتا ہوا نکل گیا
 اہل و عیال کو چنگیز نے گرفتار کر لیا اور اولاد و ذکور کو قتل کر دیا۔

چنگیز نے غزنہ اور غور پر قبضہ کر کے پوری آبادی کو قتل کر دیا اور
 لوٹ مار کر کے ویران کر دیا۔ جلال الدین کے تعاقب میں چنگیز نے ہندستان
 فوج بھیجی اس نے پنجاب تک پہنچا کیا۔ لیکن جلال الدین ہاتھ نہ آیا۔ تاتاری پنجاب
 اور ملتان کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے واپس گئے۔ تاتاری خراسان
 فارس، آذربائیجان، ارمنستان، اران، کوچ اور قفقاز کے سارے علاقے
 زیرِ زبر کرتے ہوئے روس کے علاقے تک پہنچ گئے اور تاتاری اس طرف
 متوجہ تھے۔ اب اقصائے چین سے عراق، بحرِ خضر اور حدودِ روس تک اور
 بحرِ شمالی سے سرحدِ کاعرلین و طولی رقبہ چنگیز کے قبضہ میں تھا۔

نوٹ: چنگیز نے اپنے چار بیٹوں جو تاتی خاں، چغتائی، تولی خاں اور کدائی کو یہ تمام
 مقبوضہ علاقے تقسیم کر دیے۔

جلال الدین ۶۲۱ھ میں کرمان ہو کر واپس آیا۔ عراق اور فارس غیاث الدین سے لے کر اتابک سعد کا علاقہ اُس کے حوالے کیا اور غیاث الدین کو اپنے ماتحت کر کے عراق کی حکومت پر بحال رکھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر خوزستان (علاقہ خلافت آب) پر فوج کشی کر دی۔ خلیفہ ناصر نے امیر قسمر کو حکم دیا کہ اُس سے بڑھ لے۔ چنانچہ قسمر نے قسمر کو بچا لیا۔ باقی خوزستان جلال الدین کے ہاتھوں پائمال ہوا۔ اُس نے چنگیز سے بڑھ کر مسلمانوں پر ظلم توڑے۔ پھر بغداد کی طرف جلال الدین نے رخ کیا۔ منظر الدین کو کبریٰ والی موصل کو ناصر نے مقابلہ کے لیے بھیجا وہ اس سے ساز باز کر گیا جلال الدین نے آذربائیجان لے کر تبریز پر قبضہ کیا۔ پھر گرستان پر متصرف ہوا پھر گنجد پر بھی قبضہ جمایا۔ اس سے جلال الدین کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔

علامہ الدین بن تلمش بن ارسلان بن سلطان شاہ
 محمود بن ارسلان بن التسر بن محمد بن انوشکین

علامہ الدین با عظمت فرمانروا تھا۔ اس کی سلطنت کا رقبہ نہایت وسیع تھا عراق سے لے کر ایک طرف چین کی سرحد تک اور دوسری طرف کابل اور مغربی ہندوستان تک اس کی سلطنت کا دائرہ پھیلا ہوا تھا۔ عجم، کرمان، طبرستان، جرجان، عراق، عجم، خراسان اور فارس کے کچھ حصے اس کے زیر نگیں تھے۔ خطا کے علاقے بھی تصرف میں تھے۔ علامہ الدین فاضل فقیر مذہبی علوم کا ماہر، علم و ورست اور علما نواز تھا۔ اس کی ذات میں خوبیاں جمع ہیں

اکیس سال اس نے حکمرانی کی۔

اس کے آستانہ پر بڑے بڑے سلاطین و امرا جمع رہتے تھے۔ مگر خلافت
 بنی عباس سے ٹکڑے لینے کے ارادے نے اس کی عظمت کو خاک میں ملا دیا
 خلیفہ ناصر کی سیاسی چال نے چنگیز کے ہاتھوں اس کی حکومت کے ٹکڑے
 اڑوا دیے اور اس کی بدولت لاکھوں مسلمان تاتاریوں کے ہاتھوں قتل
 ہوئے اور جو شہر صد ہا برس میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کے مرکز بنے تھے
 تباہ و برباد ہوئے۔ خلیفہ ناصر باللہ اور علامہ الدین کی کنکشن کا نتیجہ ایک بڑے
 اسلامی علاقے کو بھگتنا پڑا۔

وفات ناصر الدین اللہ | خلیفہ ناصر ۶۱۹ھ میں فاج میں مبتلا ہوا۔

حرکت جاتی رہی۔ ایک آنکھ بھی نہ رہی آخر
 رمضان ۶۲۲ھ میں ۴۷ برس حکمرانی کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔

اوصاف | علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ ناصر ذمی علم اور صاحب
 فنون مختلف تھا۔ متعدد فنون میں اس کی تالیفات ہیں۔

ذہبی کہتے ہیں کہ کسی عباسی خلیفہ نے ناصر لدین اللہ کے برابر خلافت
 نہیں کی وہ ۴۷ سال خلیفہ رہا اور مدت العمر عزت و جلال کی حالت
 میں رہا۔ تمام دشمنوں کو تباہ کیا۔ بادشاہوں سے انہما را طاعت کہا یا۔ کسی
 شخص کو اس سے سرکشی کی جرأت نہ ہوئی اور جس نے اس کی سرکوبی
 کر دی گئی۔ جس نے اس سے گستاخی کا ارادہ کیا۔ خدائے اے سے تباہ کیا۔

۱۸۴ ص ۳۳ ج ۱۲۸ ابن خلدون ج ۹ ص ۱۸۴

عجب اقبال منہ شخص تھا۔ اپنے دادا کی تمام خوبیاں اس میں جمع تھیں
ابن طقطقی لکھتا ہے کہ

وہ بڑا فاضل اور ممتاز خلیفہ تھا۔ جملہ امور میں بصیرت رکھتا تھا

یاست و اہل، باہیت، اجڑی، بہا اور ہجرت طبع۔ حاضر بلوغ

ذہین طبع۔ فصیح و بلیغ۔ کسی سے علم و فن میں کم نہ تھا۔

نظام مملکت | ادا ثقی با شد کے بعد سے دولت بنی عباس کا نظام سلطنت
بگڑنا شروع ہوا۔ مگر ناصر کے دادا نے سنبھالا لیا اور ناصر
نے اپنے قلمرو کا بے حد انتظام کیا۔

ذہبی کا بیان ہے

مصالح ملک میں سخت اہتمام کرتا تھا چھوٹے بڑے غرض تمام

رعایا کا حال اس سے پوشیدہ نہ تھا۔ راتوں کو گایوں میں پایاد

گشت لگاتا تھا۔ اس سے رعایا اور عمال سب ڈرتے تھے۔

محکمہ مخبر و پرچہ نگار | ناصر نے مخبر اور پرچہ نگار کا ایک محکمہ قائم کیا ہر شہر میں
اس محکمہ کی طرف سے مخبر و پرچہ نگار مقرر کئے۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں

روزانہ تمام بادشاہوں کی خبریں اس کو پہنچ جاتی تھیں شاہ

مازندان کا ابھی بغداد آیا۔ اس کا پرچہ نگار اس کے

شبینہ افعال و اعمال کا پرچہ ہر صبح خلیفہ کو پہنچا دیتا تھا ابھی

کو پہ لگ گیا۔ اُس نے یہ حالات دیکھ کر اسے تمام کام نہایت
 احتیاط سے پوشیدہ طور پر کرنے شروع کئے۔ مگر جتنا کام وہ
 پوشیدہ کرتا تھا۔ اتنا ہی انصافاً اُس کے واقعات پیشی پر اظہار
 کر دیتا۔ ایک دن ایلچی نے ایک بیوا چور دروازہ سے بلوانی
 رات بھر وہ پاس رہی۔ صبح اُس کا پرچہ لگ گیا جو نجان اُسے
 ہوئے تھے۔ اس پر ایلچی کی تصویر بنی تھی۔ خلیفہ کی خدمت
 میں جب ایلچی حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس سے رات کی کیفیت
 بیان کر دی ایلچی گھبرا گیا۔ اور اُس کو کامل یقین ہو گیا کہ
 خلیفہ کو علم غیب حاصل ہے۔

خوارزم شاہ کا ایلچی اپنے بادشاہ کا مخفی سر مہر خط لے کر آیا حاضرین
 اللہ نے اُسے دیکھتے ہی کہہ دیا۔
 ”مجھے اس خط کا مضمون معلوم ہے تم واپس جاؤ اس کا جواب
 پہنچ جائے گا“

سخت | ایک شخص ہندوستان سے خلیفہ کے واسطے ایک طوطا لے کر آیا
 جو قتل ہوا تھا اور پڑھتا تھا۔ راستہ میں ایک رات کو وہ
 مر گیا۔ اُس شخص کو بہت رنج ہوا۔ اتنے میں اس کی قیام گاہ پر خلیفہ کا خادم
 آیا اور طوطا طلب کیا وہ رو پڑا اور کہنے لگا وہ مر گیا۔ خادم نے کہا وہ مجھ کو دو
 اور اُس سے کہا کہ تجھ کو کتنے انعام کی توقع تھی۔ اُس نے کہا۔ پانچ سو تیارگی

لے تاج الخلفاء ص ۳۱۴

خادم نے وہیں پانچ سو دینار کمر سے کھول کر اس کو دیے اور کہا جس روز تو ہندوستان سے چلا ہے خلیفہ کو تیری آمد کی اطلاع ہو گئی تھی۔

ذہبی کا بیان ہے کہ ناصر جب کھلتا تھا یعنی لیتا دیتا تو اسودہ حال کر دیتا تھا جب سزا دیتا تھا تو سخت سزا دیتا۔

الناصر بیست و جلال کا خلیفہ تھا۔ اراکین سلطنت، اور اعمال حکومت ناصر سے لرزہ بر اندام رہا کرتے تھے بغداد سے دور ہند، مصریوں کے حکمران بھی ناصر سے خوف زدہ رہتے تھے۔

ایمان سلطنت ناصر کا ذکر خادو توں میں بھی وہی آواز سے کرتے تھے۔
بنی عباسی کے قلمرو کے علاوہ ناصر کا چین اور اسپین میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

خوش خلق، خوبصورت، فصیح اللسان۔ بلخ البیان شخص تھا اس کے فرامین علم و ادب کے اچھے نمونے ہیں۔

ابن واصل کہتے ہیں
ناصر نہایت شجاع صاحب فکر اور عقل رسا تھا۔ پولٹیکل چالیں خوب چلتا۔

ابن بخار کا بیان ہے
ناصر کے پاس سلاطین آتے تھے اس کی اطاعت قبول کرتے
مخالف اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے اور اس کی تلوار نے تمام

سے تاریخ الخلفاء ص ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶

سرکشوں کو سزنگوں کر دیا تھا۔ اس کا ملک اس قدر وسیع ہو گیا
تھا کہ آخری خلفا بنو عباس میں سے کسی کا نہ تھا۔

درستی مزاج و حرص و ولت | ناصر میں خوبیاں زیادہ تھیں۔ مگر ایک درشتی
مزاجی اور حرص و ولت نے اس کے اوصاف

کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ حصول زر کے لیے اس نے رعایا پر بعض
اوقات بڑی زیادتی کی۔ نئے ٹیکس جاری کئے۔ مال و جائداد کے لیے سیکڑوں
آدمیوں کو جیل میں بھر دیا۔ خراج کی مقدار غیر معمولی حد تک بڑھا دی۔ ابن
نے لکھا ہے کہ ناصر کے ظلم سے عراق و ایران ہو گیا۔ مگر اور کسی تاریخ سے اس
ثبوت نہیں ملا۔

مگر ناصر کے واقعات زندگی بتاتے ہیں کہ ٹیکس رعایا سے لیتا اور رفا
عام میں خرچ کرتا تھا خود اپنی ذات پر صرف نہیں کرتا۔ لہو و لعب میں مبتلا
نہ تھا۔

علمی ترقی | الناصر کے عہد میں بغداد علم و فضل کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے
عہد میں بڑے بڑے آئمہ کبار علوم فنون کے تھے۔ شیخ الشیوخ

شہاب الدین سہروردی۔ علامہ مرغینانی صاحب الہدایہ، قاضی خوار
صاحب الفتویٰ۔ ابوالفرج بن جوزی، عماد کاتب۔ امام فخر الدین رازی
نجم الدین کبریٰ۔ فخر الدین بن عساگر۔ ابوالقاسم البخاری العثماني صاحب
الجامع البکیر سے علمائے تھے۔ خود ناصر فاضل یگانہ تھا۔ الموفق عبد اللطیف

۱۳۱۳ھ میں ایضاً

کا بیان ہے کہ وسط ایام خلافت میں ناصر کو تحصیل علم حدیث کا شوق ہوا اور دور دورے
محدثین بلائے گئے۔ ان سے حدیث پڑھی اور سنی اور اجازت حاصل کی۔ پھر خود
بہت سے بادشاہوں اور علماء کو اپنی طرف سے اجازت روایت حدیث دی
ایک کتاب میں، حدیثیں جمع کر کے حلب بھیج دیں۔ ذہبی نے ابن سکینہ، ابن
الاحضر، ابن النجار، ابن دامغانی وغیرہ کو ان لوگوں میں بتلایا ہے جنہوں نے
الناصر سے اجازت روایت حدیث حاصل کی ہے۔

ناصر کے عہد میں مسلمان اقطاع عالم علمی چل چل میں لگے ہوئے تھے
نئی نئی گورنمنٹیاں بن گئی تھیں۔ مگر حکمران خود علم سے دلچسپی لیتے تھے چنانچہ
سارٹان لکھتا ہے۔

اس دور میں دنیا کے اہم کاروبار مسلمان ہی چاروں طرف انجام
دیتے تھے سب سے بڑا فیلسوف الفارابی مسلمان تھا سب سے
بڑا ریاضی دان ابو کمال شجاع بن اسلم اور ابراہیم بن سنان
مسلمان تھا۔ سب سے بڑا جغرافیہ نویس اور عالم متحرک سعودی
مسلمان تھا۔ سب سے جید مورخ الطبری مسلمان تھا یہ سچ ہے
سب سے بڑا فاضل طبیب اسحق اسراہیلی مسلمان نہ تھا لیکن
عربی بولنے والا اور حکمائے اسلام کا شاگرد ضرور تھا۔

رفاہ عام | ناصر نے رعایا کے لیے فلاح و بہبود کے بھی بہت سے
کام انجام دیے۔

ابن طفطقی کا بیان ہے کہ

اس کے کار خیر اور اوقات حد شمار سے باہر ہیں اس نے
بکثرت مسجدیں، خانقاہیں اور مسافر خانہ بنوائے۔

علمائے عہد ناصر | حافظ ابو طاہر سلفی۔ ابوالحسن بن القصار للغوی۔ کمال

الدین ابوالبرکات بن الانباری۔ شیخ احمد بن قاعی

زاہد۔ ابن بشکول یونس، وہبی، یونس شافعی۔ ابوبکر بن طاہر الماحد بن النخوی

ابوالفضل درافعی۔ ابن بلکون نخوی، عبدالحق الشیلی صاحب الاحکام، ابو

زید السہیلی صاحب الروض الالفت۔ حافظ ابو موسیٰ المدینی، ابن بری للفوی

حافظ ابوبکر الحازمی، شرف بن ابی عصرون، ابوالقاسم البخاری عثمانی صاحب

جامع الکبیر، نجم ایجولی المشہور باباصلاح۔ ابوالقاسم بن خیرة الشاطبی صاحب

العقیدہ، فخرالدین ابوشجاع محمد بن علی بن شعیب بن الامام الفرغنی روضہ

فرانیض، عبدالرحیم بن حجرون الزاہد، ابوالولید بن رشید صاحب العلوم الفلسیہ

جمال بن فضلان شافعی، قاضی صاحب الانشاء والترسل۔ شہاب طوسی

ابوالفرج بن ابجوزی۔ عماد الکاتب، ابن عظیمہ المقری۔ حافظ عبدالغنی

المقدسی صاحب العمدہ۔ رکن الطائوس صاحب انخلاف شہمی العسلی

ابو ذراخش النخوی، امام فخرالدین رازی، ابوالسعادات ابن اثیر صاحب

جامع الاصول ونہایت الغرب، عماد بن یونس صاحب الشرح الوجیز،

شرف صاحب التبیہ، حافظ ابوالحسن بن المفضل۔ وجیہ الامان النخوی،

ابو ایمن الکندی الخومی، معین الساجری صاحب کفایہ شافعی۔ ابوالبقا
العسکری صاحب الاعراب، عبدالرحیم بن سمعانی، نجم الدین کبریٰ۔ موفق
الدین قدامتہ اکنلی۔ فخر الدین بن عساکر۔

فقہا و محدثین | علی بن ابراہیم ناصر الدین ابو علی غزنوی۔ اصولی و فقیہ و
مفسر مولف مشارع مع شرح منابع ۵۸۲ھ میں فوت
ہوئے۔

احمد بن محمد بن عمر ابوالنصر زاید الدین عتابی بخاری عالم زاہد مولف
بسیط شرح زیادات عتابی فتاویٰ عتابیہ ۵۸۶ھ میں انتقال ہوا۔
عماد الدین بن شمس الائمہ بکر زرخبری فقیہ ۵۸۴ھ میں فوت ہوئے۔
ابوبکر بن مسعود بن احمد کاشانی ملک العلماء علامہ الدین شاگرد
علامہ الدین محمد سمرقندی مولف تحفۃ الفقہاء سلطان البین فی اصول الدین
۵۸۷ھ میں وفات ہوئی۔

احمد بن محمود بن ابوبکر صالونی فقیہ فاضل ہدایہ و کفایہ و مختصر ہدایہ
تالیف کیں۔ شمس الائمہ کروی آپ کے شاگرد تھے ۵۹۵ھ میں انتقال کیا۔
مطہر بن حسین بن سعد قاضی القضاة جمال الدین بزوی کے خاندان
سے تھے جامع صغیر و عفرالی کی شرح تہذیب نام لکھی اور مشکل الآثار طحاوی
اور لؤادرا بوللیٹ کو لخص کیا۔ علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ
آپ کے تحت میں بارہ مدارس تھے ۵۹۵ھ میں فوت ہوئے۔

محمد بن عمر بن عبداللہ نیشاپوری شیخ ابوبکر رشید الدین امام فقیہ مولف

فتاویٰ رشید الدین ۵۹۷ھ میں انتقال ہوا۔

احمد بن محمد بن محمد خطیب خوارزم موفق الدین شاگرد نجم الدین نسفی
و جبار السدز محشری ۵۹۸ھ میں وفات پائی۔

علی بن احمد بن علی حسام الدین رازی مولف شرح قدوری خلاصۃ
الدلائل و تنقیح المسائل ۵۹۸ھ میں فوت ہوئے۔

محمود بن عبید اللہ بزودی کتاب عون یادگار ہے ۶۰۶ھ میں فوت ہوئے
سعید بن سلمان کندی علمائے اعلام سے تھے تالیف ار جوزۃ الحدیث
مسمیٰ شمس المعارف و ائیس العارف ہے ۶۱۶ھ میں فوت ہوئے۔

محمد بن احمد بن عمر بخاری ظہیر الدین شاگرد شیخ حسن بن علی ظہیر الدین
مرغنیانی فتاویٰ ظہیریہ یادگار ہے۔ ۶۱۹ھ میں وفات پائی۔

بدیع بن منصور قرظی، مفسر، فقیہ شاگرد نجم الدین نجم الاممہ بخاری
مولف منتہی الفقہاء ۶۲۰ھ میں انتقال ہوا۔ سیواس میں دفن ہوئے۔

علامہ عیسیٰ بن ناک عادل سینا الدین ابو بکر فزون فحہ اور حدیث بلاغت
وغیرہ کے ماہر تھے آٹھ برس مصر میں بادشاہ رہے شاگرد جلال الدین محمود

حصدی اپنے وقت میں علما کے بڑے قدروان بہت سی کتابیں جمع کیں
ان کے عہد میں لغت جامع کبیر، مجموعہ صحاح و جمہرہ ابن درید لکھی گئی تھیں

مسند احمد بالواب فقہ و انسہم المصیب فی الرد علی الخطیب وغیرہ لکھی گئیں
خود جامع کبیر امام محمد کی شرح ضخیم لکھی علاوہ اس کے کتابا عروض یادگار

۶۲۴ھ میں انتقال کیا۔

ابو الحسن علی بن اسعد بن رضانی الاستانی المقرئ النخراط حدیث
کی سماعت ابی الفتح محمد بن عبد الباقی بن احمد بن احمد بن سلمان سے کی۔
ماہ ربیع الاول ۶۰۲ھ میں وفات پائی۔

الحسن بن احمد الہمدانی مین کار رہنے والا تھا۔ جغرافیہ سے دل لگاؤ
رکھتا تھا۔ اُس نے آثار قدیمہ کی بڑی تحقیق کی۔ الاکیل اور صفت جزیرۃ
العرب مشہور و معروف اس کی یادگار ہیں۔ حکومت نے اُن کو کسی وجہ
سے قید کر دیا چنانچہ صنعا کے محبس میں ۹۲۵ھ میں انتقال کیا۔

حسن بن منصور بن محمود روزجندی محض الدین قاضی خاں شاگرد محمود
بن عبدالعزیز تالیفات میں فتاویٰ قاضی خاں و شرح زیارات معروف
ہیں ۵۹۲ھ میں فوت ہوئے۔

یوسف بن حسین بن عبدالشہر بدر امیض شاگرد برہان بلخی دمشق میں ۵۹۲ھ
میں فوت ہوئے۔

علی بن احمد بن علی حسام الدین رازی مفتی مذہب حنیفہ مولف شرح
قدوری ۵۹۵ھ میں انتقال ہوا۔

منظف بن یوسف الارموی ادیب زمانہ سے تھے اس کا لڑکا یونس فاضل
اور کاتب تھا جو ناصر کے دربار سے متعلق تھا۔

کے معجم البلدان ج ۱ ص ۲۳۳ کے مقدمہ فتاویٰ ہندیہ دعا لکیری کے معجم البلدان ص ۲۰۳

خليفة طاہر باہر اللہ

نام و لقب | ابو نصر محمد بن ناصر الملقب بہ طاہر باہر اللہ ۵۷۱ھ
پیدا ہوا۔

تعلیم و تربیت | فاضل باپ کے خلف ارشد تھے۔ تعلیم و تربیت شاہ
طور سے ہوئی۔ اپنے والد سے روایت حدیث کی اور

پائی اور ان سے ابو صراح بن نصر بن عبدالرزاق بن حضرت شیخ عبدالقادر
جیلانی نے روایت کی ہے۔

خلافت | ناصر کی وفات کے بعد پہلی شوال ۶۲۲ھ کو ابو نصر محمد تخت
خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ عمر اس وقت ۵۲ سال
تھی۔ لوگوں نے کہا۔ آپ فتوحات کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ آپ
فرمایا۔ میرا کھیت تو سوکھ چکا ہے۔ بریکار طمع سے کیا فائدہ ہے لوگوں۔
کہا کہ خدا آپ کی عمر میں برکت دے گا۔ جواب دیا کہ جس شخص نے شاہ
کو دوکان کھولی وہ خاک کماے گا۔

عدل و انصاف | ابن کثیر کا بیان ہے کہ الظاہر تخت خلافت پر بیٹھا
اتنا عدل و احسان کیا کہ پچھلے دو خلفائے بھی نہ کہیں

السنہ تاریخ الخلفاء ص ۳۱۸

اگر یہ کہا جائے کہ بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان جیسا کوئی خلیفہ نہیں ہوا
 تو بالکل صحیح ہے۔ جتنے اموال و املاک ان کے باپ دادا نے ضبط کئے
 تھے یا کام میں لائے تھے۔ مستحقین کو واپس کر دیئے۔ نئے ٹیکس تمام معاف
 کر دیے اور حکم دیا کہ جو قدیم میں خراج تھا وہی قائم رہے۔ ایک دفتر کا افسر واسطے آیا
 اس کے پاس ایک لاکھ دینار سے زیادہ تھے جو ظلم سے اس نے پیدا کئے تھے خلیفہ
 نے کہا۔ یہ تمام مال مستحقین کو واپس کر دو۔ جو لوگ قرضہ کی علت میں تھے ان کو
 رہا کر دیا اور قاضی کو دس ہزار دینار بھی دیئے کہ ان کا قرضہ اتار دیا جائے
 عید اصحی کے روز علما و صلحا کو ایک لاکھ دینار تقسیم کر دیئے اس
 سخاوت تمام روپے میں ایک حبہ ایسا نہ تھا کہ کسی سے زبردستی یا خلاف
 رضا مندی وصول کیا گیا ہو۔

سبط ابن جوزی کا بیان ہے کہ
 ایک روز انطاہر خزانہ کی طرف آنکے۔ ان کے غلام نے کہا
 کہ یہ خزانہ آپ کے والد کے وقت کا ہے اور بھر لو رہے۔ آپ
 نے فرمایا کہ آخر میں کیا تدبیر کروں کہ یہ خزانہ پھر بھر جائے مجھے
 تو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے خالی کرنا آتا ہے جمع کرنا
 سوداگر کا کام ہے۔

انطاہر نے نوہینہ فرائض خلافت انجام دے کر ۱۵ رجب
 وفات ۶۲۳ھ کو وفات پائی

لے تاریخ الخلفاء ۳۱۹ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ تاریخ الخلفاء ۳۱۹

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس نے قبل وفات بخط خاص ایک فرمان وزیر کو لکھا تھا جو اراکین دولت کے روپر پڑھا گیا۔
وزیر نے تمام اراکین سلطنت کو جمع کیا تو خلافت آب کے قاصد نے کھڑے ہو کے کہا۔

”امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہماری غرض یہ نہیں ہے کہ صرف اس قدر کہنے پر اکتفا کیا جائے کہ دربار خلافت سے یہ فرمان آیا ہے یا یہ حکم صادر ہوا ہے بعد اس کے اس کا کوئی اثر نہیں محسوس نہ ہو بلکہ اس مزبانی گپ شپ کو چھوڑ دو اور اس پر عمل درآمد کرو۔“

قاصد اس قدر کہہ کے خاموش ہو گیا فرمان کھولا گیا تو اس میں بعد بسم اللہ کے لکھا ہوا تھا۔

توقع عام

آگاہ ہو جاؤ کہ ہماری یہ تاخیر مہل اور بیکار نہیں ہے اور ہماری یہ چشم پوشی غفلت پر مبنی ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص اچھا کار گزار ہے اس سے پیشتر ویرانی ملک، بربادی رعایا تخریب شریعت کی کار دیا جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور نیز براہ کرد فریب جو جھوٹی باتوں کو سچائی کے لباس میں ظاہر کیا کرتے تھے اور بیخ کنی و ہلاکت رعایا کو حق رسی و دادرسی سے تعبیر کرتے تھے ہم نے

ان سب ہمتاے افعال ذمیمہ و حرکات قبیحہ سے درگزر کیا۔
افسوس ہے کہ تم نے اس فرصت کے وقت کو منعمات سے شمار کر کے
خوف ناپاک اور مہیب شیر کے پنجوں اور دانتوں کی طرح سے
خلق اللہ کو چیر بھاڑ ڈالا تم لوگ ایک ہی بات کو با لفاظ مختلف
کہا کرتے ہو۔ حالانکہ تم علم خلافت کے امین اور معتمد علیہ ہو تم
لوگ اپنی خواہشات کی طرف خلافت تاب کی رائے کو باطل
کر لیتے ہو اور حق و باطل کو ملا جلا دیتے ہو اس سے بھجوری
ہمتا می رائے سے موافقت کی جاتی ہے بظاہر مطیع اور
فرمانبردار ہو۔ لیکن حقیقت میں تم حد درجہ کے نافرمان اور
متمرد ہو صورتاً موافقت کا پیرایہ اختیار کرتے ہو اور حقیقتاً
پورے پورے مخالف اور سرکش ہو۔ اے محمد اللہ کہ اب اللہ
سچا نے ہمتا رے خوف کو امن سے، محتاجی کو غفلت سے اور
باطل کو حق سے تبدیل کر دیا اور ایک ایسا فرمانبردار خلیفہ
تم کو عنایت کیا ہے جو ہمتا رے عذرات کو قبول کرے گا
اور اس شخص سے مواخذہ اور انتقام لے گا جو اپنی خطاوں
پر مصر ہو گا اور اپنی حرکات نامعقول سے باز نہ آتا ہو گا۔
امیر المؤمنین تم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں
اس کا یہی مقصد ہے کہ تم لوگ ہمیشہ عدل و انصاف سے
رہو اور بجا ظلم و کاروائی سے احتراز کرتے رہا کرو امیر المؤمنین

کو ظلم و ستم بے حد ناگوار اور ناپسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُس
سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی ناراضی سے امیر المؤمنین خائف
و ترساں ہیں۔

اُمید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتم لوگوں کو اپنی اطاعت کی
ترغیب و توفیق دے گا۔ پس اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا جو
ملک خدا میں اُس کے نائبوں اور امینوں کا ہے تو نورِ علی
نورِ زرتہ یا ورکھو کہ ہلاک و تباہ ہو جاؤ گے۔

خلیفہ مستنصر باللہ

ابو جعفر منصور مستنصر باللہ بن ظاہر ہارثی ایک ترکیا ام ولد کے بطن سے ۵۸۸ھ
میں پیدا ہوا

مستنصر ۱۴ رجب ۶۲۳ھ کو سرپرارائے تخت خلافت ہوا۔
خلافت یہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلا۔ دنیا میں عدل پھیلا یا اور مقدمات
 میں انصاف کیا۔ اہل علم و دین کو اپنا مقرب بنایا۔ دین کو مضبوط کیا متمر دین کا قلع و قمع
 کیا۔ سنت کو رواج دیا نقتوں کو مٹایا لوگوں کو سنت کی طرف مائل کیا اور جہاد
 میں تندہی کی نصرت اسلام کے لئے شکروں کو جمع کیا۔ سرحد کی حفاظت کی
 اور بہت قلعے فتح کئے۔ آگے جا کر نظام بگڑ گیا۔ کیونکہ خلافت سنبھل نہ سکی۔ اسکے
 سامنے امرائے دولت عباسیہ خود سری کرنے لگے۔

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ

اس نے بھی اپنے مرحوم باپ کا رویہ اختیار کیا مگر یہ کہ اس کے
 عہد خلافت میں شیرازہ حکومت درہم پرہم ہو گیا۔ خراج کم ہو گیا۔
 صوبجات بٹ گئے۔ ان وجوہات سے لشکریوں کی تنخواہیں ادا
 نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور نہ ان کے وظائف دئے جاسکے۔

مجبوراً لشکر کا حصہ کثیر موقوف اور تخفیف کرویا۔ جس سے سبید
تغیرات وقوع میں آئے۔

تاتاری تغلب و استیلا بڑھتا آ رہا تھا انہوں نے بلا دروم کو غیاث الدین
کینخسراخری بادشاہ بنی فلج ارسلان کے قبضہ سے نکال لیا اور اس کے بعد انھوں نے بلا دروم
کو تاخت و تاراج کرویا۔ غیاث الدین نے تاتاریوں سے امن طلب کی
انہوں نے اپنی طرف سے بلا دروم پر اس کو مقرر کیا۔

خلیفہ مستنصر باللہ دار الخلافت بغداد میں انہی بلا دروم پر حکمرانی کر رہا تھا
جو گورنران صوبجات اور اطراف و جوانب کے والیان ملک کے دستبردار اور
قبضہ و تصرف سے بچ رہے تھے۔ مگر زیادہ دن نہ گزرنے پائے کہ ان صوبوں
پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ اور انھوں نے والیان ملک کو زیر کر کے انکی
دولتوں اور حکومتوں کا نام صلفحہ ہستی سے محو کر کے دار الخلافت بغداد کو تاخت
تاراج کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔

جلال الدین شاہ خوارزمی | جلال الدین کا اقتدار عراق۔ فارس۔

اگرستان آذربائیجان اور خلاط وغیرہ
پر قائم ہو گیا۔ اکتائی خان نے اس کے اندر کی طرف توجہ کی ۶۲۳ھ
میں چنگیز خان مرجک تھا اس کے بیٹے اپنے اپنے علاقے کی توسیع میں لگ
گئے۔ چنانچہ اکتائی نے امیر حرماغوں کو انشی ہزار فوج کے ساتھ جلال الدین
کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ جلال الدین خلاط تھا اسے خیرگی اس نے

علہ ابن خلدون ج ۹ صفحہ ۱۹۷ ابن خلدون ج ۹ صفحہ ۱۸۷ ابن خلدون
ج ۹ صفحہ ۱۸۷ تجریمۃ الامصار و تجریمۃ الاعصار (تاریخ و صاف)

خلافت مآب اور شام کے اُمراء کو مدد کے لئے لکھا مگر کسی نے معاونت نہ کی۔ تاتاری خلاط پہنچے یہ آمد گیا یہاں بھی فوج تاتاری آگئی۔ یہ کوہستانی علاقہ میں روپوش ہوا۔ ایک کر دے اس کا تلوار سے کام تمام کر دیا اس کے مرتے ہی خوارزمی حکومت ختم ہو گئی۔ تاتاری جلال الدین کے علاقہ پر قابض ہو گئے تو عباسی سرحد پر یورش کی مگر مستنصر کی فوجوں نے نپا کر دیا۔

مستنصر خانوادہ بنی عباس کا چشم چراغ تھا۔ اسلوات سے **علی ذوق** اور شہ میں علوم دینی پائے۔ خود عالم اور علماء کا قدردان تھا۔

ابن واصل نے لکھا ہے کہ مستنصر نے وجہ کے **مدرسہ مستنصر اللہ** کنائے شرقیہ پر ایک مدرسہ بنایا کہ اس سے بہتر دنیا میں نہ ہوگا۔ اور اس میں چاروں مذہبوں کے واسطے چار مدرسے مقرر ہوئے مدرسہ سے متعلق شفاخانہ اور فقرا کے لئے باورچھانہ بنوایا۔ اور ان کے استعمال کے لئے مکان۔ چار پائی بستر چراغ تیل وغیرہ اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا۔ نیز حمام اور خدمت گار بھی ان کے لئے مقرر تھے ایسا مدرسہ دنیا میں نہ تھا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ اس مدرسہ کی عمارت کی تعمیر ۶۳۲ھ میں شروع ہو کر ۶۳۱ھ میں ختم ہوئی۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی تھا جس میں ایک سو ساٹھ اونٹوں پر لاد کر نہایت نفیس نایاب کتابیں

آئیں اور کتب خانہ میں رکھی گئیں۔ دو سو اڑتالیس فقیر طالب علم روزانہ کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔

مدرسہ میں چار مدرس حدیث۔ نحو۔ طب و فرائض کے علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان کے لئے کھانے پینے کا انتہام بھی تھا۔ یہاں یتیموں کے لئے بھی انتظام تھا۔ مستنصر نے مال کثیر اس کے لئے وقف کیا تھا جس میں کثیر التعداد گاؤں تھے۔ مدرسہ کا بروز پنجشنبہ ماہ ربیع الثانی ۶۲۵ھ میں افتتاح ہوا عمائد ملک شریک تھے۔

۶۲۸ھ میں ملک اشرف نے دارالحدیث اشرفیہ قائم کیا جس کی تکمیل ۶۳۰ھ میں ہوئی۔

مستنصر نے سونے کے درہم مشکوک گرائے تاکہ سونے کے چھوٹے ٹکڑوں کا چلن موقوف کر دیا جائے۔

۶۳۵ھ میں قاضی شمس الدین احمد الخونی قاضی دمشق کے گئے۔
۶۳۴ھ میں شیخ عین الدین بن عبد السلام کو عہدہ خطابت دمشق کا ملا۔

مستنصر نے مساجد سرائیں۔ مدارس شفا خانہ کثرت سے اتنا رخیر اپنے قلمرو میں بنوائے۔

مستنصر نے ۱۵ جمادی الاخر بروز جمعہ ۶۴۰ھ کو انتقال کیا۔

مجموعہ علماء

ابو القاسم الراعی جمال المصری۔ سکاکی صاحب المفتاح۔ حافظ
 ابوالحسن بن القطان یحییٰ بن معطلی صاحب الفیہ۔ موفق عبداللطیف بغدادی
 حافظ ابوبکر بن نقطہ۔ حافظ عزیز الدین علی بن اثیر صاحب التاریخ والنسب
 واسد الغابہ سیف الامدی۔ ابن فضلان۔ عمر بن الفارض شیخ الشیوخ
 شہاب الدین سہروردی ابو عمر و حافظ زکی الدین پرزانی۔ شمس ابجونی
 حافظ ابو عبید اللہ دینی ابن عربی صاحب قصص وغیرہ

یا قوت جموی | یا قوت بن عبداللہ الجموی ^{۱۱۷۹ھ} میں پیدا ہوا کسی
 میں اس کو حمار کے ایک تاجر نے خرید کر تسلیم و تربیت
 ولائی بعد کو اپنا سفری منشی بنا کر آزاد کر دیا۔ یا قوت جا بجا پھر کر محظوظات
 کی نقل کرتا اور اس کو فروخت کر کے ضروریات پوری کرتا۔ ^{۱۲۱۹ھ}
 میں تاناری فوجوں نے خوارزم کو تاراج کیا تو یہ وہاں سے جان بچا کر بھاگا
^{۱۲۲۴ھ} میں غالب آیا۔ اور یہیں معجم البلدان لکھی اس کی دوسری
 تصنیف معجم الادب ہے غالب میں ^{۱۲۲۹ھ} میں فوت ہوا۔

ایوبی خاندان

سلطان صلاح الدین کے بعد اس کے لڑکوں نے جہاں محمود ہیں

حکومت قائم کر لی۔ عزیز نے مصر میں افضل نے دمشق میں اور ظاہر غازی نے حلب میں مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ ۵۹۶ھ میں ملک العادل نے مصر و دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ۹۱۵ھ میں عادل فوت ہوا۔ تو اس نے مصر پر اپنے لڑکے الملک الکامل کو حاکم کیا۔ دمشق۔ قدس طبر یہ اردن اور کرک کا علاقہ معظلم عیسیٰ کو دیا۔ خلاط و جزیرہ اشرف موسیٰ کو رہا شہاب الدین غازی کو جو بزرگ قلعہ ارسلان شاہ کو عطا کیا۔ معظلم کے بعد اس کا لڑکا داؤد پانشین ہوا۔

مصر کے حاکم الملک کامل کے بعد عادل بن کامل ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الملک صالح مصر کا حکمران بنا۔ ۵۴ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا توران الملقب بہ الملک المعظم ۶۴۸ھ میں قتل ہوا تو اس کی ماں شجرۃ الدر حکمران رہی جس نے امیر معز الدین ایبک جاشنکر ترکمانی سپہ سالار سے عقد کر لیا اور اس کو مصر کا حاکم بنا دیا مگر بحری امراء موسیٰ بن یوسف ایوبی الملقب بہ الملک الاشرف فرما کر انھیں کو لا کر مصر کا تخت نشین کیا اور امیر معز الدین کا پروردار سلطنت رہا شجرۃ الدر نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا لڑکا نور الدین علی تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد سیف الدین قطر او۔ اس کے بعد ملک الظاہر بیبرس جند قنداری تخت مرمر پر بیٹھا۔

دولت فرختانیہ

فرختانیوں کی قوم کرمان میں زور پکڑ گئی تھی۔ بلال الدین کے وقت

میں براق صاحب امرائے دولت میں تھا۔ جلال الدین کی سلطنت اکل ہوئی تو اس نے کرمان میں ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد ڈالی جس میں سلاطین ذیل حکمراں ہوئے۔

رکن الدین خواجہ حق ابن براق صاحب۔ قطب الدین محمد سلطان
عصمتہ الدین۔ قلعہ ترکمان۔ جلال الدین سیور غنمش۔ عدوت الدین بادشاہ
قاتون۔ سلطان مظفر الدین محمد شاہ۔ قطب الدین شاہجہاں۔ عصمتہ الدین اور
صفوۃ الدین یہ دو عورتیں بھتیس۔ صفوۃ الدین بڑی حسینہ۔ شاعر اور عالم
حق اس کی ایک رباعی نقل کی جاتی ہے

آن روز کہ ازل نشانش کردند، اسانش جاں بیدانش کردند
دعوی لب نگار میکرد نیانت، زان روسیہ چو بے روپانش کردند

جلال سیور غنمش نیکنام بادشاہ تھا۔ مظفر الدین کے وقت میں مولانا
فخر الدین کو لوگوں نے قتل کیا۔ قطب الدین کے عہد سلاطین مغل کے کس
نور نے قطب الدین سے کرمان نکال لیا۔ اور اس طرح فرختائیوں کا
شہرہ میں خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ملک اسلام ناصر کو کرمان کی
حکومت ملی اور کچھ روز تک محکمہ حکام کی آمد و رفت سے کرمان خراب
ہو کر امیر مبارز الدین محمد بن مظفر کو جو ماں کی طرف فرختائی تھا۔ حکومت کرمان
کی شاہراہ میں پانچ آئی۔ مبارز الدین محمد کے عہد میں شیخ ابو اسحق اور شیخ
شجاع دو بڑے شخص تھے مبارز الدین ان دونوں سے برابر لڑتا رہا۔

تاریخ اسلام علامہ ابوالفضل عباسی ص ۲۹۷

میاں الدین کی حکومت سندھ سے شام تک قائم ہو گئی تھی یہ بڑا زبردست بادشاہ تھا۔ پھر اس کے بعد شیخ جلال الدین شاہ، شجاع کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد مجاہد بن زین العابدین۔ عماد الدین احمد۔ نصرت الدین کبھی ایک ساتھ مختلف مقامات پر حکمراں ہوئے اور اسی زمانہ میں تیمور کا عہد شروع ہوا۔ چنگیز خاں نے تو لوٹ مار کر اپنا راستہ لیا تھا۔ لیکن تیمور کے بعد اسلامی سلطنت ایک نئے طور پر قائم ہوئی۔

خلیفہ مستعصم باللہ

نام و نسب مستعصم باللہ ابو احمد عبداللہ بن المستنصر باللہ ۳۹۹ھ میں ہاجر کے لطن سے پیدا ہوا۔

تعلیم و تربیت ابن نجار موید طوسی ابد روح ہر وی النعم البادر امی شرف الدیامطی سے اجازت روایت حدیث حاصل کی۔ علمی استعداد معقول تھی۔

خلافت امیر زیور اور امیر شراہی اراکین سلطنت نے ابو احمد عبداللہ کو خلیفہ بنایا۔ باوجودیکہ اس کا بھائی خفاجی عباسی قابلیت اور اہلیت میں اس سے فائق تھا اور وہ ہی زیادہ خلافت کا مستحق تھا ان امرات نے اپنے مفاد کو زیادہ ملحوظ رکھا۔

ابو احمد جماد الثانی ۴۴۰ھ میں تخت نشین خلافت ہوا اور مستعصم باللہ لقب اختیار کیا۔

اس کے زمانہ میں تولی خاں کی سلطنت کو وسعت ہوتی جا رہی تھی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

خلیفہ نہایت مطہین تھا۔ اسے تاتاریوں سے تشویش نہ تھی وہ سمجھتا تھا کہ

لے تاریخ اختلفا ذکر مستعصم باللہ

تاری بغداد پر حملہ نہ کریں گے اس غفلت سے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور اس کی قوت مجتمع ہوتی رہی۔ جس نے مستقبل میں کوہ آتش نشاں بن کر بغداد کو لپیٹ میں لے لیا۔

وزارت | مؤید الدین محمد بن علقمی شیعی سرپرست ابی حدید معتزلی شارح پنج البلاغہ کو وزارت پر سرفراز کیا۔ بڑا عاقل اور فرزانہ لیکن اس کی طینت خراب تھی بڑا بے فیض و ناقابل اعتبار تھا۔ ٹھوڑے ہی عرصہ میں مستعصم پر علقمی حاوی ہو گیا۔ جس کا نتیجہ عباسی حکومت کی تباہی و بربادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔

تاری حکمران | چنگیز کا دوسرا لڑکا تولی خاں جو سب بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ چنگیز کے بعد دو سال ۶۲۴ھ سے ۶۲۶ھ تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اذکتاقان تین سال حکمران رہا۔ اس کا لڑکا کہوک خاں نابالغ تھا تو اس کی ماں ملکہ توراکینیا خاتون چودہ سال ۶۲۹ھ سے ۶۳۳ھ تک تخت چنگیزی پر بیٹھی۔ اس کے بعد منگو خاں پسر تولی خاں نے تخت حکومت سنبھالا تو بلا خاں کو ملک تخت پر قبضہ کرنے کو بھیجا۔ ۶۵۵ھ میں منگو خاں مر گیا تو سلطنت چنگیزی چند حصص میں بٹ گئی۔

- ۱۔ اریغ بوکا پسر تولی پسر چنگیز خاں نے دارالخلافہ قراقرم پر قبضہ کیا۔
- ۲۔ آغو پسر بائیداد خاں پسر چغتایا پسر چنگیز خاں نے ایلیغ میں اپنی علیحدہ سلطنت قائم کی۔
- ۳۔ تو بلا خاں پسر تولی خاں پسر چنگیز نے بائغ (پکین) کو دارالسلطنت

قرار دے کر علیحدہ حکومت کرنی شروع کر دی۔

۴۔ تیدو پسر قاشی پسر اداکتا قان پسر چنگیز پانچ سائے چنگیزی کے مطابق خود کو جائز وارث خیال کر کے علیحدہ حکومت کرنے لگا۔ بخارا کو اس نے دارالسلطنت اپنا بنایا۔

صائب خاں پسر توشی پسر چنگیز اس وقت روس۔ جرمنی۔ پولینڈ اور آسٹریا کی فتح میں مشغول تھا۔ اس نے اس طرف اپنی حکومت قائم کر لی اس کا دارا مخالف مرئیق تھا۔

ہلاکو خاں | ہلاکو خاں بن تولی خاں بن چنگیز کا بھائی منگو خاں ۱۲۵۱ء میں تخت نشین ہوا۔ جس کا ذکر مختصراً چکا ہے۔ اس نے خاقان کا لقب اختیار کیا۔ جلوس کے چند سال بعد بعض بد نظمیوں کی بنا پر باطنیوں نے ایران میں بغاوت کر دی تھی۔ منگو خاں نے ایک لشکر جرار اپنے بھائی ہلاکو خاں کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ ہلاکو خاں نے سمرقند سے گذر کر دریائے اکیس کو عبور کیا اور براہ بلخ کو ہستان پر حملہ کر دیا۔ باطنیوں کا حاکم رکن الدین گر شاہ ثانی ہلاکو کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے اطاعت قبول کر لی۔ اور ہلاکو کے کہنے سے اپنے تمام کوہستانی علاقہ کے پچاس قلعہ منہدم کر دیئے جس سے حسن بن صباح کی یادگار حکومت ختم ہو گئی۔

یہاں حسن قدر باطنی آباد تھے عورت و مرد سب کو ہلاکو نے تہ تیغ کر دیا آخر میں رکن الدین کو بھی قتل کر دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر خود منگو خاں کے مرنے کے بعد حکومت ہاتھ میں لی۔

مراغہ کو دارالخلافہ قرار دے کر ایران و عراق پر اقتدار قائم کیا اس کا وزیر
مشہور فلسفی خواجہ نصیر الدین طوسی فلسفی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ارکان
سلطنت تھے جن میں سے علاء الدین اور شمس الدین محمد جوینی کو عراق
خراسان اور مازندران کا حاکم بنایا تھا۔

علقمی کی تمنا | علقمی کو حکومت بنی فاطمہ مصر کے خاتمہ کا بڑا صدمہ تھا
وہ یہ چاہتا تھا کہ دولت بنی عباس کو مٹا کر پھر کسی بنی
فاطمہ کو برسر اقتدار لایا جائے۔ تا تاریخوں سے خط و کتابت کی گئی
چنانچہ وہ اپنے آقا مستعصم کو تباہی کی راہ پر لگا رہا تھا۔

شیعی سنی جھگڑا | بغداد میں شیعہ اور سنیوں میں باہمی فساد ہو گیا اور ابو بکر
بن مستعصم نے مستعصم کے حکم پر شیعوں کے حملہ کرخ کو تباہ
دربار کر دیا۔ علقمی کو اس واقعہ سے سخت غصہ آیا اور اس نے خواجہ نصیر الدین
طوسی کو یہاں کا سب حال اور یہ لکھا کہ ہلاکو کو ہر صورت سے بغداد پر حملہ کرنے
کے لیے آمادہ کرے اور خود نے بھی ہلاکو بغداد آنے اپنے بھائی کی معرفت
دعوت دی۔

مگر ہلاکو بغداد پر حملہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ کیونکہ جانتا تھا کہ خلیفہ ناصر
کے زمانہ میں جو ماغوں جس کو اوکتاقان نے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے
بھیجا تھا دو مرتبہ فوج عباسیہ سے شکست کھا چکا تھا۔ مگر وزیر علقمی برابر ابن
صلایا والی اربل کے ذریعہ تاریخوں کو بغداد پر حملہ کے لیے اکساتا رہا۔

لحہ دول الاسلام ج ۲ ص ۱۱۶ | ابو الفداج ج ۳ ص ۱۵۳ | ابن خلدون ج ۲ ص ۵۳۰

محقق طوسی نے یہ چال چلی کہ علم نجوم کا حوالہ دے کر ہلاکو خاں کو فتح بغداد کی بشارت دی۔ ہلاکو خاں نے خلیفہ کو لکھا کہ دویدار کو چاک سلیمان شاہ، شراپی یا وزیر علقمی کو میرے پاس بھیج دو۔ لیکن ان کے بجائے خلیفہ نے محی الدین ابن الجوزی کو بھیج دیا۔ ہلاکو کو ناگوار گذرا۔

بغداد پر ہلاکو کا حملہ | ہلاکو خاں نے ہمدان سے خلیفہ کو لکھ کر بھیجا کہ تم اپنے کو اور دارالسلطنت کو مغلوں کے حوالے کر دو

ورنہ طاقت سے کام لیا جائے گا۔ اس کے جواب میں شرف الدین بن عبداللہ کو قاصد کی حیثیت سے ہلاکو کے دربار میں خلیفہ نے بھیجا جب ان سے تبادلہ نیالائت کیا اور خلیفہ کا جواب سنا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دفع الوقتی کی چال ہے چنانچہ بس نے تاتاری لشکر سوغو کچاق اور باجو خاں کی قیادت میں ارمل کے راستہ سے بغداد روانہ کیا۔ بکریت پہنچا جہاں وجہ کی مغربی جانب عبور کر کے شہر انبار پر فرات کے مغربی جانب بڑھا اور فوج کے میسرہ نے باب کلواڈی کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔

ہلاکو خاں ذوالحجہ ۶۵۵ھ کو خود روانہ ہوا۔ اور آکر اس فوج کی کمان ہاتھ میں لے لی۔ باب کلواڈی بغداد کا مشرقی پھانگ تھا۔

ہلاکو تاتاریوں کے قلب لشکر کی کمان خود کر رہا تھا اس نے وسط محرم ۶۵۶ھ میں بغداد کی مشرقی سمت اپنی فوجیں اتار دیں۔ اس وقت تاتاریوں کے لیے شیعہ مجاہدوں کی ریشہ و دانیوں کے لیے آسان صورت پیدا ہو گئی۔ کرخ اور محاسبی الکاظلیہ جو شیعوں کے مرکز تھے وہ کھلم کھلا اس

میل کر گئے تھے۔

ہلاکو کا تیس ہزار سواروں کا لشکر و جیل پہنچا۔ اس وقت خلیفہ کی فوج کا ایک ہراول دستہ مجاہد الدین ایک دویدار کی قیادت میں نکلا جو قلیل تعداد میں تھا۔ ان دونوں کا بغداد کی مغربی جانب شہر سے قریب تصادم ہوا۔ خلیفہ کا لشکر غالب رہا اور ہلاکو کا لشکر سخت ہزیمت کھا گیا۔ کثرت سے اس کے سپاہی ہلاک اور اسیر ہوئے۔ اس وقت غنیم کے لیے وہ روز بار ایک مصیبت بنی تھی جسے اُس نے شب میں فتح کر لیا تھا۔ کچھڑ کی زیادتی نے بھاگنے والوں کے راستے سد و کر دئے۔ صرف وہی لوگ جانبر ہو سکے جنہوں نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا تھا وہ لوگ بچ گئے جو خشکی کے راستہ شام کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے لیکن دویدار صحیح سالم اپنے دستہ کے ساتھ بغداد پہنچا۔ اس کے بعد باجو ایک عظیم الشان فوج لے کر مغربی جانب سے بغداد میں داخل ہوا اور چند روز تاج کے سامنے فروکش رہا اور اپنے جاسوسوں کے ذریعہ حالات کا جائزہ لیا اور اپنے موافق فضا پیدا کی لیے۔

امیر فتح الدین، مجاہد الدین اور دویدار کو چاک نے قلعہ بغداد کا انتظام کیا۔ ہلاکو خاں کا لشکر ۴ محرم ۶۵۶ھ میں سیلاب کی طرح بغداد کی مشرقی طرف یعقوبی دریا سے اُمنڈ پڑا۔ اور پورے شہر پر چھا گیا۔ اس وقت لوگ گھبرا کر چھتوں اور مناروں پر چڑھ گئے۔ ہلاکو کے لشکر نے بغداد کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ سامانِ رسد بند کر دیا۔ مگر اندرون بغداد جانے کی ہمت

۱۱۱ مسلمانوں کا نظم مملکت ص ۱۱۱

نہ پڑتی تھی۔ آخر کار مغلوں کی فوج نے اینٹوں کا پستہ بنا کر منجیق کے ذریعہ
پتھر اور تیر پھینکنے لگے۔ جب حالت نازک ہونے لگی۔ مجاہد الدین۔ سدید الدین
وغیرہ خلیفہ کو چھوڑ کر ہلاکو خاں سے ساز باز کر گئے اور اُس کو اطاعت کا پیغام
بھیجا اور کہا بھیجا کہ

حضرت علی سے ہم کو روایت پہنچی ہے کہ تم اس شہر کے مالک
ہو گے۔

ابن عمران شیبی جو حاکم یعقوبیہ کا خادم تھا وہ ہلاکو خاں سے جا ملا اور
اُس نے اُس کی فوج کے لیے رسد کا انتظام کیا۔
ہلاکو خاں نے نکاح اور غلام الدین عجمی کو بغداد میں بھیجا اور اہل حلقہ کو پناہ
دی۔ اور علقمی نے ہلاکو خاں سے جان بخشی کرائی۔ خلیفہ گھر چکا تھا اُس
کے ساتھ دغا کر کے تھے۔ صرف اُس کے لیے ایک ہمارا علقمی کا رہ گیا تھا
اُس نے موقعہ دیکھ کر خلیفہ سے کہا کہ مقابلہ کرنا تار یوں سے بیکار ہے آپ
خود ہلاکو کے پاس میرے ساتھ چلے مال و جوہر اس کی نذر فرمائیے اور اس
کی لڑائی سے اپنے شہزادہ ابو بکر کو بیاہ دیجئے۔

خلیفہ کا قتل | خلیفہ علقمی کے جھانے میں آ گیا اُس نے اپنے دونوں بیٹوں
ابو بکر اور عبدالرحمن اور چند اراکین سلطنت کو لے کر ہلاکو
کے پاس پہنچا۔ ہلاکو نے تمام زر و جوہر لے کر اپنی فوج میں تقسیم کیا اور امیر دواتی
اور امیر شرابی، سلیمان شاہ و دیگر خلفاء کے ساتھیوں کو فوراً قتل کرادیا۔

لوگوں نے ہلا کو کورائے دی کہ خلیفہ کے خون سے ہاتھ کو نہ رنگا جائے
 بلکہ ہمدے میں لپیٹ کر اس کی جان نکالی جائے۔
 چنانچہ خلیفہ کو ہمدے میں لپیٹ کر ڈبڈبے سے کچلا کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ پھر
 ہاتھی کے پیر سے بھونک کر لگوائیں۔ اس کے بعد علقمی نے اس کی لاش کو پاؤں سے
 کچلا اور کہا کہ

میں اہل بیعت رسالت کا بدلہ لے رہا ہوں۔ غرضکہ ان میں سے
 کسی کو گور و کفن تک میرا نہ ہوا۔ یہ واقعہ محرم ۶۵۶ھ میں پیش آیا
 پہلا شخص ہلا کو خاں کی طرف سے فوج لے کر بغداد میں داخل ہوا۔ وہ
 علی بہادر تھا۔

تاتاری بغداد میں گھس پڑے اور کئی دن تک قتل عام کرتے رہے عورتوں
 اور بچوں نے نکل جانا چاہا۔ لیکن ان مغلوں نے ان کو بھی زیادہ نہ چھوڑا۔
 آبادی کو ختم کر کے چالیس دن تک نہایت بیدردی سے بغداد کو لٹاتے رہے
 علامہ ابن خلدون کا بیان ہے کہ

صرف شاہی محلات سے انھوں نے جتنی دولت اور جس قدر
 ساز و سامان لوٹا۔ اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ عباسی کتب
 خانہ کی تمام کتابیں جو صدیوں کا سرمایہ تھیں وہ جگہ میں بوردی
 گئیں۔ مفتولین کی تعداد کا اندازہ سولہ لاکھ تھا۔

۱۔ تجربتہ الامصار و تجزیۃ الاعصار ۱۵۱۰ الفدا ج ۳ ص ۴۲۱ تا ۴۲۵ تاریخ ابن خلدون
 ج ۹ ص ۱۸۹ تجربتہ الامصار و تجزیۃ الاعصار ۱۵۱۰ ابن خلدون ج ۳ ص ۵۲۴

لیبان فریسی لکھتا ہے

مغلوں نے ۱۲۵۸ھ میں بغداد پر قبضہ کیا۔ شہر میں قتل عام ہوا اور مستعصم بانشہ آخری عباسی خلیفہ ہلاکو خاں بادشاہ مغل کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ساری دولت لٹ گئی۔ کتابیں کچھ جلا دی گئیں اور کچھ دجلہ میں پھینک دی گئیں۔

قطب الدین احنفی لکھتا ہے۔ ان شائقین علوم و فنون نے اس واقعہ سے پہلے اس قدر علمی ذخیرہ جمع کیا تھا کہ جس وقت مغلوں نے مدارس کی کتابوں کو دجلہ میں ڈال دیا تو اس سے ایک پل تیار ہو گیا جس پر سے سوار پیدل بخوبی گزر سکتے تھے اور دریا کا پانی بالکل سیاہ ہو گیا۔

مسلمانوں کا یہ عظیم الشان شہر جو صدیوں خلافت کا صدر مقام تھا علم و فن کا مرکز، علما اور فقہاء کا مرجع۔ دولت و ثروت کا مخزن معاہدہ تاناریوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ بیس لاکھ کی آبادی میں سے صرف چار لاکھ بچے جس میں زیادہ تعداد شیعہ بھائیوں کی تھی۔ سوا پانچ صدی کے بعد دولت بنی عباس کا خاتمہ مستعصم کی ذات پر ہوا۔ ۱۹ محرم ۶۵۶ھ کو باب کلوازی کی جانب برج عظمیٰ پر مغلوں کا پرچم لہرایا گیا۔

عباسی خلافت کے خاتمہ کے بعد ابن حلقمی نے تاناریوں کو علوی مملکت قائم کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ مگر ہلاکو نے ٹھکرا دیا۔

ابن علقمی کا حشر | ابن عمران کو بغداد کا حاکم بنایا اور علقمی کو اس کا چہرہ سی
 کیا اور علی بہادر کو شہنہ بغداد کیا۔ عنسی الدین بن عبدالمومن
 شیعہ نے بہنڈنی اور گاناٹا کر بلا کو کے ہاتھوں جان بچائی۔ بلکہ انعام و
 اکرام حاصل کیے۔ محقق طوسی کی فرمائش پر شیعوں کی جان بخشی ہوئی ان
 کے محلہ لوٹ سے بچ رہے۔

بلا کو خاں قصر مامونیہ میں جو مشرقی بغداد میں تھا خود ٹھہرا تمام شاہی
 خاندان کے افراد گرفتار کر لیے گئے اور سب کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ پھر شہر میں
 آگ لگا دی گئی۔ اس آگ نے خلیفہ کی مسجد۔ امام موسیٰ کاظم کا مشہد صاف
 کا شاہی قبرستان اور بڑی بڑی عمارتوں کو خاکستر کر دیا اور چند روز میں یہ
 بہشت ارضی (بغداد) گھنڈر نظر آنے لگا۔

وکان ماکان عیالست اذکس کا
 فنن خیرا وکالستال عن انخبر

(ترجمہ) اس دن جو کچھ ہوا۔ میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تم گمان اچھا
 ہی رکھو اور حالات کو نہ پوچھو۔

دیگر بلاؤں کا حشر | بلا کو نے انتظام بغداد کے بعد محقق طوسی سے فرمان لکھوا
 کر مختلف ممالک بھیجے۔ ملک کامل ناظم حلب نے جس
 خلیفہ کی مدد کے لیے فوج بھیجی تھی مگر خلیفہ کی شاکست کی خبر سنکر واپس ہوئی
 تھی لڑائی کا سامان تیار کیا۔ بلا کو نے ملک کامل کے مقابلہ کے لیے بہت

لے تجربہ الامصار و تجربہ الاعصار ۱۵ الفخری ص ۲۹۷

کو فوج دے کر بھیجا۔ ملک کامل گھبرا گیا۔ خزانہ وغیرہ چھوڑ کر قلعہ انکلیکٹ یمانہ میں جا پناہ لی۔ یثمت حلب پہنچا۔ اہل شہر نے مقابلہ کیا۔ مگر شکست کھائی۔ یثمت شہر پر قابض ہو گیا۔ حلب کا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آیا۔

دوسری طرف ہلاکونے کید لوقا کو فوج دے کر شام بھیجا۔ اہل شام خوفزدہ ہو گئے۔ مالک ناصر الدین حاکم دمشق کی رائے سے کچھ امراء وادی رمل چلے گئے۔ جب دمشق والوں نے مقابلہ کی تاب نہ پائی تو اطاعت قبول کی۔ کید لوقا سات ہینے یہاں رہا۔ ناصر الدین نے قاہرہ کے حاکم ملک ظفر کو مدد کے لیے لکھا۔ ادھر علامہ تقی الدین حیرانی نے تاتاریوں کے مظالم دیکھ کر مسلمان عوام میں وعظ کہہ کر جہاد کے لیے جذبہ پیدا کر دیا۔ حاکم قاہرہ نے فوج بھیجی۔ علامہ معہ مجاہدین کے فوج میں شامل تھے۔ آکر فوج تاتاری سے مقابل ہوئے اور کید لوقا کو تلوار پر رکھ لیا۔ ہزار ہا تاتاری کھیت رہے اور اس کو شکست فاش اٹھانا پڑی۔ ہلاکونے اور بند پر حملہ آور ہو اور ہر کہ انمول کی فوج کو تہ تیغ کیا۔ پھر موصل، دیار کبر وغیرہ بھی فتح کر لیے۔ مراغہ جا کر اس نے محقق طوسی سے ۶۵۰ میں شمالی رخ رصد تیار کرائی۔ اس کی تیاری کے لیے نجم الدین کاتب کو، قزوین سے مؤید الدین عرصی کو، دمشق سے فخر الدین مراعی کو موصل سے اور فخر الدین اعلاطی کو تھیس سے بھوپا۔ یہ رصد گاہ تعمیر ہو گئی تو ہلاکونے سب کو انعامات عطا کیے۔ ۶۶۳ء میں ہلاکونے فوت ہوا بہت سی حسین لڑائیوں کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تاہم اس کی روح کو تسکین ہو۔

لہ ہلاکونے ہلاکونے تھے۔ ابا قاخاں۔ یثمت تہش۔ منگولتور، یزداد، او جائے تکشیں ہلاکون
نکو دار، جو شگب، قنقر، تان، یسودار، چومنا۔

از کان سلطنت ہلاکو

سو غونچاق لوہیں وزیر ہلاکو تاجکو کے ساتھ بغداد

پر حملہ آور ہوا تھا۔ تاجکو امیر لشکر، قیبتانی، تنفور

سلوک، سفرائے ہلاکو خاں۔ کید لوقا وزیر جنگ۔ علماء میں علامہ الدین شمس الدین، کرت نغیر الدین۔ طوسی اس کے مشیر کار تھے یہ

مستعصم | مستعصم میں بہت زیادہ اخلاقی خوبیاں تھیں مگر علقمی نے اوصاف مستعصم | اس کو عیش و عشرت پر لگا دیا تھا۔

مستعصم احسان فراموش نہ تھا۔ نیک سیرت۔ متدین، نرم خو، نیک طبیعت، گفتگو میں محتاط، خوش اخلاق اور مریخ مرخجان انسان تھا۔ مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فہم و فراست سے بڑی حد تک بے بہرہ، فوجی صلاحیتوں سے عاری امور سلطنت سے بے خبر، لاپچیوں کی امیدگاہ اور بے رعب و دبدبہ کا خلیفہ تھا اور معاملات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت نغمہ و سرود اور مسخروں کی صحبت میں گذرتا تھا۔ علامہ طقطقی مویذ الدین بن علقمی کی بہت تعریف فرماتے ہیں کہ وہ خلیفہ کو فوجی استحکامات، بیدار مغزی اور احتیاط کا مشورہ دیتا تھا۔ دوسری طرف بقول علامہ ابن خلدون شاہ ارمل کی معرفت علقمی ہلاکو کو بغداد آنے کی دعوت دیتا تھا۔

۱۔ نصیر الدین محمد بن اسحاق طوسی فیلیف ۵۵۹ھ میں پیدا ہوا ہیبت و ریاضی کا بڑا ماہر تخرید شرح محطی وغیرہ یادگار ہیں مرض عیلاں میں مبتلا ہو کر ۵۶۲ھ میں بغداد میں مراد دائرہ المعارف البتانی ج ۱۱ ص ۴۵۹ ماخوذ از تجرید الامصار و تجرید الاعصار ۱۔ الفخری ص ۲۶۴

۲۔ ابن خلدون ج ۹ ص ۱۸۸

علامہ طقطقی اُس کے اوصاف یہ لکھتے ہیں

ستعصم میں خوبیاں بہت تھیں نیک فطرت، نرم خو، شیریں زبان
پاکباز و خوش خلق۔ مگر اوصاف جہاں بانی سے کورا تھا طبیعت
کا کمزور، رائے کا کچا اور مملکت سے نا بلند ارعب داب نہ تھا
اس کا مشغلہ ہنسی، مذاق اور تفریحی تھا۔ اُس کے مصائب و حاشیہ
نشیں ادنیٰ درجہ کے جاہل عوام تھے یہ

خليفة مستعصم باللہ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس نے وادی دجلہ میں کہی
میل لمبا احاطہ بنوار کھا تھا۔ لوگ حلقہ باندھ کر جانوروں کو اس حصار
میں داخل کر دیتے پھر خلیفہ اور اُس کے رفقاء جہاں تک شکار کر سکتے تھے
شکار کرتے اور لقیہ کو چھوڑ دیتے۔
علامہ طقطقی لکھتے ہیں۔

ستعصم لہو و لعب اور رقص و سرود کا بڑا دلدادہ تھا اُس نے
بدرالدین لولوی والی موصل کو آلات سرود اور مطرب بھینے کے
لئے لکھا اور ہلاکو خاں نے اُس سے منجیق اور دیگر آلات قلعہ
شکن طلب کیے تو بدرالدین نے سرپٹ لیا اور کہا۔ رونے کا
مقام ہے کہ ہمارے خلیفہ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔
اور ہلاکو کیا طلب کر رہا ہے۔

ستعصم کا واقعہ ایاب شخص عبدالغنی خلیفہ مستنصر کے زمانہ میں قلعہ کے

کے مقدمہ الفخری ۱۷ مقدمہ الفخری ۱۷ الفخری ص ۲۵۰

پہرہ داروں میں تھا۔ جب خلیفہ نے اپنے بیٹے مستعصم کو خفا ہو کر اس قلعہ میں نظر بند کر دیا تو عبد الغنی نے شہزادے کی خلوص و درگرم جوشتی سے خدمت کی۔ جب مستعصم باپ کے بجائے خلیفہ ہوا تو اس نے عبد الغنی کو قلعہ کی پہرہ داری سے نکال کر اپنے پاس رکھا اور اس کو کچھ عرصہ میں اپنا خاص الخاص ملازم قرار دیا۔

علمائے عہد مستعصم | حافظ ثقی الدین صرقتی، حافظ ابوالقاسم بن الطلسان، شمس الائمہ کردی حنفی، ثقی الدین بن الصلاح،

علم انخاوی۔ حافظ محب الدین بن النجار مورخ بغداد، منتخب الدین شارح المفصل، ابن القیس النخوی، ابوالکجاج الاقصری زاہد۔ ابوعلی الشلوبی النخوی۔ ابن بيطار صاحب المفردات۔ امام علامہ جمال الدین بن حاجب امام مالکیہ، ابوالحسن بن وبارح نخوی، قفطی صاحب تاریخ السجاء۔ افضل الدین النخوی صاحب المنطق، بہار بن بنت الحمیری۔ جمال عمرو بن نخوی الرضی لصنیحانی اللغوی، کمال عبدالواحد الزمکانی صاحب المعانی والبیان و اعجاز القرآن، شمس خسرو شاہی۔ محمد بن تمیمہ۔ یوسف سبط بن الجوزی صاحب سیرۃ الزمالات۔ ابن باطیش شافعی، ابن ابوالفضل عمری صاحب التفسیر۔ عبدالعظیم المنذری۔ شیخ ابوالحسن شاذلی، شعلتہ المقرئی نخاری شارح الشاطبید، سعد الدین بن الفرزی شاعر، صرصری شاعر ابن الایار مورخ اسپین۔

سلفہ مقدمہ الفخری علی تاریخ الخلفاء ص ۲۵۳

محمد بن و فقہا | عبد القدر بن ابراہیم جمال محبوبی شاگرد امام زاوہ محمد بن
ابی بکر و شمس الائمہ عمر بن بکر در بخری و قاضی خاں اور
آپ کے تلامذہ سپر خود و الاتاج الشریعہ مولف و قاضی و حافظ الدین کبیر
بخاری وغیرہ ۱۳۳ھ میں انتقال ہوا۔

محمد بن عبد السار شمس الائمہ کروری شاگرد امام زاوہ مولف شریعہ
الاسلام، آپ نے امام غزالی کتاب منہول کی رد میں رسالہ لکھا و جنیز کروری
آپ کی تالیف ہے۔

بکر ترکی ناصری نجم الدین فقیہ عارف سعید شاگرد عبد الرحمن بن
شجاع مولف حاوی رفعتہ ۱۳۵ھ میں انتقال کیا۔
علی بن محمد نجم العلماء حمید الدین العزیز، فقیہ معروف مستند شاگرد شمس
الائمہ کروری و استاد حافظ الدین عبد اللہ بن احمد نسفی صاحب کنز القاب
و مولف شرح جامع کبیر و نافع وغیرہ۔


محمد بن سلیمان بن الحسن القدری معروف ابن النقیب، فقیہ زاہد عالم
مفسر جامع فتون مختلفہ مولف تفسیر ضخیم۔ اس میں پچاس تفسیریں جمع ہیں اس کا
نام تحریر و تجزیہ اقوال ائمہ التفسیر ہے۔ ۱۳۶ھ میں فوت ہوئے۔
عبد اللہ بن محمود بن مودود مولی ابوالفضل محمد الدین شاگرد شیخ
جمال الدین حصیری مولف مختار و شرح آل اختیار ۱۳۸ھ میں فوت ہوئے۔

شجرہٴ خلفاء

حضرت عباس رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ

امام اعلیٰ



مقتد ۱۷

قاپر ۱۹

مقتد (۱۸)

مکتفی (۱۴)

مکتفی (۲۲)

رضی (۲۰)

مکتفی (۲۱)

مطیح (۲۳)

طالیح (۲۴)

مقتدی

قائم (۲۶)

قادریه (۲۵)

مستنصر

مقتضی (۲۷)

مقتدی (۲۸)

مسترشد (۲۹)

راشد (۳۰)

مقتضی (۲۹)

ناصر (۳۱)

نظایر (۳۵)

مستعصر (۳۴)

مستنصر (۳۶)

بغداد کا حشر

بغداد پر تاتاری سیلاب ۶۵۶ھ کے بعد مسلمانوں کا دارالسلطنت پھر نہ بن سکا۔ ایک عرصہ تک جلاوترے خاندان کے سردار شیخ حسن بوزرگ بغداد پر قابض ہو گیا۔ پچاس برس بعد ۱۳۹۳ھ میں تیمور کا تسلط بغداد پر ہو گیا جس وقت خانے لگا اپنی طرف سے گورنر مرزا ابو بکر کو کرتا گیا مھوڑے عرصہ بعد سلطان احمد جلاوتری پھر بغداد پر قابض ہو گیا۔ اس کی حکومت ۱۴۱۲ھ تک رہی پھر ترکمان شاہ سودا نے قبضہ کیا ۱۴۶۹ھ تک اس کے خاندان حکمران رہے ترکمان شاہ بیضہ کے قبضہ میں آ گیا ۱۵۰۸ھ میں اسمعیل صفوی شاہ ایران کی افواج بغداد میں داخل ہوئیں ۱۵۳۶ھ میں سلیمان قانونی کے دور حکومت میں ایک ترکی جنرل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں کی حکومت بغداد پر قائم ہو گئی۔ لیکن شاہ عباس کے زمانے میں ترکوں سے صفویوں نے اسے پھر چھین لیا۔ یہ بیکر آغا انکشاری کی نڈاری کا نتیجہ تھا ۱۶۳۸ھ میں ترکوں نے ایرانیوں سے اسے دوبارہ لے لیا۔

۶۵۶ھ میں خلافت عباسیہ ختم ہوئی۔ نظامِ خلافت سیاسی حالت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب ہر طاقتور حاکم خود مدعیِ خلافت تھا اس کو اب سند حکومت کی بھی ضرورت نہ تھی۔

فارس میں غازیان مسلمان ہونے کے بعد سلطان اعظم سلطان الاسلام دہسلیمن بن گیا۔ شاہ رخ اور توش کا حاکم ابو عبد اللہ

محمد حفصی نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا۔ ابو عنان فارس مراکش کے نانا اور
 مرینیہ کے ایک فرزند نے اپنے لئے خلیفہ امیر المؤمنین اور امام کا لقب اختیار
 کیا۔ سلطان علاء الدین خلجی اور اوزن حسن ترکمانی بھی خلافت کے مدعی
 بلاوا اور امرالنہر میں دولت ازبک نے بانی محمد شیبانی اور مصر کے مملوک
 سلاطین قاہنہ اور قافلہ غوری نے بھی اپنے لئے امامت کا دعویٰ
 کیا تھا۔

سقوط بغداد کے بعد عالم اسلامی میں ہر طاقتور اور فرمانروا خلافت
 کا مدعی تھا۔

سلطنت ایران

حضرت عمر خلیفہ دوم کے وقت میں یہ ملک مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد مدینہ، دمشق اور بغداد کے خلفاء اس پر حکمران رہے۔ خلافت بغداد کے ضعیف ہونے پر سلاطین صفاریہ، سامانیہ، دیلمیہ، غزویہ، سلجوقیہ اور خوارزم شاہی اس پر حکمران ہوئے۔ اس کے بعد چنگیز کا زمانہ آیا۔ چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں کی آکھٹویں پشت میں ابوسعید کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئیں جس کو مٹاکر امیر تیمور نے ایران کو ایک صورت قرار دیا۔ تیمور کے بعد اس کے خاندان میں دسویں صدی ہجری کے آغاز تک ایران کی حکومت تھی۔ یہ سب حالات اوپر مفصل بیان ہو چکے ہیں۔ خاندان تیموری کا زور وسط ایشیا میں دسویں صدی ہجری کے شروع میں گھٹا۔ اس کے بعد کے حالات مختصر طور پر بیان کئے جاتے ہیں ایک سید بزرگ شاہ صفی نے پیشوا سے مذہب کی حیثیت سے ابدان میں تفریح پکڑا۔ تمام رعایا شاہ صفی کی معتقد تھی۔ اس لئے شاہ صفی نے ایک رنگ حکومت کا پیدا کیا پھر اس کی نسل میں شاہ اسماعیل بڑا زبردست بادشاہ ہوا اور دو صدی تک صفوی خاندان ایران پر قابض رہا۔ سفیوں سنیوں سے بالکل الگ قائم کرنا، اسماعیل صفوی اور اس کے ماہد بانسٹیوں کی حکومت عملی تھی۔ شاہان صفوی نے بہت زیادہ

کوشش اس امر میں کی کہ شیعوں کا گروہ سنیوں سے بالکل الگ ہو جائے
اپنی پالیسی میں سلاطین صفوی پورے طور پر کامیاب ہوئے اور ایران کی فوج
اور ایران کی رعایا اس نئے جوش میں عرصہ تک کار نمایاں کرتی رہیں اور یہی
خاندان استقلال کے ساتھ حکمران رہا۔

۹۰۸ھ شمعیل خاندان صفوی کا پہلا خود مختار پادشاہ ہے سلطان
ترکی سے اس نے خوب لڑائی کی اور بکون کو بھی اس نے زیر کیا۔

شاہ طہماسپ بن اسمعیل : ۹۳۱ھ ہمایوں پادشاہ ہند نے
اسی سے مدد چاہی تھی یہ بھی بڑا نامی پادشاہ ہوا ہے۔

شاہ اسمعیل ثانی بن طہماسپ : ۹۸۹ھ مدت سلطنت

۹ سال رہی۔

محمد خدابندین طہماسپ : ۹۸۶ھ یہ اپنے بھائی اسمعیل ثانی
کے مرنے پر تخت پر بیٹھا۔ بھڑکنے وٹون کے بعد راہی ملک عدم ہوا۔

حضرت بن محمد خدابندہ : ۹۹۴ھ اس نے برائے نام

سلطنت کی۔

شاہ اسمعیل ثالث : ۹۱۴ھ اس نے برائے نام سلطنت کی۔

شاہ عباس : ۹۹۴ھ اسمعیل اول اور شاہ طہماسپ کی

طرح یہ بھی زبردست پادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

شاہ صفی : ۹۹۴ھ اس کے وقت میں خاندان صفوی نے

کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔

شاہ عباس ثانی ۱۵۷۵ء - ۱۶۰۵ء بمبیل، طہماسپ، عباس اول کی طرح یہ بھی بڑا زبردست پادشاہ ہوا ہے۔ غیر مذہب والوں سے لڑنے کی وجہ سے غازی اس کو لقب ملا ہے۔

سلیمان شاہ حسین شاہ طہماسپ
 ۱۰۷۷ھ ۱۰۶۱ھ ۱۱۲۵ھ
 سلیمان تک خیرت تھی اس کے بعد
 خلجیوں اور ابدالیوں نے اس
 خاندان کو کمزور کر دیا۔

خاندان صفوی کے انحطاط کے زمانے میں ابدالیوں اور خلجیوں کو کچھ زور ہوا۔ ابدالی اور درانی ایک ہی قوم ہے اور غور کے پہاڑوں پر اس کا ٹھکانہ تھا لیکن اس وقت ہرات کے آس پاس آباد ہو گئے تھے۔ خلجیوں کی قوم اس زمانے میں قندھار کے گرد و نواح میں بسی تھی۔ خلجی اور ابدالی آپس میں لڑتے تھے۔ لیکن کھوڑنے دنوں کے لئے خلجیوں اور ابدالیوں نے مل کر ایرانیوں کی سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد خلجیوں نے جا کر ایران پر قبضہ کر لیا۔ خلجیوں کا سردار محمود قندھار سے روانہ ہو کر ایران میں داخل ہوا اور ۱۶۲۲ء کو تخت نشین ہوا۔ خلجیوں اور ایرانیوں کی جنگ کی ابتداء شاہ حسین کے وقت میں ہوئی۔ اور اس کے بیٹے شاہ طہماسپ ثانی نے محاصرے کی تکلیف سے گھبرا کر تاج شاہی محمود خلجی کے حوالے کر دیا۔

اپنے چچا محمود کے مرنے پر اشرف خاں تخت پر بیٹھا۔ سلطان ترکی نے سلطان روس سے مل کر اشرف خاں کو دبانا چاہا۔ شمالی ملک کا روس ادا

تھدا اور مغربی حصہ کو سلطان ترکی دبانا چاہتے تھے۔ اشرف خاں نے لڑائیوں میں بڑی بہادری دکھائی۔ ان دونوں سلطنتوں نے اسکی سلطنت تسلیم کی لیکن اشرف خاں ان حصوں کو واپس نہ لے سکا جو دشمنوں کے قبضہ میں آگئے تھے۔

مرزا طہماسپ (جب تاج سلطنت محمود شاہ کے حوالے کر کے علیحدہ ہوا کسی طرح نادر قلی درانی کے قبضہ میں آگیا اور نادر شاہ نے اپنے گواس کا سپہ سالار بنا کر ملکی فتوحات شروع کر دی۔ نادر قلی پہلے قزاقوں کی طرح لوٹ مار کرتا تھا۔ اب طہماسپ کی سپہ سالاری نے اسکی حالتیں بہت کچھ تغیر پیدا کر دیا۔ نادر شاہ کے عہد میں (۱۷۲۹ء) اشرف خاں قتل کیا گیا۔ جو بلاک اشرف خاں کے عہد نامہ سے سلطنت ترکی میں داخل ہو گئے تھے۔ اسے نادر شاہ نے زور دیا اور شاہ کا عروج انادشاہ نے طہماسپ شاہ شطرنج کو تخت سے اتار کر اسکے شیر خوار بچے کو تخت پر بٹھایا اور ۱۸۳۶ء میں تمام لوگوں کی صلاح سے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ نادر شاہ نے اپنا مذہب بدل ڈالا۔ پہلے شیعہ تھا۔ اب سنی ہوا۔ اور چاہا کہ فائدان صفویہ کی محبت لوگوں کے دل سے نکھائے اور اسکے وقت سے ایک بنیادنگ پیدا ہوا لیکن نتیجہ اچھا نہ ہوا۔ لوگ اس سے بد دل ہونے لگے۔ فرج کے خوش کرنے کے لئے اس نے قندھار پر چڑھائی کی اور خلیجیوں کو وہاں سے نکالا۔ پھر کابل غزنی ہوتے ہوئے ہندوستان پر اس نے چڑھائی کی اور یہاں کی دولت سے اپنی فرج کو مال مال کرنا چاہا۔ ولی نادر شاہ کے وقت میں تباہ ہوئی۔ تیموک کے حملوں کی طرح اب بھی ولی میں قتل عام ہوا۔ ہند سے واپس جا کر نادر شاہ نے اور بھی فتوحات کیں۔ ہند میں جو کچھ خوزیری نادر شاہ سے ہوئی، زیادہ تر ولی داؤں کا قصور تھا۔ لیکن اس کے بعد نادر شاہ میں سفاکی اور خوزیری کی عداوت ہو گئی اور کچھ بالیو لیا کا دل بھی اس میں شروع ہوا۔ ایرانیوں نے ۱۷۲۹ء میں اسے قتل کیا۔

نادر شاہ کے بعد افغانستان میں احمد شاہ درانی (ابدالی) حکمراں ہوا اور ایران میں نادر شاہ کے مخالف علی کا بھتیجا عادل شاہ تخت نشین ہوا۔ عادل شاہ دو برس کے بعد مر گیا اور پھر پچاس برس کے اندر ہی اندر کوئی آٹھ بادشاہ ابراہیم شاہ، یحییٰ مرزا، اسماعیل، محمد کریم خاں، ذکی خاں، صادق خاں، جعفر خاں، لطف علی کے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے اور سلطنت روز بروز کمزور ہوتی گئی۔ ان بادشاہوں میں کریم خاں زند نے ۳۳ برس تک سلطنت کی اور باقی نے برائے نام سلطنت کی۔

آغا شاہ قاجار نے ۱۲۱۲ھ میں کئی لڑائیاں فتح کر کے سلطنت ایران قبضہ کر لیا۔ شاہ روس سے بھی اس نے کئی لڑائیاں کیں، اس کے بعد اس کا بیٹا فتح علی قاجار تخت ایران پر بیٹھا اور شاہ روس سے برابر لڑتا رہا۔ ۱۸۰۶ء میں محمد شاہ قاجار تخت پر بیٹھا۔ بادشاہ اور رعایا کا مذہب مشیعہ تھا۔ افغانوں نے ان پر جہاد کی نیت سے حملہ کیا تھا۔ ۱۲۶۰ھ میں ترکی کے گورنر نجیب بادشاہ عالم بغداد نے کر بلا پر چڑھائی کی اور ۹ ہزار آدمیوں کو فاجر ہی تعصب سے ہلاک کیا۔ محمد شاہ قاجار سن کر غضبناک ہوا۔ ۱۲۶۴ھ میں سلطان محمد شاہ قاجار نے وفات پائی۔

تاریخ ایران ہمالیہ صنوع سے خارج ہے۔ صرف یہاں مختصر حالات لکھ دئے گئے ہیں تاکہ عہد بنی عباس میں ایران کے مسلم حکمرانوں کا جو ذکر چکا ہے، اسکا سلسلہ قائم رہے۔

خلافت عباسیہ پر ایک سیاسی اور تاریخی نظر

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد نبی امیہ اپنے جبروت اور سیاسی ڈپلومی سے خلفائے راشدین کے جانشین بن کر عظیم الشان حکومت کے بانی ہوئے اور خلفائے راشدین کی فتوحات پر اپنی دولت قائم کی۔ امیر معاویہ کے موسس اول تھے۔

یہ دولت بنی امیہ ۴۰ھ میں قائم ہوئی اور ۱۳۲ھ میں ختم ہو گئی خلافت راشدہ جمہوری نظام پر قائم تھی مگر امیر معاویہ نے خلافت راشدہ کا نظام سیاسی ختم کر دیا جس کی بنیاد شوری پر قائم تھی اسکی جگہ انھوں نے موروثی نظام کی وضع کی۔ دالی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عظمیٰ حکومت کی شکل میں تبدیل ہو گئی خلافت راشدہ عظمیٰ کی سی سادگی کے بجائے امیر کو در اختیار کئے گئے۔ وہ حضرات قدسی جنھوں نے خلفاء راشدین عہد مبارک پایا تھا ان کو گراں خاطر ہوا مگر امیر معاویہ کی تدبیر سے کچھ عرصہ کے لیے دلی کے ساتھ ساکت رہے لیکن یزید کی دلی عہدی پر اجلہ قریش رابن زید وغیرہ، بکر بیٹے مکرملواران کے

سروں پر رکھ دی گئی انھوں نے پھر بھی بیعت نہیں کی پر جان
کے خطرہ سے خاموش رہے انکے سکوت سے یزید کی کچھ لے بیعت
کی اور اہل مدینہ یزید سے بیزاری رہے۔

امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی ستمیہ میں یزید تحت حکومت پر متمکن
ہوا سب سے پہلے اسے یہ کیا کہ امیر معاویہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت
عبد بن زبیر حضرت حسین علیؑ عبدالرحمن ابوبکرؑ حضرت عبداللہ بن عباس
نے بیعت سے انکار کیا تھا ان سے اپنی بیعت کے لئے مدینہ پہلا بھیجا تو عبداللہ بن عمر
اور عبداللہ بن عباس نے باجبراً کرہ بیعت کر لی مگر امام حسینؑ اور عبداللہ بن زبیر نے
صاف طور سے بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ سے نکل آئے اس آئنا میں امام حسین
کے پاس اہل کوفہ کے خطوط آئے جنہیں انہیں عراق آنے کی دعوت دی گئی۔
اور ان سے بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا آپ نے ان کی دعوت کو قبول
کیا باوجودیکہ عبداللہ بن عباس نے کوفہ جانے سے روکا اور مین جانے کا مشورہ دیا مگر آپ
کوفیوں کی طلبی پر تشریف لے گئے جہاں کربلا کا روح گداز واقعہ پیش آیا اس واقعہ
نے نبی امیہ کے خلاف بنی ہاشم میں سرگرمی عمل پیدا کر دی اور حصول خلافت
کے لئے دعوت آل محمدؐ کی بنیاد پڑی اس دعوت کی بدولت تباہی اور بربادی
کے ساتھ دولت بنی امیہ کا خاتمہ ہوا گو علویں نے اس سلسلہ میں بڑی بڑی
جان کی قربانیاں دیں اس تحریک کو ہاتھ میں لے کر بنی عباس کا مرانی کے
درجہ کو پہنچنے مگر جب انھوں نے علویں کو نظر انداز کر دیا انھوں نے اس دعوت کی

بدولت قلم و دولت بنی عباس سے علاقہ لے کر دولت اوزیہ۔ دولت زیدیہ۔ دولت
 بنی فاطمہ کے نام سے حکمرانیاں قائم کر لیں یہ بھی ایک سبب دولت بنی عباس کے
 زوال کا ہے لطف یہ ہے کہ اس دعوت کی آڑ لے کر خلافت بنی عباس قائم
 ہوئی اور اس دعوت کی مخالفت کر کے دولت بنی عباس نے زوال کی راہ
 اختیار کی۔ اس سے بڑھ کر دوسرا سبب زوال کا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی عباس
 نے عربوں کو نظر انداز کیا عجمیوں اور ترکوں کو تو ان اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں
 کی عصبیت پائمال ہو کے رہ گئی اور وہی باتیں عربوں میں عود کر آئیں جن کو
 اسلام نے ختم کیا تھا اسلام نے عرب کے متفرق اور متخاصم قبائل میں وحدت اور
 اخوت پیدا کر دی تھی جس کی بدولت تمام قبائل بھائی بھائی اور شیر و شکر ہو گئے
 تھے۔ ان کے پیش نظر صرف ایک چیز تھی، رضائے الہی اور اعلائے کلمتہ الحق
 اس متحدہ عربی عصبیت اور قومیت سے خلفاء راشدین کے عہد میں اسلام
 کی شوکت و عظمت قائم ہوئی اور ایسی کی بدولت شام۔ ایران مصر وغیرہ
 زیر نگیں اسلام آئے گو بنی امیہ میں سے آل مروان نے قبائلی عصبیت کو بھرکا
 دیا مگر عربی عصبیت اس قدر کمزور نہیں پڑی تھی یہی وجہ ہے کہ عہد دولت
 بنی امیہ میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا مگر قبائلی عصبیت کی آگ
 جو روشن کر چکے تھے اس کے شعلوں میں آپ جل اٹھے۔

داعیان دعوت آل محمد نے عربی عصبیت پر اعتماد نہیں کیا بلکہ انہوں
 نے قرابت رسول کا واسطہ دیکر عرب ہو یا عجم اس کو اپنایا اور ہمہوا بنایا اور
 عجمیوں اور عرب سے کام نکل گیا تو صاحب اقتدار عجمیوں سے عربوں کو کچلا دیا

گواہوں نے ہاتھ پیرپے اقتدار کے لیے چلائے مگر حکومت کا باغی قرار دے کر ان کی طاقت کو ابھرنے نہ دیا۔ آخر شہ عربی تعصبت پائمال ہو کے رہ گئی

خلافت عباسیہ

خلفائے بنی عباس اپنی شان و شکوہ اور عظمت و وقار اور شجاعت و سیاست دانی میں ایک امتیازی شان کے حامل نظر آتے ہیں۔ تہذیب و تمدن علوم و فنون کی ترقی و ایجاد، مردہ علوم کے زندہ رکھنے میں خلفائی کا رفرمانی کونیا وہ دخل ہے یہی وجہ ہے کہ مورخین اس عہد ندیں کا ذکر کرتے ہوئے طب المسان ہیں عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ سفاح اعظم تھا۔

تعالیٰ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ

اگرچہ ابوعباس السفاح بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا اس کا بھائی ابو جعفر المنصور اس خاندان کا حقیقی آغاز کرنے والا تھا المانیو اس کے وسطی دور کا قائد تھا المقصد ۹۲۸ء ۹۳۵ء اس کو ختم کرنے والا تھا اگرچہ یہ خاندان المستعصم پر جو ۳۷۰ء خلیفہ تھا ۵۴۵ء میں تانا ربول کے ظلم و ستم سے ہمیشہ ہمیش کے لئے مٹ جاتا ہے

لایب دنیائے اسلام میں بنو عباس کی حکومت عربوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس خلافت شرقی کے عہد زریں کا جو اب بنو امیہ اور بنو

کے یہاں بھی نہ تھا بنی امیہ دمشق اور بنو فاطمہ مصر کے تزک احتشام کے مقابلہ میں اگرچہ بنو امیہ کی فتوحات کی یاد المہدی کے عہد کے کچھ تازہ کر دی تھی جبکہ عرب تو ۸۲۲ء میں قسطنطنیہ کے دروازہ پر پہنچ گئیں اور اس جنگ میں ہارون الرشید نے داد شجاعت دی اور اپنے خلافت کے عہد میں "روما" کے غرور کو نیچا دکھایا تیسری فورس، اول کو کابل شکست دی علاوہ ہرقلہ اور الطوازیہ پر قبضہ کر لینے کے ۸۰۶ء میں نہ صرف روما سے سابقہ مقررہ خراج وصول کیا بلکہ تیسری فورس کی ذات پر محصول عاید کیا۔ غرض کہ ہارون کے دور اقبال میں مطلع سیاست صاف تھا تو علم کی ترویج اور اشاعت کی طرف توجہ مبذول کی۔

دارالخلافہ بغداد کی شان و شوکت اس کی علمی ترقی و وسعت تجارت اور ترقی صنعت و حرفت کا الاغانی عقد الفرید الفہرست کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے۔

بنی عباس کے سیاسی افکار

حقیقتاً دولت بنی عباس دعوت آل محمد کی وجہ سے قائم ہوئی آل ہاشم میں بنی عباس سیاسی دماغ رکھتے تھے ان کی حصول خلافت میں اس قدر قربانی نہیں ہے جس قدر علویین کی ہے بلکہ علویین نے جو حصول خلافت کے لئے میدان تیار کیا تھا اس سے بنی عباس نے بڑا فائدہ اٹھایا علویین میں سے ہی ایک بزرگ نے امام محمد بن علی عباسی کو اپنا جانشین کیا اور ان کی معاونت کے لیے اپنے انصار و معاونین کو وصیت کر گئے چنانچہ ان حضرات نے اپنے

امام کی حکم کی پوری پوری اطاعت کی مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ
امام محمد کی اعلیٰ قابلیت اور سیاسی دور بینی نے دولت بنی عباس کے قیام کے
لیے راہیں کھولیں۔

دعوت بنی عباس

آل ہاشم میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بڑا سیاست دان اور قوموں
کی نفسیات کا واقف کار تھا اس بزرگوار نے حمیمہ سے بیٹھ کر حصول خلافت کے لیے
جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کامیاب رہا چنانچہ ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ
محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے مبلغین کو اپنی دعوت کے
لیے منتخب کیا تو ان کے سامنے مختلف مقامات اور مختلف خصوصیات
وضاحت سے بیان کیں۔ انہوں نے اپنے سلسلہ بیان میں کہا
کہ کوفہ اور اس کے مضافات میں شیعہ آباد ہیں بصرے میں عثمان
کی طبیعت کے لوگ ہیں جو جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتے اور کہتے
ہیں کہ عبداللہ مقتول بنو۔ عبداللہ قاتل مت بنو جزیرے کے
لوگ یا تو خارجی ہیں یا بے وقوف بدویا ایسے مسلمان جنکے اخلاق
عیسائیوں کے سے ہیں۔ اہل شام سوائے ابوسفیان کی اولاد
اور بنی مروان کی اطاعت کے اور کچھ نہیں جانتے ہمارے پورے
دشمن اور پورے جاہل ہیں مکے اور مدینہ والوں پر ابو بکر اور
عمر کا اثر ہے لیکن خراسان کو نہ بھولنا یہاں کے رہنے والوں

کی تعداد بے شمار ہے ان کی بہادری مشہور ہے ان کے سینے پاک
وصاف ہیں ان کے دل برائیوں سے خالی ہیں خواہشات فرقہ بندی اور
مذہبیت نے انہیں تقسیم نہیں کیا ہے اور نہ ان میں فساد نے راہ پائی
ہے ان میں نہ تو عرب کی طرح نام و نمود کی خواہش ہے اور نہ
ان میں تبیین سادات کی طرح ایک دوسرے کی طرفداری
کا جذبہ ہے یا جیسا کہ قیدیوں میں باہم عہد و پیمان ہوتا ہے
باہر قبیلے میں اپنے قبیلے کی عصبیت ہوتی ہے ان میں یہ بات
بھی نہیں ہے ان پر برا بھلا کیا جاتا ہے اور انھیں ذلیل و خوار کیا
جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔
وہ ایک ایسا لشکر ہیں جن کے بھاری بھر کم جسم ہیں شاندار
کندھے اور شانے ہیں بڑے بڑے سر ہیں ڈاڑھیاں ہیں اور
موتھیں ہیں اونچی آواز ہے شاندار زبان ہے جو ڈراونے
منہ سے نکلتی ہے

دعا نے خراسان جا کر دولت بنی امیہ کے خلاف میدان تیار کر لیا
ابو مسلم خراسانی کو امام محمد نے بھیجا جس نے تھوڑے عرصہ میں دور دور تک یہ
تحریک پہلا دی امام محمد کے بعد ابراہیم امام ہوئے انھوں نے ابو مسلم کو یہ
خط لکھا۔

اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ خراسان میں کسی کو بھی جو عربی زبان بولتا

ہونہ چھوڑا اور قتل کر دو تو ایسا ضرور کر داور ہر عربی لڑکا جو
قد میں پانچ باشت تک پہنچ گیا ہو اسے قتل کر دو مصر کا خاص طور
پر خیال رکھنا چاہئے یہ ایسے دشمن ہیں کہ تمہارے گھر سے قریب
ہیں ان کی ہری بھری کھیتی تباہ کر دو ان میں سے کوئی زندہ چھوڑو
عربوں کا قتل عام ابوسلم کے ہاتھوں ہوا ۶ لاکھ عرب قتل ہوئے
جن عرب دعاۃ تے ابوسلم کا ساتھ دیا تھا قحطیہ الطائی سے حضرات کو آخر
قتل کر دیا منصور کی عہد رویاں خراسانیوں کے ساتھ بہت تھیں عجمی حکومت پر
چھاگئے دولت بنی عباس کی شان و شوکت مثل ساسانی شہنشاہی کے مانند
بن گئی جا حظ نے اسی وجہ سے لکھا ہے

عباسی حکومت عجمی خراسانی ہے اور اموی حکومت عربی
بدوی

گو بنی عباس کی حکومت شاندار قائم ہو گئی مگر کزور خلفا کے عہد میں یہی خراسانی
دعویٰ وبال جان بن گئے۔

نبی امیہ کا آفتاب حکومت ۱۳۲ھ
خلافت عباسیہ کے امتیازات خصوصاً میں راب کے معرکہ میں غروب
ہو گیا۔ اور عباسی اقتدار کا آفتاب طلوع ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پانچ صدی
تک نہایت شان شکوہ سے دولت عباسیہ قائم رہی۔

باوجودیکہ ان کے ہی زمانہ میں دولت بنی بویہ، سلاجقہ اور خوارزم شاہی

۱۳۲ھ شرح تاریخ البلاغۃ جلد ۱ صفحہ ۳۰۹ ۱۳۲ھ ابن اثیر جلد ۱ صفحہ ۲۲ ۱۳۲ھ طبری جلد ۱ صفحہ ۹
۱۳۸ھ کتاب ابوزرہ البعث صفحہ ۱۳۸

زبردست سلطنتیں تھیں لیکن ان کی نہ بنی عباس کی ہی مملکت وسیع تھی اور نہ انکی حکومت عام ہونی ^{سکے}

دولت عباسیہ، عظیم الشان حکومت تھی اس کی عالمگیر حکومت کی سیاست کا امتزاج مذہب و ملوکیت دونوں سے تھا۔ نیک اور اچھے افراد اسکی اطاعت اس کی دین پرستی و مذہب نوازی کی وجہ سے کرتے تھے اور باقی لوگ اس کے ہیبت و جلال یا اپنے حرص و طمع کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکاتے تھے ^{سکے}

چند خلفاء صلاحت بنی عباس میں ایسے عالی مرتب تھے جن کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نہیں ملتی اور بنی فاطمی تو پیش ہی نہیں کر سکتے ان کے عدل و انصاف زہد و وسع کا جواب نہیں ابنتہ چند خلفاء ایسے تھے جنکی اخلاقی کمزوری سے امر نے فائدہ اٹھایا اور انکے ہاتھوں باڑیکہ اطفال بن گئے۔ سفاح سے واثق تک تمام خلفاء اپنے کردار اور اولوالعزما نہ روش کے اعتبار سے بیگانہ روزگار تھے ان میں کچھ کمزوریاں ضرور تھیں مگر اسی کے ساتھ ان کے کارنامے بہت ہی روشن ہیں ابنتہ منصور سے جو کوتاہی عربوں کے حق میں ہوئی یا ہارون نے ولی عہد مقرر کر کے حکومت کو تین حصوں میں تقسیم کیا اس نے خاندان شاہی میں رقیبانہ کشمکش اور باہمی بغض و عداوت پیدا کر دی جس سے خاندان کا شیرازہ بکھر گیا اور یہی دولت عباسیہ کے زوال کا پیش خیمہ تھا۔

متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھوں کام آئے جو امرائے ترک شریک سازش تھے

انکی بن آئی اور اس قدر عادی تھے کہ جس کو چاہتے خلیفہ کرتے جس کو چاہتے معزول کر دیتے غرض کہ خلیفہ ترکوں کے ہاتھ میں کھلونہ تھے زندگی موت اور خلافت ترکوں کے ہاتھ میں تھی انھوں نے مصر کو تڑپا تڑپا کر مارا مہدی کو خلیفہ بنایا یہ کفر سیرت زہد و تقویٰ اور عبادت گزاروں کے لحاظ سے بہت حتمی تھا خلیفہ تھا عمر بن عبد العزیز اموی سے اس کی سیرت بہت ملتی جلتی تھی مگر جاہل ترکوں نے اس مقدس خلیفہ کو معطل کر دیا اور آخر میں اسے ترکوں نے مار ڈالا اس کے بعد معتز خلیفہ ہوا اس کو اپنی دلچسپیوں سے فرحت نہ تھی مگر اس کا بھائی موفی عباسی نائب سلطنت ہوا اس نے حکومت کو سنبھالا جب اس کا بیٹا ابوالعباس خلیفہ ہوا نہایت جاہ و جلال اور بیست و دو ہجرت کا خلیفہ تھا معتز با اللہ رقب تھا اس نے خلافت عباسیہ کے بے روح جسم میں جان ڈال دی سفاح ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کشتی نوابان ثابت ہوا۔ مقتدر کے زمانہ میں پھر فتنے اور شورشیں اٹھ کھڑی ہوئیں ایک خادم سپہ سالار مونس نے ۳۱۰ھ میں بغداد پر چڑھائی کر دی خلیفہ بھاگنے پر مجبور ہوئے آخر کا تھا خلیفہ بنائے گئے مگر پھر دوبارہ مقتدر کو خلافت ملی یہ عمر در ہے کہ اس کے عہد میں اندرونی شورشوں اور بیرونی فتنوں کے ہوتے ہوئے شان و شکوہ اور عظمت جلال کا دور تھا اس کے زمانہ میں شہنشاہ روم کا سفیر مصالحت کی غرض سے بغداد آیا اور یہاں وہ نقشہ دیکھا جو شہنشاہ روم کے یہاں خواب خیال تھا مگر اس کی زندگی کا خاتمہ فوجیوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس کے بعد قاسم خلیفہ ہوا اعنان خلافت سپہ سالار مونس اور وزیر اعظم ابن مقلہ کے ہاتھوں تھی ان کے

ہاتھوں خلیفہ اندھا کیا گیا ایک دن جامع منصور میں قاپر نے صدقہ کا سوال کیا
ایک ہاتھی کو غیرت آئی پانسو دہم دے اور سوال کرنے سے منع کیا اسے
مستکفی کے بعد اسی تخت خلافت پر بیٹھا مگر اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا
مرکز خلافت میں ترک چیزوں کا اثر و نفوذ بہت بڑھ گیا دوسری طرف خود مختار
حکمرانیاں خلافت کے لیے مستقل خطرہ تھیں فارس میں علی بن بویہ کا اقتدار تھا
رے، اصفہان و بلاد الجبل پر اس کا بھائی حسن مستولی تھا موصل و یاربکر و دیار
ربیعہ بنو حمدان کے قبضہ میں تھا مصر و شام میں اخیسید کی آزاد حکمرانی تھی
خراسان میں سامانی خود مختار سلطنت قائم تھی اندلس میں عبدالرحمن ثالث
خلیفہ تھا اس سے بڑھ کر اس وقت عالم اسلامی میں تین خلافتیں تھیں بغداد، اندلس
تیسری خلافت بلاد مغرب میں خلافت ناطیہ کی تھی۔

راقی نے ایک عہدہ امیر الامرا کا نیا قائم کیا بصرہ اور واسط کا گورنر بن
رائق مقرر کیا مگر نظم و نسق سلطنت سدھرنے کے بجائے اور بگڑ گیا ابن رائق کی
آمرانہ حیثیت تھی خلیفہ نے جس غرض کے لیے ابن رائق کو یہ منصب دیا تھا
وہ تو پورا ہوا نہیں بلکہ خود عضو معطل ہو کے رہ گئے تو اس کے طاقتور حریف
کو کھڑا کر دیا وہ دونوں آپس میں کٹے مرے مگر رائق پھر برسر اقتدار آیا اسے
خلیفہ سے اتمام لیا متقی سریر آئے خلافت ہوئے ابو عبداللہ شرییدی والی
اموازہ کو امیر الامرا بننے کی تمنا ہوئی وہ رائق سے بھڑا مگر ابن رائق کامیاب ہوا
پھر اسے حکم کے خلاف صف آرائی کی حکم قتل ہوا اور ابن رائق دوبارہ عہدہ پر

تمکن ہوا اب بریدی دوبارہ حرلیبن کر بغداد پر حملہ آندہ ہوا ابن رائق اور
 خلیفہ ناصر الدولہ حمدانی کے یہاں موصول میں پناہ گیر ہوئے ناصر نے ابن رائق کو قتل
 کر دیا یہ غلام تھا جو آگے چل کر آقا بن گیا تھا ناصر خلیفہ کو لے کر بغداد پہنچا اور بریدی
 کو نکال کر خود امیر الامرا بن گیا مگر پولس افسر تو زون ترکی نے اس کو بیدخل کر دیا
 اور خود امیر الامرا بن بیٹھا مگر متقی کو تو زون گران خاطر تھا اس کے خلاف کچھ
 کرنا چاہا اس نے خلیفہ کو حراست میں لے کر عبداللہ بن مکتفی کو خلیفہ کر دیا اور متقی
 کی آنکھوں میں سلانی پھیر دی متقی عبداللہ بن مکتفی سر پر آئے خلافت ہوا
 گو متقی خلیفہ تھا مگر بالکل بے بس مگر کچھ دن بعد تو زون مر گیا تو ابو جعفر بن شیرزاد
 اس عہدہ پر تمکن ہوا وہ تو زون سے بھی زیادہ آمر تھا علی بن یوہ نے بریدی کی
 مدد ابن رائق کے مقابلہ میں کی تھی اب شیرزاد پر احمد بن یوہ چڑھ دوڑا اور وہ
 روپوش ہو گیا خلیفہ نے احمد کو امیر الامرا کر دیا مطیع اور طالع کے زمانہ میں احمد
 معز الدولہ نے خلافت کے نظم و نسق پر پورا اقتدار جمایا صرف پانچ ہزار درہم روزانہ
 خلیفہ کو ملتے ابن یوہ نے خلیفہ کے ساتھ ناروا سلوک جائز رکھے۔

عصدا الدولہ دہلی نے طالع کو اس قدر مجبور و لاچار کر دیا تھا کہ جب وہ سفر
 سے آنا خلیفہ استقبال کرنے کے لیے جب ہر دو کے تعلقات بگڑ گئے تو دو ماہ تک طالع کا
 نام خطبہ سے خارج کر دیا اور خلیفہ کو مجبور کر کے اپنی ڈیوٹی پر تین دنوں تک نوبت بچنے
 کا حکم صادر کیا مگر عام مجلسوں میں یاد رہا میں عصدا دولہ نیاز مند نہ حیثیت
 سے پیش آتا تھا عصدا کے مرنے پر اسکا بیٹا مصمام الدولہ جانشین ہوا پھر شرف الدولہ

۱۰ تاریخ الخلفاء صفحہ ۳۶۲ تا ۳۷۱ ابن اثیر جلد ۸ صفحہ ۲۰۳ تا ۲۰۵ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۴۰-۲۴۱

اٹھ کھڑا ہوا اس نے مصمام کی آنکھوں میں سلانی پھیر دی وہ اندھا ہو گیا
تو خلیفہ نے شرف الدولہ کو نوازا اس کے مرنے پر ابو نصر جانشین ہوا طالع نے سات
خلعتیں مرحمت کیں تلوار کے سایہ میں خلیفہ کے حضور میں لایا گیا زمین بوس ہو کر
کرسی پر بیٹھا اس نے ہی طالع کو معزول کیا اور قادر کو خلیفہ مقرر کیا قادر حکومت
کی صلاحیت رکھتا تھا ہجرت گزار تھا خیرات و صدقات کا خوگر تھا حسن سیرت اور
حسن اطوار میں ممتاز تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مذہبی عقاید نہایت اچھے تھے
مگر ابو نصر بہاؤ الدولہ نے اپنا اقتدار بڑھا لیا خلیفہ معطل سے تھے قادر کے
بعد قائم خلیفہ ہوا مگر سیاسی حیثیت ان کی کچھ نہ تھی وہ عالم اسلامی پر حکومت
ضرور کرتے تھے مگر نظم و نسق میں کوئی دخل نہ تھا بہار الدولہ کا غلام ابو الحارث
ارسلان بن عید اللہ ساکن بارسا میں، جو بسایری کے نام سے مشہور ^{نفس}
میں بغداد پر چڑھائی کر دی اور آل بویہ کا اقتدار بھی ختم ہو گیا بسایری نے خلیفہ
کو نظر بند کر دیا اور ظلم و ستم ایسے توڑے کہ تنگ آ کر خلیفہ نے طغرل بک سلجوقی سے مدد
چاہی اس نے آ کر بسایری کو نکال باہر کیا اور آل بویہ کی سلطنت کا جنازہ
بھی عراق میں دفن کر دیا۔

سلاجقہ کے دور اقتدار میں خلفا کی بیچارگی آل بویہ کے دور سے کچھ کم نہ تھی
انہوں نے بھی خلفا کی معیشت اور گزراوقات کے لیے جاگیریں مقرر کر دی تھیں۔
حکومت کے نظم و نسق میں دخل دے سکتے تھے خطبہ میں نام ضرور پڑھا جاتا البتہ یہ
اپنے اوقات محلات کی تعمیر و مرمت میں صرف کرتے تھے ^{۱۹۷} سلاجقہ تحفہ وہاں یہ

۱۹۷ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۴۰-۲۴۱ تاریخ بغداد جلد ۴ صفحہ ۳۲۵ بغدادی زیدہ اشکر صفحہ

خلیفہ کی خدمت میں بہت بھجیتے تھے اس کے علاوہ طغرل نے قائم کی لڑکی سے شادی کی مقتدی نے اسپا ارسلان کی بیٹی سے مستظہر نے ملک شاہ کی بیٹی سے اور مقتضی نے سلطان محمود کی بہن سے شادی کی اس قدر تعلقات قائم ہو گئے مگر ملک شاہ کے دل میں خلیفہ کا یہ احترام تھا کہ مقتدی کو دارالخلافہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور صرف دس دن کی مہلت دی بتائے مخاصمت یہ تھی کہ خلیفہ کے دو لڑکے تھے مستظہر اور ابو الفضل جعفر ابن بنت ملک شاہ خلیفہ نے مستظہر کو ولی عہد کیا ملک شاہ اپنے نواسہ کو ولی عہد کرانا چاہتا تھا اس پر ملک شاہ نے کہا کہ مستظہر کو ولی عہدی سے خارج کر دو اور بغداد جعفر کو سونپ کر خود بصرہ چلے جاؤ مقتدی نے اپنے عہد میں نئے سرے سے اقتدار قائم کرنے کی پہل کی ولی عہدی کے مسئلہ میں ملک شاہ کے کہنے کو ٹھکرا دیا مستظہر نے کچھ اور ہاتھ پیر کائے مترشد کھل کے سلاجقہ کے سامنے آ گیا۔

سیوطی کا بیان ہے۔

وہ بلند ہمت نہایت بہا و بگری مدبر اور پڑا باہمیت خلیفہ تھا اس نے خلافت کے نظم و نسق کو درست کیا اور اس میں صحیح اور بہتر تنظیم و ترتیب قائم کی خلافت کے امتیازات کو زندہ کیا اور اس کی عظمت کو بڑھا یا اسکان شریعت کو مستحکم کیا یہ خلیفہ بذات خود جنگوں میں شریک ہوتا تھا۔

مترشد نے سلطان محمود بن محمد بن ملک شاہ سلجوقی پر جرہ عالی کر دی

۱۷۴ ابن خلکان جلد ۱ صفحہ ۱۶۴ ۱۷۵ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۸۶

اور اسے شکست دی ممکن تھا کہ اس وقت وہ سلجوقیوں کا خاتمہ کر دیتا مگر حاکم بصرہ
 زندگی کی کمک آگئی جس سے وہ سنبھل گیا سلطان محمود مراٹو خلیفہ نے سلجوقی امر کو باہم
 لڑوا دیا کہ وہ دست و گریباں ہو گئے ادھر زندگی کی خبر ملی موصل تک سے بھگا دیا
 سے مقابلہ ہوا ایک امیر سلجوقی نے خلیفہ سے دعا کی جسکی وجہ سے شکست کا منہ دیکھنا
 پڑا اور امیر ہو کر خیمہ میں محسوس ہوئے جہاں باطنی کے گردہ کے ہاتھوں شہید ہوئے
 خلیفہ راشد نے بھی باپ کے قدم پر قدم رکھا اس کے بعد مقتضی خلیفہ ہوا
 ذہبی کا بیان ہے -

مقتضی اعظم خلفا میں سے تھا شجاع و بردبار تھا اس نے خلافت
 کے امتیازات کے ابھرنے کی راہ کو ہوا رکھا وہ حکومت کا تمام نظم
 و نسق اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور ایک سے زائد بار فوج کی کامیاب
 قیادت کر چکا تھا مستعصم کے عہد کے بعد اب تک کوئی ایسا خلیفہ
 نہیں ہوا تھا جو باوجود چشم پوشی نرم خوئی اور رحمت و رافت کے
 اس قدر صاحب جاہ و جلال طبیعت کا صاف اور شجاع ہو یہ
 نہایت عابد و زاہد اور پرہیزگار خلیفہ تھا۔

آخر دم تک اسکی فوجوں کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا

علامہ طحطاقی بھی یہی کہتا ہے کہ

مقتضی نہایت بلند مرتبہ خلیفہ تھا اس نے عباسیہ کے دور خروج
 کی تجدید میں سعی عمل کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا

مستخبر اور منتضیٰ خلیفہ ہوئے۔

اسکے بعد ناصر خلیفہ ہوا اس نے خوارزم شاہ کو منہ نہ لگا یا اس نے بغداد پر حملہ کرنا چاہا تو چنگیز خاں کو خفیہ خط لکھ کر اسے بھڑا دیا ظاہر اور مستنصر کے عہد کا قابل ذکر تذکرہ نہیں ہے مستنصر آخری خلیفہ ہے جو تاریخوں کے ہاتھوں ختم ہوا مگر آگے اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی پانوسالہ مختصر تاریخ دولت بنی عباس کی اب اس بحث پر آتے ہیں کہ عجمیوں اور ترکوں کو نوازنے نے خلفا کی کیا حالت کر دی تھی یہ تمام باتیں عربوں کو نظر انداز کرنے سے پیش آئیں کیونکہ دعوت بنی عباس کے آغاز سے ہی عرب پانسال کے جا رہے تھے بہت کچھ پہلے لکھ چکے ہیں اب کچھ باتیں تائید میں پیش کرتے ہیں۔

عربوں کی ریاست و قیادت کا خاتمہ

علامہ سیوطی کا بیان ہے۔

خلیفہ منصور پہلا شخص ہے جس نے موالی کو بہت سے کاموں پر مامور کیا اور انھیں عربوں پر ترجیح دی بعد میں تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ عربوں کی ریاست اور قیادت ہی سرے سے فنا ہو گئی

علامہ سعودی منصور کے بارے میں لکھتا ہے کہ

وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے اپنے موالی اور غلاموں کو غافل بنایا اور بڑی بڑی ریاست ان کو تفویض کیں اس چیز کو بعد کے خلفائے عباس کی

علامہ ابن خلدون جدید سنہ ۱۸۵۰ تا تاریخ اختلاف صفحہ ۱۵۰

اولاد تھے بطور آبائی سنت کے اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب تباہ ہو گئے ان کی شان و شوکت اور عزت و مرتبہ سب ختم ہو گیا بادئ النظر میں یہ کہا جائے گا کہ اشک شومی اور عام مخالفت کی وجہ سے منصور عربوں کو سلسلہ سے لگا دیا کرتا تھا کیا طرح سلم بن قتیبہ الباہلی کو بصرہ کا والی بنایا مگر اس کے ساتھ ایک مولیٰ کو بصرہ اور انہ کے علاقہ کی ولایت پر بھی مامور کیا

طبری کا بیان ہے۔

خلیفہ منصور کا ایک غلام گندمی رنگ کا تھا اپنے کام میں خوب ماہر تھا اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ایک دن خلیفہ منصور نے اس سے پوچھا تم کس نسل سے ہو اسے جواب دیا حولاں سے ہوں میں نے قید کیا گیا دشمنوں نے قید کر کے مجھے غلام بنا دیا پہلے میں بنی امیہ کے خاندان میں آیا اور وہاں سے آپ کی خدمت میں منصور نے کہا اس میں تو شک نہیں کہ تم بہت اچھے غلام ہو لیکن مرے محل میں مری حرم کی خدمت کرنے کے لئے کوئی عربی داخل نہیں ہو سکتا اس لئے تم یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ خدا تمہیں معاف کرے۔

منصور کا ہی صرف یہ عمل نہ تھا منصور کے بعد کا خلفا کا بھی یہی طریقہ رہا مجبوری درجہ عربوں سے تعلق رکھتے تھے۔

زوال کا سبب صلی

دوسرے اسباب کے علاوہ دولت بنی عباس کے زوال کا سبب عربوں کو نظر انداز کر دینا تھا عرب عہدوں وغیرہ سے الگ ہو کر زادیہ خاموش ہیں چھپ گئے اس پر طرہ یہ اور تھا کہ منصور سے لے کر مامون تک تو عجمی سرا ہے جاتے تھے معتصم نے جاہل ترکوں کو بھڑانا شروع کر دیا۔ پھر تو ان کے ہاتھ میں حکومت کی باگ آگئی حتیٰ کہ خلیفہ کے عزل و نصب کے انکو حقوق تھے جب بنی بوہلے حکومت بعد اود ہاتھ میں لی پھر تو اور بھی گئی گذری حالت ہو گئی حتیٰ کہ آخری خلفاء بنی عباس اس قدم کو روہ گئے تھے کہ ان کی حکومت صرف مملکت عراق پر رہ گئی تھی یہاں تک کہ قلعہ اربل جو قریب ہی تھا ان کی حکومت سے نکل گیا تھا جب مستنصر کے زمانہ میں والی اربل کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا اور جب وہ مشکل تمام فتح ہوا تو بغداد میں خوشیاں منائی گئیں خلیفہ کے دروازے پر نقارے بجے اور شہر آراستہ کیا گیا۔

یہ ضرور ہے کہ احترام خلفا کا قائم تھا علامہ طحطاقی لکھتے ہیں کہ ملوک اطراف پر ان خلفا کا دینی احترام و اقتدار آخر تک باقی رہا۔ شام و مصر کے بادشاہ ہر سال ان کو بڑے بڑے تحفے بھیجتے اور ان سے اپنی اپنی ولایتوں پر حکومت کرنے کی اجازت حاصل کرتے۔ خلفائے صرف خطبہ و سکہ پر اکتفا کر دیا تھا۔

علم مقدمہ الفزی

خلفاء عباسیہ کا مذہبی اقتدار

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خلفائے بنی عباس کا مذہبی اقتدار ہر زمانہ میں قائم رہا پہلے خلیفہ بنی عباس سفاح نے بیعت کے وقت خطبہ میں کہا تھا اب اللہ رسول ان کے عم محترم عباس کا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق برتاؤ کریں گے اور وہی طریقہ رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔

تاریخ گواہ ہے کہ کہاں تک خلفاء کا اس پر عمل ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ بنی امیہ کے مقابلہ میں وہ کچھ امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ خیرات و مہرات میں شاہان عالم سے سبقت لے گئے تھے۔ شعراء و دین کا احترام ملحوظ رکھتے ان کے عہد میں اکثر ممالک میں اسلام پھیلا مدنی اور معاشرتی ترقی ہوئی پست قومیں بلند درجہ پر پہنچی مگر یہ حقیقت ہے اسلامی روح انہیں وہ نہ تھی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا جمہوریت کے بجائے انہیں استبداد تھا استبداد کے جو لائنیں نقائص ہیں ان سے وہ بچ نہ سکے۔ عجمیوں اور ترکوں کو بڑھا کر ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کے بیٹے تھے ان کا مذہبی اقتدار اور حیثیت ہر زمانہ میں قائم رہی۔

پروفیسر علی ابراہیم حسن ام اس نے النظم اسلامیہ میں لکھا ہے۔ یہ دونوں میں جاگزیں تھا کہ خلافت ایک ایسا نظام ہے جو اصلاح عالم اور دنیا کے نظام کو صحیح حالت میں رکھنے کے لئے ناگزیر ہے اور خلیفہ اس نظام خلافت اور اس اقتدار کا مرکز اور

سرخسہ ہے جب خلیفہ عباسی سے دنیاوی اقتدار سلب ہو چکا
 تھا۔ اور طاقتور امرا ترک اور بنی بویہ و سلاجقہ نے جب جی چاہا
 معزول کر دیا اور جی میں آیا تو قتل کر دیا۔ اس وقت بھی یہ عالمگیر
 ذہنیت فنا نہیں ہوئی تھی اور خلیفہ کا مذہبی اقتدار اپنی جگہ پر تھا
 ایک زمانہ خلفا پر وہ بھی گذرا تھا جب صدقات پر ان کی زندگی قائم
 تھی اس وقت بھی ان کی تہہ سی فرما تروائی پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ مسلمانوں کے
 بہت سے حکمراں اس زبون حالی میں بھی اس کے اقتدار کے معترف اور اس
 سے تفویض رنیا بت کی التجا کرتے تھے کہ ان کے عقیدہ میں وہ آنحضرت صلیم
 کا جانشین اور مسلمانوں کی قوت کا سرخسہ تھا ان امر کی حکمت عملی اس تفویض
 سے یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بزور شمشیر حکومت کو مذہبی حیثیت دیدیں اسی پالیسی
 کے ماتحت سلطان محمود غزنوی نے خلیفہ مقتدی بالله کی خلافت کے ساتھ
 سر جھکا یا تھا اور یوسف بن تاسفین شاہ مرا بطین نے اس کی خلافت کو تسلیم
 کیا تھا اور اس سے شرعی تفویض کی التجا کی تھی خلیفہ مقتدی نے اسے تفویض
 عنایت کی اور اس کے اختیار کردہ لقب امیر المسلمین کو برقرار رکھا۔
 غرض کہ عباس خلیفہ عالمگیر مذہبی احترام کا مرکز تھا حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین
 ایوبی کے ہاتھوں دولت فاطمیہ کا خاتمہ ہوا مگر اس جلس القدر سلطان نے بھی عباسی
 خلیفہ مستضیٰ کے نام کا خطبہ مصر بلا و مغرب میں اور سورہ دشام کے منبروں پر
 پڑھوایا خلیفہ نے بطور اظہار خوشنودی اسے ان ممالک کی نیابت کا شرف بخشا
 تھا خلیفہ مستضیٰ نے نور الدین عمر کو بلا دین کی نیابت عنایت کی اس خلیفہ نے شمس الدین

التمش کو ہندوستان کی نیابت اور سلطان کا خطاب عطا فرمایا تھا التمش نے بھی اپنی سلطنت میں سگمہ خلیفہ کے نام سے جاری کیا تھا۔

اس بحث و نظر کے بعد عباسی خلفاء کے عالمگیر مذہبی اقتدار کا اندازہ دشوار نہیں تھا۔

خطبہ و سگمہ آخر میں خطبہ و سگمہ ہی خلفا کا طرزے امتیاز رہ گئے تھے۔

خلفاء کے دربار سے انقباط و خطابات حاصل کرنا شان ریاست خطاب و انقباط کی تکمیل کے لیے بلعموم متصور ہوتا تھا پھر تو دربار خلافت سے خطابات اس دربار دلی سے عطا ہوتے کہ دوست دشمن سب ہی خطاب یافتہ نظر آتے۔ علامہ البیرونی نے الآثار الباقیہ میں لکھا ہے۔

خطابات کی اتنی کثرت تھی کہ اس کی وجہ سے ان کی توقیر باطل جاتی رہی تھی۔

علوین اور بنی عباس

علوین اور بنی عباس بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے بنی امیہ نے جو کچھ علوین پر ظلم توڑے اس کا انتقام بھی عباس نے دل کھول کر لیا۔ مگر بنی عباس نے بھی ان اپنے اہل خاندان سے جو سلوک روا رکھے دعوت آل محمد میں اسپر ریشنی ڈال چکے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ علوین نے اپنی جان فروشی سے ان کے بمقابلہ دولت فاطمی قائم کی۔

علامہ طعنتی مقدمہ الفخری میں لکھتے ہیں کہ

علویوں کے پے در پے خروج سے دولت عباسیہ کی چولیں
ڈھیلی ہو گئی تھیں۔

یہاں تک حالت ہو چکی تھی کہ آخری خلفا کے عہد میں رعایا اپنے
گھروں میں امن امان کی نیند نہیں سوتی تھی۔

قرظین کا یہ حال تھا کہ جب رات آتی تو طاعون (قرظی و اسمعیلی) کے خوف
کے مارے لوگ اپنا اپنا اثاثہ اور متاع تہ خانہ زمین و وزیں چھپا دیتے تھے لے
قرظیہ کے بعد باطنیہ اسمعیلیہ نے جو کچھ مسلمانوں پر ظلم توڑے وہ بھی اس سلسلہ
کی کڑی ہے۔ تاریخ میں تفصیلی حالات ہم لکھ آئے ہیں۔

خلفا کا غلط اقدام

بنی عباس نے اپنی دولت کے تحفظ کے لیے عربوں کے مقابلہ میں عجمیوں ترکوں
سے امداد لی پھر بویہ اور سلاجقہ سے معاونت چاہی خوارزمی مقابل آئے تو
ان کے مقابلہ میں چنگیز کو دعوت دی آخر اس حلفہ ناصر کے اس کارنامہ سے
اس کے پوتے ہلاکو کے ہاتھوں ان کے پوتے مستعصم کا خاتمہ ہوا۔

اگر عرب پائمال نہ کئے جاتے علویین نظر انداز نہ ہوتے تو سیلاب تاتار
کو عرب ہی روک سکتے تھے۔

بغداد کی تباہی تاتاریوں اور مسلمان امر کے ہاتھوں حکومت بغداد کے

مقدمہ الفخری۔

ختم کرنے میں عقیقی و خواجہ نصیر الدین طوسی کا ہاتھ تھا ہی مگر اور مسلمان امرابھی
 شریک تھے چنانچہ پروفیسر برادون لٹریچر ہسٹری آف پرسیا میں لکھتا ہے۔
 نومبر ۱۲۵۶ء میں ہلاکو خاں بغداد پر حملہ کے ارادہ سے روانہ ہوا اس کے ہمراہ
 بہت سے مسلمان امرابھی تھے ابو سعد زنگی اتابک شیراز بدرالدین ٹوٹو اتابک
 موصل۔ عطا ملک جوینی مصنف تاریخ "گوہاں گوشت" مشہور فلسفی اور ماہر فلکیات
 نصیر الدین طوسی کے نام قابل ذکر ہیں۔ غرضکہ دولت عباسیہ کے خاتمہ کے
 ذمہ دار جس قدر خود خلفائے عباسیہ تھے اتنے ہی امرائے اسلام اور سب
 سے بڑھ کر شیعہ بنی قصبہ کی کارفرمائی

فاعتبر یا اولی البصائر

سقوط بغداد کے وقت اسپن سے سمٹ کر غرناطہ مرکز تھا یوسف بن نصر خلیفہ
 اسلامی حکمرانیاں | تھا شمالی افریقہ میں عمر رضی اپنی حکمرانی کا ڈنکا بجا
 رہا تھا الجزائر میں دولت زیاتیہ کا دور دورہ تھا توں ہیں ابو عبد اللہ محمد مستضر باللہ
 امرتھامراقش میں ابو یوسف یعقوب بن عبدالحق حکمراں تھا مصر میں نور الدین
 فرما کر واکھا۔

یمن میں مظفر بن یوسف برسر حکومت تھا

صفاء میں متوکل شمس الدین احمد تھا

روم میں سلاجقہ میں سے رکن الدین قزل ارسلان چہارم کا عہد

تھا فارس میں ابو بکر بن سعد زنگی حکمراں تھا کرمان پر قتلغ خاتون حکومت

۱۸۴ ابن خلدون کتاب ثانی جلد ہفتم صفحہ ۱۸۴

کر رہی تھی ہند میں نصیر الدین محمود شاہ دہلی تھا۔
 دولت بنی عباس کے خاتمہ پر یہ حکمرانیاں موجود تھیں ہر جگہ علم کے چرچے
 تھے علماء کی جہں پہل تھی یہ تھے عباسیوں کے عروج اور زوال کے اسباب
 مگر باعتبار شہنشاہ کے کیسے تھے اسکا جواب یہ ہے کہ حکمرانے جو بادشاہوں کے بیسے
 رموز مملکت مقرر کئے ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے سوائے چند کے باقی خلفا
 پورے اترتے ہیں۔

اس کے لیے الفخزری کا مقدمہ دیکھنا کافی ہے
 سلطنت عباسیہ کا اقبال غروب ہوا مگر علم و حکمت کا مہر درخشاں طلوع
 ہوا گو اس وقت حکومت مختلف ملکوں میں تقسیم تھی پر علمی ترقی کو فروغ تھا پہلے
 بغداد مرکز تھا اس کے بعد علم و فن کے سرپرستی کے متعدد مرکز ہوئے تھے۔

خلفائے عباسیہ کے عہد کی علمی ترقی

آنحضرت صلعم کے درود مسعود کے کچھ عرصہ بعد ہی جزیرہ نما سائے عرب
 سے حق پرستی کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک برق لامعہ کی طرح پھیلا اور حضو
 کے وصال سے ایک سو برس کے اندر ہی اندر تہذیب و تمدن عدل و انصاف
 کے ساتھ علم و ہنر کی ترویج، اشاعت میں عرب ملل عالم سے گوئے سبقت
 لے گئے خلفائے راشدین کے بعد ہی امیہ کے تقریباً صد سالہ دور کے
 اختتام تک یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عرب میں سے لے کر جرمانک تک

حکمران ہو گئے تھے حتیٰ کہ بحر و بر پانکاکوئی مد مقابل نہ رہا اگر عرب خانہ جنگی میں بتلا نہ ہوتے تو کیا عجب ربع مسکون پر ان کا ہی تسلط نظر آتا یہی امیہ کے ابن عم بنی عباس نے عمان فرما زروانی اسے بقوت حاصل کی یہ دینی علم و فضل کا گہرانہ تھا دنیا سے علم و حکمت پر بھی انھوں نے فاتحانہ قبضہ جمایا۔
قاضی صاعربن احمد اندلی کا بیان ہے کہ

صدر اسلام میں اہل عرب نے علوم و فنون کی طرف توجہ زیادہ نہیں کی ان کی دلچسپی کا مرکز ان کی زبان کھتی یا احکام شریعت ہاں طب و سیر اس سے مشتغیل تھے

خلیفہ سفلح کے بعد منصور میر آرا سے خلافت ہوا اسے بغداد کی بنا ڈالی اور دار الحکومت قرار دیا جو نصف صدی کے اندر عظیم الشان تہذیب و تمدن کا شہر بن گیا اس کی شان و شکوہ و وسعت تجارت اور ترقی صنعت و حرفت اور علم و فن کا مرقع دیکھنا ہے "الآغانی" عقد الفرید الفہرست کا مطالعہ کافی ہے خلفائے بنی عباس میں بیشتر حضرات کشور کشائی اور جہاں بانی عدل و انصاف کے پیکر مجسم تھے اس کے ساتھ ہی وہ فضل و کمال کے بھی یگانہ و سنگار تھے۔ ان کے دربار میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت کے ساتھ قدیم یونانی ایرانی ہندی علوم و فنون کا جو ایک غرصہ سے فروہ حالت میں پڑے ہوئے تھے احمیا ہوا

کتاب الآغانی - ابو القزق علی بن الحسین القریشی الاصفہانی متوفی ۹۶۶ھ عقد الفرید -

ابن عبد ربہ قرطبی متوفی ۹۲۷ھ

الفہرست العلوم - ابن ابی یعقوب الندیم الوراق متوفی ۹۹۵ھ

چنانچہ جملہ علوم و فنون عربی ہیں ترجمہ کے ذریعہ منتقل کر لیے گئے عرب و ماغ نے
 اپنی تحقیق و کاوش سے ان کو ترقی کی راہ پر لگا کر زندہ جاوید بنا یا خلیفہ منصور
 خود دینی علوم کا فاضل و جلیل تھیں۔ اس کے عہد میں حدیث و فقہ کے تمام اجزا یکجا
 کئے گئے چنانچہ امام مالک سے منصور نے ہی موطا کی تالیف کرائی اس زمانہ
 میں او بھی مجموعہ حدیث کے مرتب ہوئے امام ابو حنیفہ نے فقہ کی ترتیب و تصنیف
 کے لیے قلم اٹھایا محمد بن اسحاق نے مغازی کی طرف توجہ کی شیخ التفسیر ابن جریر
 شیخ الحدیث اوزاعی حضرت سفیان ثوری حماد بن سلمہ وغیرہ نے مختلف علوم
 و فنون میں پیش بہا اور نادر تصنیفات و تالیفات تیار کیں ان کے علاوہ لغت
 نحو معانی بیان کے تمام ذخیرے جن کا دار و مدار اب تک زیادہ تر روایت اور
 حافظہ پر تھا کتابی صورت میں محفوظ ہونے لگا منصور کی توجہ علوم حکمت کی
 طرف بھی ہوئی اسے روم سے کتابیں منگائی پھر تو یونانی زبان سے سریانی رسائی،
 میں اور سریانی سے عربی میں قدیم یونانی علوم و حکمت کی کتابیں منتقل ہوئیں۔
 ابتدا یہ ترجمہ کسی قدر ناقص ضرور تھے لیکن علم کے پیاسے عربوں نے
 ان ہی کو پڑھا اور سمجھا۔ حسن اتفاق سے ۱۰۱۰ء میں ایک ہندی سیاح
 بغداد پہنچا اس کے پاس ہدیت کے متعلق کتاب "سند ہند" تھی منصور
 کو نذر گزاری منصور نے محمد بن ابراہیم بن جلیب فرازی سے اسکا عربی
 میں ترجمہ کرایا ابن ابراہیم عربوں میں پہلا نجم اور محقق ہدیت تھا اس کی
 تحقیقات یرموسی خوارزمی نے اپنی شوہرہ آفاق زیج تیار کی اور یونانی ہندی

مہقون کو باہم دیگر مستحق کیا۔ فارسی ہیئت کی کتابوں کا عربی میں افضل بن
 نوح بن متوفی ۸۱۵ھ نے جو ارسشید کا مہتمم کتب خانہ تھا ترجمہ کیا۔

مذکورہ لہجہ ہندوستانی سپارح کے ساتھ ریاضی کی کتاب بھی تھی ہیں
 اعداد کی کتابت ہندی طریقہ پر سمجھائی گئی تھی عربوں کا مروجہ طریقہ اگرچہ روین طریقہ
 سے بہتر تھا لیکن صفر کی ایجاد سے محروم ہونے سے ہندی طریقہ کے برابر سود مند
 تھا عربوں نے اسکو اپنایا۔ پھر نویں صدی میں جب ہندو حساب دانوں نے اشار
 کا طریقہ رائج کیا تو عربوں نے اس کے نواید کے مد نظر اس کو بھی اختیار کر لیا۔ ہندی
 فنون کے علاوہ بغداد میں ایرانی علوم سے بھی استفادہ کیا وہ ادب ادب و فنون لطیفہ
 تک محدود تھے حکیم میدپارے کا افسانہ کلیلہ و دمنہ کو ابن المقفع نے عربی جامہ
 پہنایا اس کے علاوہ اسے آئین نامہ۔ مزدک۔ التاج فی سیرت نوح و ابراہیم
 الادب الکبیر ادب الصغیر فارسی کتب عربی میں زیادہ ترجمہ ہوئیں البتہ یونانی ادب
 مثلاً تصانیف ہومر و سوفو کلیس وغیرہ کو عربوں نے زیادہ توجہ سے نہیں دیکھا۔
 عربوں کو یونان کی حکمت، طب، ریاضیات، ادب ہیئت، منطق بہت
 زیادہ پسند آئی چنانچہ چند ہی سالہ کے اندر حکمائے یونان کے ان مضامین
 کے شاہکار جمعہ شرح و تقریظ کے عربی میں منتقل کر لئے گئے ابو یحییٰ ابن البطرینی نے
 جالینوس (متوفی ۶۲۷ء) بقراط (۴۶۰ ق م) کی اکثر تصانیف بطیموس کی الجسطی اور
 اقلیدس کے عناصر کا ترجمہ کیا ایک دوسرے مترجم شامی عیسائی یوحنا بن مالوہ
 متوفی ۸۴۷ھ جبریل بن بختیشوع کے شاگرد اور حنین بن اسحاق کے استاد
 نے چند ہی مخطوطات کو عربی کا جامہ پہنایا۔

موسیو سید پوزانسی لکھتا ہے کہ منصور فخر عرب خلفا کے زمرہ میں ہے اس نے سب سے پہلے عربوں کو داعی اور وہی مشاغل میں مشغول کیا۔
 "گو" عربوں میں اکتساب علوم اور علمی ترقیوں کا میلان طبعاً موجود تھا۔ علمی مشاغل ان کے مرغوب ترین مشاغل تھے ان میں اس بات کی طبعی استعداد تھی۔

منصور کے جانشین خلفا بھی علوم و معارف کی سرپرستی اور ترقی میں منصور ہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اپنے مفتوحہ ملکوں سے جلیل القدر علما کو بلوا کر دربار میں رکھا۔ انہی نوبانی کتابوں کے ترجمے عربی زبان میں کر لئے۔ کتب خانہ قائم کر دیں گا ہیں بنو امیہ تعلیم کو عام کیا شاہی مدارس میں اور نیز دیگر تعلیم گاہوں میں عام و خاص ہر طبقے اور درجہ کے ادیبوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ اسان مدارس میں ارسطو۔ بقراط۔ جالینوس و مسقوریوس اقلیدس۔ ارسیمیدس۔ بطلمیوس اور پلوپونس وغیرہ علما کی کتابیں بڑا پڑھائی جاتی تھیں جن کے ساتھ ساتھ متن قرآن شریف اور اسکی تفسیر کا درس بھی دیا جاتا تھا۔

علما و حکماء کی خاص خاص محفلیں اور مجالس مذاکرہ علیہ قائم لیں۔ ان مجالس میں مشکل مسائل علیہ پر غور و بحث ہوا کرتی تھی

ملک تاریخ عرب صفحہ ۳۶۹، ۵۲ تا ۵۳ تاریخ عرب

خلیفہ مہدی اور ہارون الرشید نے چیدہ چیدہ نصرانی علماء کو اپنے
درباروں میں بلایا یہ علماء مالک ایشیا میں جا بجا پہلے پڑے تھے ان پر شاہانہ
انعام و اکرام کا بیٹہ برسایا اور ان سے یونانی اور فارسی زبانوں کی کتابیں
عربی اور سریانی زبانوں میں ترجمہ کرائیں
ان علماء میں مشاہیر یہ تھے۔

ماشاء اللہ فلکی جس نے اصطلاب اور اس کے دائرہ نحاسیہ پر کتاب لکھی
احمد بن محمد ہنادی فلکی یہ بھی مشاہدات و رصد افلاک میں مثل ماشاء اللہ
مصر و دار ہا۔ عربوں میں یہ علوم فلکیہ کے سب سے بڑے ماہر اور قدیم عالم تھے۔

ہارون الرشید نے بطیموس کی الجسطی کا ترجمہ کئی بن خالد برکی کی زیر
نگرانی حجاج بن یوسف وغیرہ سے کرایا ابن یوسف مطہر نے اقلیدس کا بھی ترجمہ کیا
اس زمانہ میں صالح بن بہلہ ہندی عراق آیا اس کا معاصر شناق
دچناک جس کی کتاب سنسکرت کا منہ ہندی نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ پھر
یحییٰ بن خالد کے حکم سے ابو حاتم یحییٰ نے عربی جامہ پہنایا۔

مذکورہ ذکر منہ ہندی نے اسماء عقاقر ہندی کتاب سیر و فی الطب کا
ترجمہ کیا

کلیدہ و منہ کے مترجم نے ارسطو کی بعض منطقی کتابوں کا بھی ترجمہ کیا ان کے
معاصر فاضل مترجم یہ تھے۔

یوحنا بن اسویہ سلام الاپریش۔ سیل المطران عہد ہارون میں

عربوں کی دماغی ذہنی ترقیات اور ان کے علوم و فنون کی مہارت کا جو درجہ
 تھا اس کے اظہار کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کے علمی عروج و کمال کی شہادت
 میں وہ بچنے والی گھڑی پیش کر دیں جو خلیفہ رشید نے شارلمین شاہ فرانس کو
 ہدیہ ارسال کی تھی یہ گھڑی نادرہ روزگار صنعت تھی اور پانی کے ذریعہ سے
 چلتی تھی

گھڑی کا موجد یونان کا تہی متونی ^{۱۱۵} تھا جب سربراہ
 خلافت مامون اعظم ہوا تو اسے اپنے باپ اور دادا کے قائم کردہ
 علمی ادارہ کو بہت زیادہ ترقی دی۔ یہ بیت الحکمتہ مامون کے
 ہاتھوں کچھ سے کچھ ہو گیا ہارون نے اور زریعے ہرا کہ نے
 جس قدر بیت الحکمتہ میں علمی ذخیرہ جمع کر دیا تھا اس سے بھی
 اور زیادہ مامون نے اس کو وسعت دی سہل بن ہارون اسکا
 مہتمم تھا۔

موسیٰ یوسید یو لکھتا ہے کہ

یہ خلیفہ آفتاب فضل تھا اور بے شمار بڑے بڑے باکمال علمائے
 نجوم و فلک کی طرح اس آفتاب علم کو اپنے حلقے میں لئے رہتے
 تھے مامون نے قبصر روم سے دوستی اس بنا کر یہ کہ علوم و فنون
 کا خزانہ اس سے حاصل کرے مامون نے قسطنطنیہ اور اسکندریہ
 اثنی عشرت سے کتابیں علوم حکمت کی منگائیں اور ان کے

۱۱۵ تاریخ عرب سید یوسف ص ۲۷۲، ۲۷۳ علوم عرب جرجی زبان جلد ۳ صفحہ ۱۱۵

ترجمہ پر بے شمار مال و نذر خرچ کیا

منصور سے ہارون تکہ کا پہلا دور تھا دوسرا دور علی مامون سے واثق تک

کا تھا اس عہد کے مترجمین کی نمایاں شخصیتیں یہ تھیں۔

یوحنا بن بطریق۔ حجاج بن مطر۔ قطاب بن یوقا بعلبکی۔ عبدالمسخ بن یحییٰ

نائمہ قمص۔ حنین بن اسحاق اسحاق بن حنین ثابت بن قرہ صابی جلیس بن نعیم

ابن البطریق۔ سلما

الحجاج بن مطر و ابن البطریق و سلما صاحب بیت الحکمتہ

ثابت بن قرہ شیخ المترجمین تھا جران کے صابون میں سے تھا جو زمانہ

قدیم سے ستارہ پرست چلے آ رہے تھے اور یہیت اوسپاضی کے بالطبع دلدادہ

جیسے ثابت اوساس کے ساتھیوں نے انہیں متونی ۲۶۲ ق م اور یونانیس پرکائی

۲۶۲ ق م کے رہاضی کے شاہکاروں کا ترجمہ کر ڈالا۔ اوپہلے ترجموں کی تصحیح کی

حنین بن اسحاق جو غریب عبادی (نصطوری) عیسائی کالو کا تھا بنوکی

بن شاکر نے اپنے علمی ذوق سے دارالترجمہ قائم کر رکھا تھا ایسے حنین معہ ساتھیوں

کے ملازم ہو گیا تو ماہانہ ۵۰۰ دینار مشاہرہ پاتا تھا۔ ابن خلکان نے اسکی خوشحالی

کا و فیات الما عیان میں ذکر کیا ہے پھر حنین بیت الحکمتہ سے متعلق ہو گیا مامونی دربار

شاہی سے کتاب کے برابر وزن کا سونا انعام میں اس کو ملا کرتا۔

✓ بقراط۔ جالینوس اور ارسطو کی کتابیں اور کچھ افلاطون کی کتب کے

ترجمے اس عہد میں ہوئے۔

۱۵ تاریخ عرب صفحہ ۳۷۴ کشف الظنون جلد ۱ صفحہ ۲۴۷

کتب بقراط۔ کتاب نصول (مترجمہ حنین) ، الکسر حنین (تقدمتہ المعرفۃ
 حنین و عیسیٰ بن یحییٰ) ، الامراض الحارہ۔ ایبذیمیا۔ الاغلاط
 (مترجمہ عیسیٰ بن یحییٰ) ، قاطیطون (حنین) ، المار و الہوار حنین
 جیش) ، کتاب طبییۃ الالساان (حنین و عیسیٰ) ، کتاب عہد بقراط
 (جیش و عیسیٰ) ،

کتب جالینوس۔ کتاب الفرق۔ انصاعما لبقض شفا ر الامراض۔
 المزاج۔ الطبیعیۃ العلل و الامراض۔ تصرف علل۔ الاعضار
 الباطنہ۔ الحمايات۔ البحران (مترجمہ حنین) ، جیش نے ۸ جالینوس
 کی کتب کا ترجمہ کیا اصطفان نے ۵ کا اور حنین نے مذکورہ کتب
 کے علاوہ ۶ کتب کا اور ترجمہ کیا۔ یقیہ کتب کا عیسیٰ ابن صلت
 ثابت ابن البطریق نے ترجمہ کیا۔

کتب ارسطو۔ قاطیفوریاس (حنین) ، کتاب العبارة سریانی میں
 حنین نے متی نے عربی کا جامہ پہنایا۔

البرہان راسحاق نے سریانی میں متی نے عربی میں کیا کتاب الجدل
 (یحییٰ) ، تحلیل القیاس (شیا ورس) ،

کتاب المغالطات اور الحکمت الموبہ راہن ناعمہ اور ابو شیر نے سریانی
 میں عربی میں یحییٰ نے ترجمہ کیا ،

المخاطبہ۔ کتاب العشر۔ اسماح طبعی۔ سمار و العالم۔ الکلون و انعام
 الامار العلویہ النفس۔ الحيوان الاخلاق المرأة اثولوجیا راسحاق

ابراہیم ابوبشر۔ ابوروح حنین۔ قطا۔ ابن ناعمہ ابن بطریق
حجاج بن مطر نے مل جل کر ترجمہ کیا۔

کتاب اقلاطون۔ کتاب السیاسہ (حنین) مناسبات یحییٰ بن عدی
النوامیس (حنین و یحییٰ) طیماوس (ابن بطریق) مکتوب اقلاطون
بنام افرطن و کتاب التوجید الحسن واللذت (یحییٰ بن عدی)
اصول ہندسہ (قطابن بوقا) ان کے علاوہ دیگر فلاسفہ یونانی
کی کتب عہد مامون میں کثرت سے ترجمہ ہوئیں۔

ان ترجموں نے عربوں کے عقل و دماغ پر اثر کیا پھر عربی فصاحت و تمدن
پر اپنے نقوش قائم کئے۔ ہارون مامون نے علما و اطباء و حکما کی جیسی قدر و منزلت
کی اس کی مثال کم تاریخ میں ملتی ہے جبریل بن بخت بشوع ہارون و مامون کا
درباری طبیب تھا۔ وزیرائے برائے کا بھی معالج تھا جب یہ مراہے بقول علامہ
جلال الدین قفطی آٹھ لاکھ درہم اپنے پیمانوں کے لیے چھوڑے تھے۔

مامون کے عہد میں یحییٰ بن ابی منصور نے ایک فلکی زاچہ مرتب کیا جس کی
ہمیت تیاری میں سند بن علی کی شرکت تھی۔ اور سند بن علی نے
۲۱۸ء و ۲۱۹ء میں خالد بن عبد الملک مروزی کے ساتھ

ہی کام کیا تھا اسے رصدین بھی تالیف کیں اور ان دونوں علمائے علی بن علی
اور علی بن ابی حمزہ کو اپنے ساتھ کر فلکی مشاہدات کئے اور شہر رقہ اور شہر تدمر کے
ماہین خط نصف النهار کا قیاس و انداز کیا۔ احمد بن عبد اللہ بن حش نے تین ذی

۱۵۰ خود زکیت الطنون جلد ۱ صفحہ ۷۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵ اخبار الحکما قفطی ذکر کتبہ

کو ایک کی حرکات کے بارے میں تالیف کے اور مامون عہد کے انہیں عرب علماء
فلک نے سوچ گھن اور چاند گھن کے وقوع اور مدار ستاروں کے طلوع و غروب
وغیرہ کا حساب لگایا اور ان سیاہ دھبوں کو دریافت کیا جو قرص آفتاب
میں ہیں۔ اعتدال زمعی اعتدال خریفی کو رصد کے ذریعہ درست طور پر جانچا
اور فلک البروج کے منظر کا میل اندازہ لگا کر دریافت کیا۔

مذکورہ بالا عرب علماء میں درجہ اجتہاد اور رتبہ امامت محمد بن ابراہیم بن
حبیب الغزالی کا تھا صاحب کشف الظنون لکھتا ہے "اول من علم فی الاسلام
ابراہیم بن حبیب الغزالی ومن اکتب المصنف فیہ خفۃ الناظر و ہیجۃ الاذکار
وضیاء الغین احمد بن محمد ہنادی نے شہر جندی سابور میں اجرام سماویہ کو رصد
کیا اور ۸۰۳ھ میں کئی جدید ذرائع تالیف کے جنکا نام "المستعل" رکھا یہ فلکی
تحقیقات میں عہد ہاندن سے لگا ہوا تھا موسیٰ خوارزمی جسکا ذکر آچکا ہے اسکا
ہی معاصر فیلسوف عرب کنڈی تھا جس نے مدارس اسکندریہ و زینبیہ کی کتابوں
کی مدد سے حساب ہندسہ حکمت نجوم حوادث - جویہ اور طب وغیرہ علوم و فنون
میں دوسو کتابیں ترجمہ و تصنیف و تالیف کیں کنڈی کا شاگرد ابو معشر فلکی تھا
جسکی زیج ابو معشر مشہور ہے فلکیات میں موسیٰ بن شاکر کے بیٹے محمد احمد حسن جو
امرائے عہد سے تھے انھوں نے خود اس فن میں اپنی تمام ماسعی صرف کر دیں
اور عرب علماء کی زیجوں کو صحیح کیا اور اسکا تکرار کیا۔ نہایت تحقیق و تدقیق کے
ساتھ فاسی ستہ میں حرکت آفتاب کا صحیح اوسط دریافت کیا شہر بغداد کے

۱۰۰ تا یخ عرب موسیٰ صفحہ ۵۰۴ کشف الظنون جلد اول تا یخ عرب صفحہ ۲۷۶

مشہور دروازہ طاق کے متصل دریائے دجلہ کے ایک پل پر جو رصد خانہ تھا اس
 رصد خانہ میں یہ برابر فلکی مشاہدات کرتے رہتے اور منطقۃ البروج کے وسط کا
 میل انہوں نے دریافت کیا اور اس کی حد بھی مقرر کر دی کہ یہ میل رجب کا و اتنا
 ہوتا ہے اسی طرح عروض قمر سے عرض اکبر کے حسابوں کا فرق بھی معلوم کر لیا۔
 ان بھائیوں میں بڑا محمد تھا جس نے گواکب سیارہ کی تقوین تیار کیں ثابت
 بن قرہ علم الفلک میں اسکا ہی شاگرد تھا ^{۹۸۰} ہجری میں فوت ہوا اس کے
 علاوہ اور بھی ماہرین علم ہیئت تھے جنہوں نے علم الفلک میں گراں قدر مہر چھوڑا
 اس فن میں عربوں کی مہارت فن اور کمال کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا
 ہے کہ بعض فلکی علماء نے ایسے مکانات بنائے تھے جن میں آسمان تھا آسمان پر
 تارے تھے۔ بادل تھے۔ بجلیاں تھیں سب ہی کچھ تھا دیکھنے والے کو ایسا معلوم
 ہوتا تھا جیسے وہ صحیح آسمان کے نیچے کھڑا ہے ^{۱۰۰۰}

غرض کہ عربوں نے علم ہیئت کو بھی دیگر فنون کی طرح کمال پر پہنچا دیا اس
 سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آفتاب زمین سے کتنا بلند ہے اسکا حساب بھی عربوں
 ہی کا کارنامہ ہے ^{۱۰۰۰} آلات رصد میں اسطرلاب بھی عربوں کا ایجاد کردہ ہے۔
 الفزاری کے متعلق ابن ندیم کا بیان ہے۔

وہو اول من عمل فی الاسلام اسطرلاباً و عمل مسطاباً ^{۱۰۰۰}

ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ خوارزمی کی جتنی توصیف کی جائے وہ کم ہے جہاں
 اسے الجبر مقابلہ ایجاد کیا ہیئت کا بھی بڑا ماہر تھا۔

۱۰۰۰ الفزاری تصحیح الطیب جلد ۲ صفحہ ۲۳۱ تا ۲۳۲ تاریخ فلک العربی صفحہ ۴۵ تا ۴۶ انہی

وہومن اصحاب علوم اہیتہ

متوکل باللہ کے زمانہ میں ممتاز سربراہ اور وہ ہستادان ماوراء النہر کا ابو العباس
احمد انفرغانی تھا جس نے متوکل کے لیے فسطاط مصر میں ایک ٹیبل پیمائیا کی
تھا اس کی بے نظیر کتاب المدخل الی ہیئۃ الافلاک ہے۔

مامون کے رصد خانہ کے بعد رصد خانہ بنو شاکر کا تھا بغداد
موجود آلات رصد میں ۸۵۰ھ - ۸۶۰ھ موسیٰ بن شاہر کے بیٹوں نے

اپنے مکان میں بنایا تھا۔ بغداد میں ہی نائب سلطنت سلطان شرف الدولہ بویہ
نے ۹۸۲ھ میں اپنے قصر میں رصد گاہ قائم کی تھی جہاں عبدالرحمن الصوفی،

احمد الصغانی اور ابو الوفا برسر عمل تھے الصوفی کی کتاب الکواکب الثابتہ المنصوہ
اس کی یادگار ہے۔ اس زمانہ میں علی بن یونس متوفی ۹۶۹ھ اور دوسرا

انج بیگ سمرقندی (۹۳۳ھ) ایک دوسرے بویہ رکن الدولہ ۹۳۳ھ کے
دربار میں ابو جعفر الخازن الخراسانی نے میل طریق الشمس کی ازسرنو تعیین کی

اور اشمیدس کے ایک پرلے سوال کا بھی مساوات کے ذریعہ حل شائع کیا
علامہ ابوریحان محمد بن احمد البیرونی ۹۷۳ھ - ۱۰۲۸ھ کی عمر کا بڑا حصہ

ہست و نجوم کے مطالعہ میں گذرا اس کی کتاب القانون المسعودی فی اہیتہ
و نجوم اس وقت کی ہست کے سارے شعبوں پر حاوی ہے۔ البیرونی حنا

میں بھی اتنا ہی ماہر تھا اتفقہیم لادیل صناعۃ نجوم ہندسہ و ہست میں اس کی
ایک دوسری کتاب الاثار الباریہ و رذائلہ و اخا و پروفیسر جامعہ برلن نے اس کتاب

کی بڑی تعریف کی ہے اور اس زمانہ کے عرب اور دیگر مسلمان محققین کے
 کارناموں کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے کہ اگرچہ کئی صدی ہجری میں امام ابو الحسن
 اشعری اور امام ابو حامد غزالی کا مذہبی اور صوفیانہ رنگ مسلمانوں پر نہ چھایا
 تو عرب قوم گلیلو کیلبر اور پٹون جیسے بلند پایہ محقق پیدا کرنے والی قوم ہوتی ہے
 سلجوق سلطان جلال الدین ملک شاہ کی رصدگاہ واقع رے یا نیشاپور
 میں عمر بن ابراہیم النجاشی ^{۳۸۰ھ} ۱۰۲۳ء کے کارنامہ آب زر سے لکھنے
 کے قابل ہیں اس کی تاریخ الجلالی کی خوبیاں جس سے پانچ ہزار سال میں
 صرف ایک دن کی غلطی پیدا ہوتی ہے اور جبر و مقابله کی کتاب جس میں ستانی
 مساواتوں کا جبری و تریبی حل مع ترتیب و کلیل مساوات بھی سمجھایا گیا ہے
تیسرے علمی دور المتوکل سے مستعصم تک کا ہے۔ آخری خلیفہ بنی عباس
 کو ہلاک کے ہاتھوں یا شمال کرانے والا محقق طوسی جس نے ^{۱۲۵۹ھ} ۱۰۲۳ء میں مقام
 مراغہ اپنی زیر نگرانی حکم ہلاک اور رصدگاہ بنوائی یہی "دیج ایلمانی" کا مصنف ہے
 اسے اقلیدس کی تعریفات و اصول موضوعہ پر تمقید کی علم المثلثات کتاب
 المتوسطات بین الهندسہ و الہیہ - نزہت الناظر التذکرہ فی علم الہیہ اس
 کے علمی کارنامہ ہیں اس کے شریک کار رصدخانہ میں علامہ قطب الدین شہرازی
 اور کمال الدین فاضل مولف تنقیح النظر جس نے قوس فرج جو ہندی توجیہ کی
 وہی ہے جو سولہویں صدی عیسوی میں ڈیکارٹس نے شائع کی ^{۱۶۰۷ء}
 ریاضی افن ریاضی پر عرب حکمائے جو علمی نظریہ ہندسہ میں قائم کے جسکا تذکرہ

اوپر کیا جا چکا ہے جبر و مقابلہ کا موجد خوارزمی تھا اس کے بعد اس علم کا پڑا
 ماہر ابو کامل شجاع بن اسلم ہے جسکی مشہور کتاب الشامل ہے۔
 ابو کامل شجاع بن اسلم کتاب الشامل و ہومن احسن الکتب فیہ و
 من احسن شروہ شرح القرشی

فن ریاضی کے سلسلہ میں علم مثلث میں بھی عربوں نے بہت کچھ کام کیا نسبت
 مثلث کے عدا میں عربوں ہی نے سب سے پہلے حماس رنجینٹ (کو داخل کیا تھا)۔
 جیوب کا قانون بھی عربوں ہی کے انکشاف کا نتیجہ ہے اور ان کے فخر کو یہ کافی ہے
 کہ کروی مثلثات کے حل کا عام قاعدہ انہیں نے بنایا نظیر حماس اور قاطع اور ان
 کی نظیر ان چیزوں کے لیے جاریں بھی سب سے پہلے عربوں نے تیار کیں اور
 تو یہ ہے کہ علم المثلثات میں عربوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ اپنا اضافہ ہو سکا

کیمیا

فن کیمیا کے ایجاد کا سہرا شہزادہ خالد بن یزید اموی کے سر ہے ہوس کے
 ذوق میں یہ کام اسے شروع کیا مگر نئی راہیں سامنے آئیں جس سے جدید کیمیاوی
 اکتشافات ہوئے تو اسے ایک معمل قائم کیا اور علماء کو بلوا کر کتب طب کے بھی ترجمہ
 کرائے۔

ابن ندیم کا بیان ہے۔

خالد نے چند مصری علماء طلب کئے جنہوں نے دمشق میں بہر علی کتاب

۱۶۹۱ء میں علم کی تحقیقات سے غیہ ۱۶۹۱ء میں محمد عبدالرحمن صدر حیدر آباد کا ڈیپٹی

کے ترجمہ کئے ان علما میں ایک پادری مزایونس تھا جس نے خالد کو علم کیمیا کی تعلیم دی اور اصطفان نے اس فن کی کتابیں عربی میں خالد کے لیے نقل کیں۔

البیرونی خالد کو اسلام کا سب سے پہلا حکیم کہتا ہے۔

خالد کے شاگرد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے جن کے فن کیمیا پر چند رسائل تھے جابر بن جیان جو فن کیمیا کا امام کہا جاتا ہے وہ انکا ہی شاگرد تھا عہد نبی عباس میں جابر کے شاگردوں نے اس فن کو ترقی دی یہی لوگ بنیادی اصول کے قائم کرنے والے تھے ان عرب کیمیا گروں نے اپنے تجربی تحقیقات اور ان کے مختلف ذرائع مثلاً تھلیس کشید قلہا و کلنا و تجیر تھلیس و تریب وغیرہ کی کامل توضیح کی اور متعدد نئے مرکبات خالص حالت میں تیار کئے اور ان کے صحیح خواص بھی دریافت کئے۔

معدنی تیز ابا اور نباتاتی قلوپات انھوں نے معلوم کئے ان تمام پر وہ مجتہدانہ نظر رکھتے تھے اور ان عربوں نے بہت سے قدیم کیمیاوی نظریات کو باطل کر دیا تھا بارود کو مرکب کی صورت میں دینا کے سامنے عربوں نے پیش کیا۔ ابن اثیر کا قول ہے کہ عربوں نے بعض ایسی دوائیں ایجاد کی تھیں کہ اگر وہ لکڑی پر مل دی جائیں تو آگ ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔

مورخ موسیو سید یونانی تاریخ میں لکھتا ہے -

دواسازی | کیمیاوی طریقہ پر دواسازی کرنے والے دواخانہ عرب
ہی نے قایم کئے اور فن دواسازی جسے آج کل قواعد تخصیر الادویہ
کے نام سے شہرت دی جاتی ہے یہ عرب کے کیمیاوی دواسازوں
ہی کا متروک ہے -

بہت سے نادرمعدنی استکشافات عربوں کے ذریعہ ظہور میں آئے
کیرنیک - مارمشر اور مارملکی کی ترکیب اور پارہ کالنے اور ان کوہل کے جوہر
کا خمیر اٹھانے اور ایسی ہی دیگر کیمیاوی باتوں کا پتہ ابو موسیٰ جعفر کوفی کی تالیفات
سے ملتا ہے آٹھویں صدی عیسوی میں مشہور عالم ہوا ہے ابن وحشیہ کی کئی فن کیمیا
پر تصنیف کتاب الاصول البکیر فی الصنعة مشہور ہے ^{۱۲۱} عثمان بن سوید ابو حری
الانجمی حکی کتاب البکیریت الاحمر ہے ^{۱۲۲}

سے بھی عربوں کو لگاؤ تھا عطار دین
معدنیات حیوانیات نباتات | محمد الحاسب کی کتاب منافع الاحجار
سوا شہاب الدین القفاشی کی انہارا لانکار فن جو اہر ہے اس میں ۴۴ پتھر
کا محل وقوع جزائی حالات صفائی حقیقی و خیالی اثرات بیان کئے ہیں
اور اسطو کے نام ہنادر سالوں کے سوا صرف عرب مصنفین ہی کے حوالہ
ہیں البیرونی کی بھی اس بحث پر ایک کتاب ہے علم نباتات میں عربوں نے
ایک استاد کی حیثیت اختیار کر لی تھی - اس علم میں ابو عثمان ابن بطار

۱۲۱ الفہرست ابن ندیم صفحہ ۵۰۴ ۱۲۲ النبات

اور رشید الدین ابن صدری غیر فانی شہرت کے مالک ہیں رشید کے ساتھ
مصور رہتا تھا جو چڑی بوٹیوں کی تصویر کھینچتا تھا۔
ماہرین علم نباتات میں ابن الصوری کا جواب نہیں ملتا

طبیعیات

عربوں نے اولاً طبیعیات میں تجربہ اور مشاہدہ اور آلات کے ذریعہ
سے کسی چیز کے ثبوت کرنے کے بجائے باریک اور دقیق منطقی استدلال سے
کام لیا غلطیاں اس سے درست نہ ہو سکیں اس واسطے ہیونانی اور جزائری
اور صورت نوعیہ و جسمیہ اور حس طبیعی اور خلا رکی نازک بچوں کو اور بھی دقیق
کر دیا اور کائنات انجوا اور اجرام فلکی اور عناصر اربعہ کی ماہیت کی تحقیق کر
سے قاصر رہے با اینہم انہوں نے اس علم میں بعض نہایت کارآمد چیزوں کی
تحقیق کی ہے جیسا کہ محمد بن زکریا نے اسباب قوت جاذبہ مقناطیسی پر نہایت
عمدہ رسالہ لکھا ہے پھر تو عربوں نے حکمائے یونان کی تحقیقات نظر انداز کر کے
حسب عادت اس میں بہت کچھ اضافہ کیا آلات بنائے جن کے ذریعہ نفس نوعی تک
کا حساب رکھتے ایسے ایسے پیمانہ تیار کئے کہ ایک گرام ۴۰۰ حصے کم وزن کا
فرق تک معلوم کر لیتے تھے نظریہ جذب کے متعلق بھی انکے بہت سے اقوال ملتے ہیں
روشنی کے متعلق بھی ان کے مستقل نظریات ہیں کہ اس سے پہلے کسی کی
رسائی ذہن وہاں تک نہ ہوئی تھی اس کی بدولت دور بین کی ایجاد ہوئی

ابن الی ایسیہ طبقات الاطبا جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ عیون الاثبات الطبقات الاطبا
جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ شیخ موافق الدین احمد بن قائم بن الی ایسیہ متوفی ۶۵۲ھ بساط علم القلا
۲۲

امراض چشم اور ان کی تشریح سے متعلق بھی عربوں کا بہت سا تحریری ساہ موجود ہے

فضاء آسمانی میں پرواز کا خیال بھی سب سے پہلے
طیارہ کا اولین تصور | عربوں کو آیا سب سے پیشتر اس معاملہ کی طرف جسکا

ذہن منتقل ہوا وہ عباس ابن فرناس تھا نفع الطیب میں تحریر ہے کہ

عباس نے اپنے جسم کو فضا میں اڑانے کی کوشش کی پہلے تو

اس نے اپنے بدن پر چڑبے پھر دو بانو تیار کئے جیسے چڑیوں
کے ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے فضا میں کافی عرصہ تک پرواز

کی لیکن یہ پہلا تجربہ اس کے لیے ایک حد تک تکلیف دہ

ثابت ہوا اترتے وقت اس کے جسم کے پچھلے حصہ میں کچھ چوٹا آئی

اسے یہ نہیں خیال رہا کہ پرندہ اترتے وقت اپنے پچھلے حصہ سے

زیادہ مدد لیتا ہے عباس نے یہ غلطی کی کہ دم نہیں بنائی تھی

قانون باجہ بھی عربوں کی ایجاد ہے نہاب بغدادی نے موسیقی میں نرنگا

قانون ایجاد کیا قانون کی اجدادی شکل معلم الثانی ابو نصر فارابی کی دی گئی

فارابی نے دو لکڑیوں سے ایک باجہ ایجاد کیا تھا ان لکڑیوں کی ترتیب

میں جب ذرا سا تغیر کرویا جاتا تھا تو مختلف قسم کے راگ نکلتے تھے فارابی امیر سیف الدولہ

حدانی والی موصل کے دہار سے متعلق تھا۔ حدانی نے اس سے سوال کیا کہ تم کوگانے

بجالے کا بھی شوق ہے فارابی نے اثبات میں جواب دیا پھر انہی جیب سے ایک

خریطہ نکالا اسے کھولا اور اس میں سے دو لکڑیاں نکالیں انھیں ایک خاص انداز میں

۱۵ تاریخ الفزیکین صفحہ ۲۳ ۱۵ نفع الطیب المقری جلد ۱ صفحہ ۲۳۱

ترتیب دیا اور بجانا شروع کیا اہل محفل پر یہ اثر ہوا کہ تمام لوگ ہنستے ہنستے لوٹ
 لوٹ گئے اس کے بعد لکڑیوں میں خفیف سا تغیر کر دیا اور بجانے لگا نتیجہ یہ ہوا
 کہ حضار مجلس پر غنودگی طاری ہو گئی اور سب سو گئے فارابی نے لکڑیاں جیب
 میں رکھیں اور چلتا ہوا جب سیف الدولہ کو پیش آیا تو معلم اشانی کو ڈھنڈو کر
 بلا یا اور انعام و اکرام سے نوازا

طب میں عہد بنی عباس میں بہت سی تصانیف ہوئیں ہارون کے طبیب
 یحییٰ بن ماسویہ تیس کتب طب کی شرحیں لکھیں حسین نے مامون کے
 عہد میں بقراط جالینوس کی کتب کا ترجمہ کیا جیسا کہ ذکر آچکا ہے محمد بن زکریا رازی
 علی بن عباس شہر طبیب تھے آخر الذکر نے دس جلدوں میں تواعد طب کے کچھ
 ابن سینا مشہور و معروف ہے ابن سینا اور زکریا کی تالیفات کثیرا تعداد میں سینا
 نے مشہور و وفات پائی۔

ناصریائے صدر کے زمانہ میں علم جراحی نے خاص ترقی کی اس سے پہلے
 علم جراحی عہد معصوم میں یوحنا بن مالویہ نے ۱۳۳۸ء میں زونہ سے ایک بندہ
 تحفہ میں آیا تھا اس کے نقش پر عمل جراحی کر کے چند ابتدائی باتیں معلوم کیں مگر
 ناصر کے عہد میں بغداد میں حکیم عبداللطیف المصری نے بارہویں صدی میں اس علم
 کی طرف توجہ کی جن اتفاق اس کو ایک جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک بڑا بنا مل
 گیا اس نے ہر ہڈی کی تحقیق کی اور ان کی مساحت ترتیب وغیرہ سے متعلق متعدد
 نئی معلومات فراہم کیں وہی علم تشریح کے بنیادی اصول قرار پائے اسے مفصل ایک

۱۵ ابن خلکان جلد ۲ صفحہ ۷۷، ۱۵ تاریخ اطبا صفحہ ۱۹۵، ۱۵ تاریخ عرب صفحہ ۲۲۳

رسالہ اس فن پر لکھا۔

سب سے زیادہ علم جراحی سے متعلق انکشاف ذکر بارانی نے
کیا عمل بالیدہ جری اور آلات وغیرہ کے استعمال میں ید طولی
تھا ابوالقاسم بن عباس الزہراوی کو خاص امتیازی وجہ
حاصل ہے۔

ط۔ جری بوٹی کی تحقیق و تفتیش میں عربوں نے اپنی توجہ مبذول کی اور
جری بوٹی اس کو بھی کمال پر پہنچایا غرضکہ فن و داسازی کے بانی ہونے
کا فخر عربوں ہی کو حاصل ہے۔

فن جغرافیہ میں بھی عربوں کو تقدم کا شرف حاصل ہے یونانی وغیرہ
جغرافیہ کتابوں کے ترجمہ کئے مگر وہ ناکافی تھے خود اس فن پر توجہ کی اسے
مشاہدات و تجربات سے اسکو وسیع معلومات کیا بطلیوس کی افلاطون تصحیح کی سنہ
یعقوب کندی نے بائینیوس کے جغرافیہ کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد سے خود انھوں نے
اپنی تحقیق سے کتابیں لکھنا شروع کیں کیونکہ عربین بیت اللہ کے سوق سمت
کعبہ کی صحیح تعیین کی ضرورت اور سیر و سیاحت و تجارت کے مشغلوں سے ان کی
جغرافی معلومات بہت وسیع ہو گئی تھیں متعدد شہروں کے عرض بلد اور طول بلد
انھوں نے دریافت کئے۔

ساتویں اور نویں صدی میں مسلمان تجار ایک طرف مشرق میں بری اور
بحری راہوں سے چین پہنچے دوسری طرف جنوب میں انجبار اور افریقہ کے بعد تری

ملک آلات الطب و الجراح عند العرب صفحہ ۴۳ تا ۴۵ تاریخ تمدن الاسلامی ویدان جلد ۲ صفحہ ۱۸۱
تاریخ تمدن الاسلامی جلد ۲ صفحہ ۱۸۱

سواحل کا پتہ چلایا مغرب میں بحر ظلمات کے کناروں تک جا پہنچے اور شمال میں رو
 کے اندر تک سرایت کر گئے۔ سیراف کے سلمان التاجرنے مشرقی بعید کی سیاحت
 کا حال ۱۵۱۹ء میں لکھا یہ پہلی کتاب ہے جس سے ہند کے ساحل کی نسبت
 عربوں کی معلومات کا پتہ چلتا ہے ابن واصل یعقوبی نے اپنی کتاب البلدان میں
 معمولی جغرافیہ معلومات کے ساتھ معاش معادلات کا اضافہ کیا **قدامہ جو عیسائی**
 پیدا ہوا اور مشرق باسلام ہو کر بغداد میں ۱۱۶۲ء کے بعد بلاذری کا حجاز
 تھا اور اپنی کتاب الخراج میں خلافت بنی عباس کے صوبجات کی تقسیم سالانہ
 آمدنی اور نظام رسل و رسائل پر بحث کی ہے اس نوع کی جغرافی کتابوں میں
 ابن رستاقی الاطلاق النفیہ ۲۹۹ء اور ابن العقیل الہمدانی کی کتاب
 البلدان بھی قابل ذکر ہیں الاصفہری ۹۵۱ء کی مساکم والممالک کے
 جغرافیہ میں مختلف ملکوں کے نقشے مختلف رنگوں میں دئے گئے ہیں سعودی کے
 بعد وہ دوسرا مصنف ہے جو سمجھتا ہے جو چکیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے کہنے
 پر ابن حوقل ۹۲۳ء نے جواب دین تک سفر کیا تھا اس کی کتاب اور نقشوں کی
 نظر ثانی کی المقدس کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم بڑی دلچسپ
 بیان کی جاتی ہے اس دور کا یمن کا جغرافیہ داں اور آثار قدیمہ کا تذکرہ نویس
 الحسن بن احمد الہمدانی جو صفحہ کے محبس میں ۹۲۵ء فوت ہوا اپنی تصنیفات
 الاکلیل اور صنعت جزیرۃ العرب کی وجہ سے قابل ذکر ہے اس دور میں
 سہاج الارض السعودی نے بھی نشوونما پائی جس کا ذکر مورخین میں آئے گا
 بنی عباسیہ کی خلافت کے آخری زمانہ یا قوت بن عبداللہ الحموی ۱۲۶۹ء

مطابق ۲۲۶ء و ۲۵۷ء مشرقی مسلمانوں میں سب سے بڑا جزا فیہ نویں تھا اس کی کتاب معجم البلدان حدیب میں مکمل ہوئی ہے اس کا منگلو پڈیا نہ صرف اس زمانہ کی جزائی معلومات کا معدن ہے بلکہ تاریخ اقوام دینی نوع انسان اور جو انبیاء و نبیائے کی گراں قدر معلومات سے مملو ہے باقوت کی دوسری تصنیف معجم الادبا بھی اس پایہ کی کتاب ہے۔ ابو معشر بغدادی ستون فی ۲۸۶ء کا اپنی جزا فیہ میں سمندروں کے مدجزن کا تقریباً صحیح نظریہ یعنی شمس و قمر کا سمندر کے پانی پر اثر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

تاریخ عربی تاریخ کا سرچشمہ صرف عرب کے اشعاروں کی ضرب المثلوں کے مجموعے اور آغانی ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں بے شمار مورخین بھی گذرے ہیں جنہوں نے مختصر و مفصل تاریخیں قابلیت کے ساتھ تالیف و تصنیف کی ہیں اور ان سے عربوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے چنانچہ حاجی خلیفہ نے عرب مورخین کی ایک ہزار تین سو تاریخی تصانیف کا شمار کرایا ہے اور کئی آفندی نے اپنی کتاب 'انتاج' میں لکھا ہے کہ عرب مورخین کی تصانیف تاریخی نہایت خوش ترتیب ہیں۔

تاریخ ویرے مسلمانوں کو ملی شغف تھا دولت نبی امیہ کے عہد میں اس پر خاص توجہ ہوئی ابن مقفع (۶۵ء) سیر ملوک العجم محمد بن اسحاق (۱۵۶ء) نے آنحضرت صلعم کی حیات طیبات لکھی جو ابن ہشام ۱۷۰ء قرون وسطیٰ میں عرب اور عجم کے حکما کی تحقیقات صفحہ ۱۹۱ء تاریخ عرب بیوسفہ ۲۵۲ء

کی صورت میں (۸۳۲ھ) میں شہرت پذیر ہوئی، ابن قیر صدابی کے ۱۹۰ء میں تاریخ
 لکھی ادموسی ابن عقبہ (۸۵۸ھ) اواقدی (۸۲۳ھ) کی کتاب المفازی ابن
 سعد (۸۲۵ھ) کی طبقات عبدالحکم (۸۷۷ھ) کی فتوح مصر اخبار احمد بن یحییٰ البلاذری
 (۸۹۵ھ) مصنف فتوح البلدان و انساب الاشراف ابی عمر بن محمد بن یوسف کنزی
 (۲۲۶ھ) تاریخ قصاص مصر ابن قتیبہ (محمد بن مسلم الدیمیوی (۸۸۹ھ) کی کتاب المعارف
 احمد بن داؤد الدیمیوی (۸۹۵ھ) کے اخبار اطوال حمزہ الاصفہانی متوفی (۹۶۱ھ)
 ادب ابن واضح البیعقوبی ابن مسکویہ صاحب تجارت الاطم ابو جعفر محمد بن جریر الطبری
 متوفی (۹۲۳ھ) کی اخبار الرسل والملوک۔ ابو الحسن عزالدین ابن الاثیر موصلی
 مصنف الکامل فی التاريخ ۲ جلد (۱۲۳۴ھ) ابو بغداد (۱۳۳۱ھ) البدایہ والنہایہ
 علامہ شمس الدین بن محمد بن احمد مصری الذہبی (۱۳۴۸ھ) مصنف دول الاسلام
 الطبری نے اپنی معلومات فراہم کرانے کے لئے ایران عراق شام اور مصر کا سفر کیا
 بقول یا قوت حمیری الطبری نے ۴۰ سال تک روزانہ ۲۰ ورق لکھے ابو الحسن علی المدینی
 نے تاریخ نویسی کے قدیم طریقہ سنہ داری اور واقعہ نگاری کو چھوڑ کر تنقیدی سلسلہ داری
 طریقہ کو رواج دیا۔ ابن خلدون نے بھی اس طریقہ کی تقلید کی (۹۵۶ھ) (۱۲۵۰ھ)
 مستحوی کی تیس جلدوں والی تصنیف کا ایک خلاصہ موسوم بہ مروج اندلس
 و معاون الجواہر جو تاریخی واقعات کو (۲۳۹ھ) (۹۲۶ھ) تک پہنچاتا ہے
 بنی عباسیہ کے آخری دور میں شمس الدین احمد بن محمد بن خلدکان (۸۰ھ)

عہ کشف الظنون جلد ۱ صفحہ ۲۲۶

کتاب میں ۶۶۵ سربراہ آورده تاریخی مسلمانوں کے سوانح حیات نہایت صحت کے ساتھ لکھے ہیں۔

علامہ احمد نویدی شافعی کی نہایت العربی فنون الادب، اہل دیوبند سے تفسیر و حدیث فقہ و ادب وغیرہ ذکر کیا جائے تو صفحوں بہت بڑھ جائیگا بہتر اور جامع تفاسیر اور حدیث کے مجموعہ عہد نبی عباس میں ہی مرتب ہوئے ان کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے الفہرست ابن ندیم اور کشف الظنون کا مطالعہ ضروری ہے۔

علوم و فنون کی ترقی کا یہ مختصر تذکرہ عہد نبی عباس کا ہے جو اس جگہ پیش کیا گیا اس نے ہی عربوں کے نظریات و خیالات کی ندرت کا ریلوں سے ایک عالم کو محو حیرت بنا رکھا تھا۔

جب عرب عیش و عشرت کے میدان میں اترے تو اس میں بھی وہ سب سے باندی لے گئے اور ان کی بزم آزمائیاں آج تک لوگوں کی زبانوں پر اور کتابوں کے اوراق پر محفوظ ہیں۔

انہوں نے جب شعر و شاعری کی طرف توجہ کی تو اس میں ایسا کمال پیدا کیا کہ میدان میں کوئی حریف نہیں رہ گیا۔

فنون لطیفہ میں بھی ان کے کارنامہ مشہور و معروف ہیں جب انہوں نے تعمیر پر نظر عنایت کی تو ایسے تصور و محلات تیار کئے کہ دنیا میں جنت کا نمونہ قائم کر دیا ان کی عمارتوں کی خوبی و خوشنمائی، سنگینی و استحکام اور تناسب و تناسب پر جب نظر پڑتی ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے بغداد و سامرہ بصرہ موصل رقمہ

سمرقند کے محالات سے شعر اور ادبا کے لیے اچھا خاصا میدان ہاتھ آگیا تھا مختلف شعرا نے اپنے اشعار میں اور ادبا نے اپنی نثر میں ان عمارتوں کے کمالات اور خصوصیات حسن و جمال تشریح و تبصیر اور اصلی تصویریں کھینچنے میں اپنا پورا زور و قلم صرف کر دیا تھا۔

غرض کہ ممالک اسلامیہ میں حضارت و تمدن کے جو نمونہ قائم کئے وہ یہ ہیں کہ عصر حاضر کے بڑے بڑے علماء بھی ان کا اعتراف کرتے ہیں۔

خلفائے عباسیہ کی شان و شوکت

خلفائے عباسیہ کے پاس بے شمار دولت تھی لشکر و فوج ان کے پہاں ہمیشہ نہیں رہتے تھے۔ جس پر وہ روپیہ خرچ کرتے اس سے وہ زیبائش و آرائش کی طرف متوجہ ہو گئے زیب و زینت کی انھوں نے عجیب و غریب چیزیں پیدا کر دیں لوگوں کو انعام و اکرام بے انتہا دئے۔

منصور حج کو سر پر خلافت پر منتکون ہونے کے بعد گیا تو لاکھ روپیہ اہل مکہ و مدینہ میں تقسیم کیا مہدی نے حج کے موقع پر ساٹھ لاکھ دینار خرچ کر ڈالے سیدہ زبیدہ عباسی ہارون کی ملکہ نے مکے تک پانی لانے کے لیے نہر کھدوائی جس میں پتیس لاکھ سے زیادہ دینار صرف ہوئے۔ زبیدہ عموماً لباس دیبا کا پہنتی جس کے استر میں سموریا قماش زربفت لگایا جاتا تھا اس کے کفش پامیں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے خلیفہ مامون نے ایک ہی دن میں چار لاکھ دینار خرچ کر ڈئے۔ جب یونان

کاسفیر آیا تو اپنی مجلس میں ایک درخت اطلالی کھڑا کیا جس میں موتیوں کے پھل لگے ہوتے تھے۔ دوسوا دیون سے زیادہ کے لیے چھٹیاں لکھیں تھیں جس نے اس چھٹی کو پایا اسکی چھٹی کی تحریر کے مطابق قطعہ زمین اور اس کی زراعت کے واسطے غلام وغیرہ مایحتاج مل گئے۔

کہتے ہیں کہ اس کے قصر میں اڑتالیس ہزار بساط تھے جن میں ساڑھے بارہ ہزار زرینتی اور اطلالی تھے نیز اس قصر میں سات ہزار خواجہ ہر تھے جنہیں سے تین ہزار زندگی تھے سات سو چوکیدار سپاہی تھے جو قصر کے باہر قصر کی حراست کرتے تھے۔

خلیفہ معتمد نے بغداد کے قریب تہرہ سارہ کو ایک اونچی زمین پر آباد کیا تھا اسکی آبادی میں بے انتہا روپیہ صرف کیا۔ اور اس میں گھوڑوں وغیرہ کے لیے صطیس بنائے تھے جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ گھوڑے باندھے جا سکتے ہیں خلفائے عباسیہ کی فحامت و شوکت حاصل ہو گئی تو شاہنشاہ عباسیہ بادشاہ فرانس نے ہارون الرشید کو تحفہ دیا بھیجے خلیفہ نے بھی اس کے مقابلہ میں اتمشہ نفیہ عطا کیا۔ اگ نکالنے والی لکڑی ایک ہاتھی اور ایک عظیم الشان خیمہ بھیجا اور ایک آواز دینے والی گھڑی بھیجی جسکا ذکر اوپر آچکا ہے۔

عہد بنی عباس میں برقی صنعت و حرمت و تجارت منصور سے لیکر متوکل تک مسلمانوں کی معاشرت اہمیت کمال پر پہنچ گئی تھی یہ مسلمات سے ہے کہ راستوں میں یوری سہولتیں حاصل تاجر محفوظ بری و بحری بار برداری کا انتظام معقول لاری

طوری تجارت میں ترقی ہونا چاہئے برکات خلافت نے رعایا ملک کو تحفہ امن وامان
 دے کر اپنی شان و شوکت کو انتہائے عروج پر پہنچا دیا تھا دارالخلافہ بغداد اعلیٰ
 شہریت میں ڈھلا ہوا تھا بغداد سے شام و مصر و صول۔ فارس حدود کاہل تک
 راستے محفوظ تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد تجارت کا مرکز بن گیا جس سے دولت و
 ثمول میں بے حد ترقی ہوئی بغداد کے بعد بصرہ تجارتی مٹھی تھا۔ کیونکہ بصرہ سے
 دجلے کے راستہ آمد رکھتی۔ اور بصرہ سے دوسری جگہ مال بھی جاتا تھا کھجوریں
 سفید کچی شکر فولاد روئی شیشہ آلات۔ کپڑا وغیرہ دوسرے ممالک جاتے
 اور دوسرے ملکوں ہندوستان اور چین تک سے مسلمان تجارتی مال لاکر بغداد
 کے بازار میں فروخت کرتے تجارتی گرم بازاری نے ملکی مصنوعات کی مانگ کو بڑھا دیا
 جگہ جگہ صنعتی کارخانہ کھل گئے اور کھوڑے عرصہ میں عربوں نے معمولی صنعتوں
 کو اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا۔ اور بہت سی اشیاء ایجاد کیں۔ گو بعض صنعتیں عہد
 نبی امیہ میں ترقی کی راہ پر لگ گئیں تھیں مگر عہد نبی عباس میں ان کو کمال تک پہنچا دیا
 صنعت پارچہ بانی کو سلمان بن عبدالملک کے زمانہ میں ترقی ہوئی۔
 چنانچہ مسعودی نے لکھا ہے۔

اور اس کے زمانہ میں یمن کو فہ اسکندریہ میں رنگیں اور عمدہ کپڑے
 بنے گئے اور لوگوں نے ان کپڑوں کے چبے چا دیں پا جامے عملے
 اور ٹوپیاں پہنیں۔

پارچہ بانی | چنانچہ عباسیوں کے زمانہ میں پارچہ بانی کی صنعت عروج پرتی

تک محدود نہ رکھتے تھے بلکہ بعض جانوروں کے مجسمہ بنا کر خلیفہ کے حضور پیش کرتے
جاتے مقریزی نے لکھا ہے کہ

مہر جان کے موقع پر ایک مرتبہ دربار خلافت کے ایک امیر کو
سونے کا بنا ہوا ہاتھی عطا کیا گیا تھا جسکی آنکھیں لعل کی تھیں ^{مثلاً}
فاطمی خلیفہ جو عہد بنی عباس میں مصر کے حکمران عرصہ تک رہے
انکے خزانہ میں اس قسم کی ضاعی کے نواد اڑھنی تعداد میں موجود
تھے مثلاً سونے کا ایک مور جسکی آنکھیں لعل بینی کی تھیں مینا کاری
شیشے (الزجاج المینا) کے پر تھے۔ اور ان پر سونے کا طبع کیا ہوا
تھا ایک مرغ تھا جسکی کلغی لعل مروارید اور دیگر جواہرات سے
مرصع تھی ایک ہرن تھا جس کے پیٹ کو سفید رنگ دینے کے لیے
موتیوں سے بنایا گیا تھا انے زیادہ قیمتی کھجور کا ایک درخت اور
طلانی باغ تھا جو ضاعی کے شاہکار سمجھے جاتے تھے تمام باغ سونے
اور چاندی سے بنایا گیا تھا اور جواہرات کی مینا کاری سے مرصع
تھا مقریزی نے ایک سنگ یشب کی چیز کا ذکر کیا ہے جو ما یہ
کہلاتی تھی۔

خلیفہ ہارون الرشید کے نیند پینے کے جام ”ہا و زہر“ کے تھے چھریوں
اور چھپوں کے دستے یشب اور عقیق کے تھے بلور صافی کے برتن سلیمی آفتابے بھی بنا
جاتے تھے۔

مثلاً مقریزی جلد ورق ۸، صفحہ ۲۵۵ مقریزی جلد ۶ صفحہ ۲۱۶

خلیفہ کے آئینہ کا پورا دستہ زمرہ کا تھا۔

ہاتھی دانت اور آبنوس کی شطرنج کے مہرے اور زرد سے کھیلنے والے کھیلوں کی نزدیں اور بساط بہت بنتی تھیں۔

ذہب، شکر (جالی دار) کام بھی چاندی سے کیا جاتا تھا۔

ہتھیاروں، تلواروں، بھالوں، خودوں، ڈھالوں وغیرہ پر سونے چاندی کا کام ہوتا تھا محلات شاہی و امر کے دولت کدوں کی دیواروں کو مزین کرنے کے لیے مٹلا و مذہب کرنے اور تصویریں بنانے کا رواج تھا اس سے اس صنعت نے بھی خوب ترقی پائی۔

گو عام رواج مصوری کا نہ تھا مگر اس فن میں بھی ترقی ہوئی سامرہ میں مصوری اور محلات تھے اس کی دیواروں پر تصاویر بنائی گئی تھیں۔ مقریزی نے بصرہ میں تصویر کشی کے فن کا ذکر کیا ہے۔ مصوروں کا ایک خاندان تھا جو بنو معلم کہلاتا تھا اس عہد کے مشہور مصور قیسر اور ابن عزیز تھے یہ دونوں وزیر بزرگ کے زمانہ میں تھے۔

مصوری کے ساتھ فن سنگ سازی اور لکڑی پر مینا کاری کو بھی فروغ ہوا مٹلا و مذہب عمارت کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ قلعی کتابوں میں بھی نقش رنگا کے کمالات دکھائے جاتے تھے مامون کے عہد میں اس فن کے بڑے بڑے ضلع تھے گو عہد بنی امیہ میں کاغذ سازی کے کارخانہ قائم ہو گئے تھے کاغذ سازی مگر عہد بنی عباس میں اسکو بڑا فروغ ہوا اس صنعت کا مرکز

دریائے نیل کے ڈیلٹا اور علاقہ دمیا طے کے چھوٹے ساحلی شہر میں تھا کیونکہ کاغذ
کے لیے پے پرس درخت کی ضرورت رہتی تھی وہ اس علاقہ میں بہت پیدا ہوتا تھا
پرس کو قافیہ عرب کہتے تھے اس سے جو کاغذ بنتا اس کو قرطاس کہتے تھے

معتصم کے زمانہ میں سامرا میں کاغذ سازی کا کارخانہ قائم ہوا یہی وجہ تھی
کہ کاغذ اس قدر بڑا رہا تھا کہ مستند کو فراہم کرنے کی دقت نہ تھی عہد بنی عباس
میں لاکھوں کتابیں تھیں خلفائے بنی عباس کا کتب خانہ مشہور ہے آج میں
صلح الدین کو کتب خانہ ملا جس میں دس لاکھ کتابیں تھیں بنی فاطمہ کے کتب
خانہ میں دو ڈھائی لاکھ کتابیں تھیں اور سپین کا کتب خانہ جدا تھا۔

غرض کہ کاغذ سازی کی صنعت کو بہت ہی فروغ ہوا۔

تاریخ و تمدن کے نقطہ نظر سے کاغذ کی صنعت اسکی تجارت اور اس کے
ساتھ ہی ساتھ لکھنے کے سامان کی ارزانی ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔

صنعت جلد بندی کا فروغ عہد مامون سے ابتدا میں

جلد سازی | بدنامی تھی۔ ان میں ایسا چمڑا لگایا جاتا تھا جو چونے سے

کمایا جاتا مگر کوفہ میں کجوروں سے۔ باعث کا تیار طریقہ ایجاد ہوا جس سے نرم اور
اچھا چمڑا بننے لگا جلدین تیار کرنے اور ان کو مزین کرنے میں بڑی صنعت لگائی

جانے لگی اور اس فن کو بڑی سرعت سے ترقی ہوئی قرآن مجید کی ایسی جلدیں بننے
لگیں کہ وہ سہرے نقش و نگار سے دیدہ زیب اور سونے کا ڈالا معلوم ہوتی تھیں

عہد بنی عباس میں بڑے بڑے کتب فروش تھے جن کے یہاں
کتب فروش بڑے بڑے خطاط کام کرتے تھے یا قوت حموی جو مخم ابلدان
 اور ارشاد الاریب کا مصنف ہے ایک کتب فروش کے یہاں کتابیں نقل کرتے
 پر مامور تھا بغداد کے ایک کتب فروش کے یہاں تین سو تہل قلمی کتابیں بکری کے
 لیے تھیں ابن ندیم نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ

ابتداءً عہد اسلام کے بہت سے مشہور تاریخی اشخاص کی
 تحریریں اس کے پاس محفوظ تھیں

عہد بنی عباس میں کثرت سے کتابیں تصنیف و تالیف ہوئیں ان کی
کتابت انقول کے لیے ہزار ہا کتاب پیدا ہو گئے جسکی وجہ سے خوش نویسی کو
 بڑا فروغ ہوا۔

مامون کے عہد خلافت میں جب علم و ادب کی کتابوں کی تالیف و تصنیف
 و تجارت کا زور ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ طرز تحریر کے خوش نمائے بنانے پر بھی توجہ
 ہوئی مشہور عالم و مدیر وزیر ابن مقلہ متوفی ۳۲۸ھ نے عربی رسم الخط کو مدد و راد
 خوبصورت بنانے پر خاص توجہ کی اس کے بعد ابن بواب متوفی ۳۲۳ھ مشہور
 خوش نویسی تھا جس نے حروف کو مدد و راد پر جوڑنے کے عمل کو مکمل کر کے رسم الخط
 کی خوش نمائی کو کمال پر پہنچا دیا مشہور خطاط یا قوت متوفی ۳۱۸ھ نے اور بھی
 اس میں کمال دیکھایا۔

عطر سازی عربوں کی نفاست طبع نے عطر سازی کو ترقی دی۔ ایران

۸۴ صفحہ ۳۰۵ مسلمانوں کی صنعت و عزت زراعت تجارت صفحہ ۸۴

کے علاقہ فارس اور خاص کر خورستان عطریات بنانے کے لیے مشہور تھا اس کے علاوہ سر میں خوشبودار تیل ڈالنے کا کارخانہ ایران کے شہر گور میں تھا اور ہرے بور میں بھی عمدہ خوشبودار تیل بنتا تھا کوفہ میں گل شہر اور گل بنفشہ کا تیل تیار ہوتا خوش بودار تیلوں اور عطروں کے بنانے کی صنعت بہت جلد ان تمام ملکوں میں جو خلافت بنی عباس کے محروسہ میں شامل تھے وہاں عام ہو گئی۔

بعض خلفائے بنی عباس کو زراعت سے دلچسپی تھی چنانچہ

زراعت و فلاح حکومت کی طرف سے زراعت پیشہ لوگوں کو بڑی ہولنا

بہم پہنچائی جاتی دیہائے فرات کے کنارے زرعی خطے کچھ عرصہ میں بن گئے مصر سے چاول لاکران علاقوں میں بویا گیا ماشدین میں ہوتی تھی وہ دوسرے ملکوں میں بونی جانے لگی گنے کی کاشت کو بھی ترقی ہوئی قطن عموماً بابلو میں آباد ہوتی تھی وہاں سے دوسری جگہ پہنچائی گئی مختلف درختوں اور نباتات کی داشت و پر داخت اور انہیں دوردراز ملکوں میں عربوں نے رونج دیا۔

عہد بنی عباس میں آب پاشی کو بھی بڑی ترقی ہوئی نہریں جگہ جگہ جاری کیں بغداد کی نہر صراط میں ایک پن چکی تھی جو

آب پاشی

تیز چلتی تھی اسے رھا البطریق کہتے تھے

زعفران کو اہل عرب نے اپنے مالک میں خود کاشت کی۔ حنا کا پودا عربوں

رنگ کی کوشش سے دنیا میں پھیلا۔

شیشہ شیشہ بنانے کی صنعت کو عہد عباسیہ میں بڑا فرغ ہوا

کاشیشہ مشہور تھا خاص بغداد میں بھی اس صنعت نے فرغ حاصل کیا
صنعت شیشہ سازی کو جلدی ہی فن لطیف کا درجہ حاصل ہو گیا
بہت سا بیش قیمت سامان تملیش و کلائی شیشے سے بنے لگا۔
شیشہ پر مینا کاری کا رواج بھی ہو گیا بغداد میں اس کے کارخانے
تھے مقرزی نے لکھا ہے۔

فاطمین مصر کے خزانہ میں ایک بلوری جام تھا جو تین سو ساٹھ
دینار کا فروخت ہوا تھا

عراق میں سفید شیشہ کی تزیین بنتی تھی جو مساجد میں مانگی تھی
امرا بنی عباس کے یہاں شیشہ آلات کا رواج بہت بڑھا ہوا
تھا چنانچہ فاطمین مصر کے یہاں کے شیشہ کے برتن وغیرہ اٹھارہ ہزار
میں فروخت کئے گئے

کائیں | عبد بنی عباس میں لہے وغیرہ کی کائیں بھی کھدوائیں چنانچہ سب
سید یو لکھتا ہے

خلفائے عباسیہ نے کائیں بھی نکلوائیں خراسان میں لہے
کی کان کھتی کرمان میں سیسہ کی کان تھی۔

انھوں نے قار اور لفظ دہلی کائیں نکلوایا چینی کے برتنوں کی
مٹی پیدا کی طورس کا سنگ مرمر۔ اندارانی نمک اور گندھک
عربوں نے ہی برآمد کئے تھے

لوہے کے بالعموم برتن بنانے کے کارخانہ قائم ہوئے فرخانہ
کارخانہ آہن اس کے لیے مشہور تھا یہیں سے لوہے کی اشیا بن کر بغداد
 آتیں اور بکیتیں لے

بحرین۔ عمان یمن اور فاص کر عرات میں ہتھیار اور نذہیں تیار ہوتی
 تھیں۔ یمن کی سیف مشہور تھی دمشق میں اس کے بڑے کارخانہ تھے یہیں
 بنتی۔ ایران میں برچھوں کا کارخانہ تھا۔
 مغلاد مذہب جو سن بنتے تھے۔

اس کے علاوہ نوکا د سے اسلحہ بھی بنائے جاتے تھے
 غرضکہ عہد نبی عباس کے عربوں نے بالعموم دھاتوں کے کام میں اتنی
 ترقی کی تھی کہ اسے انتہائی کمال کو پہنچا دیا تھا۔
 مسلمانوں کی صنعت و حرفت پر ایک ضخیم جلد لکھی جاسکتی ہے مگر بس
 جگہ صرف مختصر عہد عباسیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

تاریخِ مملکت

جلد ششم

خلافتِ نبی عظیم

حصہ دوم

متوکل باللہ سے مستعصم باللہ تک

تالیف

مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی

بمطابق تصنیف و تصحیح
ندوۃ امین دہلی